

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَيْخ

بَلُوغُ الْجَمَامِ

مِنْ أَدَلَّةِ الْأَحْكَامِ

كِتَابُ الْجَامِعِ

مُصَنَّفٌ

حَافِظُ ابْنِ حَجْرٍ الْعَسْطَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

مُتَرَجِّمٌ وَشَايِعٌ

فَضِيلَةُ الْأَشَاذِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَفْظَانَهُ

كَارِهُ الْأَدْبَاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

ماہِ انعام
طب کے امتحان میں اول
پوزیشن لئے پیر
مفتی صاحب کلاس
المحدث

اِسْمِعْنِي حَسْبَ الْحُسُوَامِ
كَفَانَ هَبْرُوكَ قَاتِلَهُ
كَالنَّارِ تَأْكُلُ بَعْضُهَا
اِنَّ لَمْ يَجِدْ مَا تَأْكُلُ

اَلِ

مَارِ

لَا

فَطْلُهَا

شرح

بلوغ المرام

من زاد الترتيب الاحكام

کتاب اربع

www.KitaboSunnat.com

مصنف

امام حافظ ابن حجر العسقلانی

مترجم و شرح

فضيلة الشيخ عبد السلام بن عوف

بلا الا ان لا يس

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب شرح کتاب الجامع من بلوغ المرام
من أدلة الاحکام

مصنف

امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ

مترجم و شارح

الشیخ عبدالسلام بن محمد

تعداد ایک ہزار
اشاعت چہارم مئی 2002ء
ناشر دارالاندلس

ملنے کا پتہ

مسجد القادسیہ 4 لیک روڈ چوہدری لاہور فون 7131106-7240940
دارالاندلس 94۔ ٹیمپل روڈ بالمقابل باناشوز مزرگ لاہور فون: 7225326

نیز جماعۃ الدعوة کے تمام مقامی دفاتر سے بھی دستیاب ہے۔

فہرست

13	عرض ناشر
14	مقدمہ
18	ادب کا بیان
18	مسلمان کے مسلمان پر حق
19	سلام
20	دعوت قبول کرنا
20	خیر خواہی
29	اپنے سے کم نعمت والوں کی طرف دیکھو
31	گناہ اور نیکی کی پہچان
34	دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں
36	کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر مت بیٹھیں
38	کھانا ختم کرنے پر ہاتھ چاٹنے کی تاکید
40	سلام کے آداب
42	ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر سلام کا طریقہ

- 44 چھینک کا جواب
- 45 کھڑے ہو کر پانی پینا
- 49 جو تاپہنے اور اتارنے کے آداب
- 50 ایک جو تاپہن کر چلنا منع ہے
- 52 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لگانا
- 61 کھانے پینے اور پہننے میں فضول خرچی اور تکبر جائز نہیں
- 65 نیکی اور (رشتہ داری) ملانے کا بیان
- 65 رشتہ داری قائم رکھنے کے فائدے
- 69 رشتہ داری کو توڑنے والے کا انجام
- 75 والدہ کی ایذا رسائی حرام ہے
- 78 اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے
- 82 مسلم بھائی کیلئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو
- 84 سب سے بڑے گناہ
- 87 ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے
- 89 تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا حلال نہیں
- 91 ہر اچھا کام صدقہ ہے
- 92 معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو
- 93 ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ
- 94 مسلمان کی مدد اور پردہ پوشی کی فضیلت

97

نیکی کا راستہ دکھانے کا اجر

98

اللہ کے نام پر کیا گیا سوال رد نہ کیا جائے

www.KitaboSunnat.com

101

دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان

101

مشتبہ امور سے بچنے کا حکم

104

پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا

106

دنیا میں پردہسی یا راہ گیر کی طرح رہو

108

غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو

109

صرف اللہ سے لو لگاؤ

114

اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

116

اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے

119

آدمی کے اسلام کی خوبی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا ہے

121

پیٹ بھر کر کھانے کی مذمت

124

خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں

126

خاموشی دانائی ہے

129

برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان

129

حسد کا علاج

133

اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پائے، غصے پر قابو پانے کا طریقہ

- 136 ظلم کا انجام
- 139 ظلم اور کنجوسی سے بچو
- 143 شرک اصغر - ریاء
- 150 منافق کی علامات
- 155 مسلمان کو گالی دینے اور اس سے لڑنے پر وعید
- 160 بدگمانی سے بچو
- 163 اپنی رعیت کو دھوکا دینے والے پر جنت حرام ہے
- 167 امت محمدیہ پر مشقت ڈالنے والے حاکم کیلئے رسول اللہ ﷺ کی بددعا
- 173 مسلمان کو چہرے پر مارنا منع ہے
- 177 غصہ سے اجتناب کا حکم
- 180 اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کا انجام
- 181 ایک دوسرے پر ظلم مت کرو
- 183 غیبت کیا ہے؟
- 188 اخوت ایمانی کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت
- 192 چار بری چیزوں سے بچنے کی دعا
- 194 جھگڑے، مذاق اور وعدہ خلافی کی ممانعت
- 198 بد خلقی اور بخل کی مذمت:
- 200 گالی میں پہل کرنے والے کے لئے وعید
- 202 مسلمان کو نقصان پہنچانے اور اس کی مخالفت کرنے کا وبال

- 203 بد زبانی کرنے والے بے ہودہ بکتے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے
- 206 فحش گوئی، بد کلامی اور لعن طعن کرنا مومن کی شان نہیں
- 210 فوت شدہ لوگوں کو گالی مت دو
- 212 خن چیں جنت میں نہیں جائے گا
- 214 غصے پر قابو پانے کی فضیلت
- 216 دھوکے باز، بخیل اور مالک ہونے کے لحاظ سے برا شخص جنت میں نہیں جائے گا
- 217 ان لوگوں کی بات پر کان لگانے کی سزا جو اسے پسند نہیں کرتے
- 219 دوسروں کی بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے
- 220 بڑائی اور عظمت صرف اللہ کی صفت ہے
- 222 جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے
- 226 اصل نحوست بد خلقی ہے
- 227 بہت لعنت کرنے والے شفاعت اور شہادت سے محروم رہیں گے
- 228 گناہ کا عار دلانا
- 229 لوگوں کو ہنسانے کیلئے جھوٹ بولنا بھی ہلاکت کا باعث ہے۔
- 232 غیبت کا کفارہ
- 233 اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہٹ دھرم جھگڑالو شخص ہے
- 235 اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان
- 235 سچ کی خوبی اور جھوٹ کی برائی
- 238 گمان سے بچو

- 239 راستے کے حقوق
- 242 دین کی سمجھ کی فضیلت
- 244 ترازو میں اچھے خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں
- 245 حیاء ایمان سے ہے
- 247 ایک ایسی بات جو پہلی نبوتوں سے چلی آ رہی ہے
- 248 جدوجہد کی ترغیب اور نقصان پہنچنے پر تقدیر پر قناعت کی تلقین
- 256 تواضع اختیار کرنے کا حکم
- 258 مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرنے کی فضیلت
- 259 اسماء بنت یزید کی حدیث
- 261 وہ تین چیزیں جن سے مال، عزت اور رفعت میں اضافہ ہوتا ہے
- 264 جنت میں داخلے کے اعمال
- 267 دین نصیحت کا نام ہے
- 270 جنت میں لے جانے والے عمل
- 271 حسن خلق
- 274 مومن، مومن کے لئے آئینہ ہے
- 275 لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت
- 277 حسن صورت کے ساتھ حسن خلق کے لئے دعا
- 279 **ذکر اور دعا کا باب**
- 283 ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے

- 285 عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل ذکر الہی ہے
- 290 مجالس ذکر کی فضیلت
- 294 ذکر اور صلاۃ سے خالی مجالس باعث حسرت ہوگی
- 295 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ (الخ) کہنے کی فضیلت
- 301 سبحان اللہ و بجمہ کی فضیلت
- 302 سبحان اللہ و بجمہ پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ
- 308 الباقیات الصالحات
- 309 اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب کلام
- 311 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی فضیلت
- 312 دعایں اصل عبادت ہے
- 312 عبادت کا مغز
- 313 اللہ کے ہاں عزت والی چیز --دعا--
- 315 اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی
- 316 ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا
- 321 دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا
- 322 نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت
- 325 سید الاستغفار
- 388 وہ کلمات جو رسول اللہ ﷺ صبح و شام نہیں چھوڑا کرتے تھے
- 330 مختلف مصائب سے پناہ کی دعا

- 334 اسم اعظم
- 337 صبح و شام کے وقت دعا
- 338 دین و دنیا میں بھلائی کی دعا
- 340 ہر قسم کے گناہوں سے بخشش کی دعا
- 342 دین و دنیا کی اصلاح کے لئے دعا
- 343 علم نافع کے لئے دعا
- 344 زیادہ علم کی دعا
- 345 تمام بھلائیوں کے حصول اور تمام برائیوں سے پناہ کیلئے جامع دعا
- 347 اللہ تعالیٰ کو محبوب دو کلمات



عرض ناشر


بلوغ المرام من اولدۃ الاحکام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور متداول حدیث کی کتاب ہے۔ یہ مختصر اور جامع مجموعہ احادیث ہے۔ جس میں طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، جہاد و قتال غرض تمام ضروری احکام و مسائل پر احادیث کو فہمی انداز پر جمع کر دیا گیا ہے۔ ”کتاب الجامع“ اسی کتاب کا ہی ایک حصہ ہے جس میں آداب و اخلاق سے متعلق احادیث نبویہ جمع کی گئی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ کتاب الجامع کی ایک ایک حدیث کو گھر گھر میں سبقاً سبقاً پڑھا پڑھایا جائے، یہ تربیت کا بہترین نصاب ہے۔ دارالاندلس جو کہ مرکز الدعوة والارشاد کا اشاعتی ادارہ ہے، کے تحت عربی متن کے ساتھ کتاب الجامع کا ایک خوبصورت کتابچہ الگ شائع کیا جا چکا ہے جو المعهد العالی مرکز طیبہ مرید کے طلباء کے علاوہ معسکرات اور دیگر تدریسی حلقوں میں تربیت کے نقطہ نگاہ سے پڑھایا جاتا ہے۔

محترم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الجامع کا ترجمہ، تخریج احادیث اور پھر احادیث کی تشریح کر کے اس کو ہر آدمی کے استفادے کے قابل بنا دیا ہے۔ ترجمہ و تشریح سادگی و سلاست کا حسین مرقع ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی استاد سے سبق پڑھ رہے ہوں۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس معیاری کتاب کو طباعت کے اعلیٰ ترین معیار پر چھاپا جائے۔ اس کے لئے عربی متن اور اردو عبارت الگ الگ کمپوز کر کے جوڑا گیا ہے۔ پروف ریڈنگ میں ہرے فاضل دوست مولانا محمد افضل صاحب استاد جامعۃ الدعوة مرید کے نہایت محنت و لگن سے کام کیا ہے۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء امید ہے یہ کتاب اصلاح و تربیت کے طور پر پڑھی پڑھائی جائے گی اور مصنف، مصحح وغیرہ کے لئے باعث اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ بنے گی۔

ابو عبد الرب

مدیر النشر والتالیف

مرکز الدعوة والارشاد



مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
 يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
 تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿آل عمران ۳/۱۰۲﴾ ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ
 اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿النساء ۱/۴﴾
 ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصَلِّحْ لَكُمْ
 أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
 عَظِيمًا﴾ ﴿الأحزاب ۳۳/۷۰﴾ ﴿أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
 وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا وَكُلُّ مُخَدَّنَةٍ
 بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ

تقریباً سات سال پہلے مرید کے میں جامعۃ الدعوة الاسلامیہ کی ابتداء ہوئی تو معتمد کے
 پہلے سال کے نصاب میں حدیث کے لئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب
 بلوغ المرام من اولیۃ الاحکام میں سے کتاب الجامع اور دوسرے سال کے لئے باقی کمال
 کتاب تجویز کی گئی۔

مجھے شروع ہی سے بلوغ المرام سے خاص محبت ہے جو والد مرحوم حافظ محمد ابوالقاسم
 کے پڑھانے سے پیدا ہوئی۔ والد صاحب کے علاوہ میں نے ان کے اور مولانا عطاء اللہ

حنیف رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ بڑھیمالوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمد اسحاق صاحب حفظہ اللہ اور دوسرے بے شمار علماء کرام کے استاذ مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بلوغ المرام کے کچھ حصے کی ترکیب نحوی پڑھی۔ وہ دارالحدیث اوکاڑہ میں شیخ الحدیث تھے اور عمر کے آخری حصے میں تھے میرا بچپن تھا اور میں ان کے شاگرد کا بیٹا تھا۔ صبح بخاری پڑھانے کے بعد مجھے بلا لیتے اور نہایت شفقت سے بلوغ المرام کی ترکیب کرواتے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کو بہترین جزاء عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔

تعلیم حاصل کرنے سے فارغ ہوا تو جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں پڑھانے لگا تقریباً ستائیس سال وہاں پڑھانے کے دوران کئی دفعہ بلوغ المرام پڑھائی اور ہر دفعہ نئے ذوق و شوق سے پڑھائی۔

بلوغ المرام کی عربی میں تو کئی شرحیں موجود ہیں۔ مثلاً سبل السلام، توضیح الاحکام، فقہ الاسلام وغیرہ۔ فارسی میں نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کی منک الختام موجود ہے اردو میں مولانا عبدالنواب ملتانی اور مولانا سلیمان کیلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے تراجم ملتے ہیں جن کے ساتھ نہایت مختصر سہا شہیہ ہے۔ مولانا صدیق صاحب سرگودھا والوں نے ایک مبسوط شرح لکھنی شروع کی مگر وہ بالکل ابتداء میں رہ گئی۔ ایسے حالات میں بلوغ المرام کی اردو شرح باقی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کام کیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی طور پر بلوغ المرام کے آخری حصے کتاب الجامع کی احادیث کی شرح لکھنی شروع کی جو کہ آداب و اخلاق اور ذکر و دعا پر مشتمل ہے۔ احادیث کی یہ تشریح لکھنے کے ساتھ ساتھ مرکز الدعوة کے مجلہ ”الدعوة“ میں بھی شائع ہوتی رہی۔ اب مرکز کے اشاعتی ادارہ دارالاندلس کی طرف سے اسے شائع کیا جا رہا ہے۔

میں نے کتاب کے متن کے لئے مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز الریاض کی شائع کردہ سبل السلام میں سے بلوغ المرام کو اصل رکھا ہے۔ اس کی تخریج و تحقیق حازم علی بہجت القاضی نے حاشیہ پر کی ہے۔ میں نے تخریج میں وہیں سے کتب احادیث کے صفحات اور احادیث کے نمبر نقل کئے ہیں۔ محشی نے ہر حدیث پر صحیح یا ضعیف کا حکم لگایا ہے میں نے اکثر ان

کے حکم کے مطابق لکھا ہے جہاں مجھے اتفاق نہیں تھا، وہاں میں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے ان کی موافقت نہیں کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کے ساتھ ”صحیح“ لکھنے کا تکلف نہیں کیا وہ بالاتفاق صحیح ہیں۔

اس کے علاوہ میں نے اس میں جن چیزوں کا خیال رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر پوری کتاب کی شرح کی توفیق دی تو کتاب کی ابتداء میں عرض کروں گا۔ ویسے امید ہے کہ قارئین کو کتاب کے بغور مطالعے سے خود بخود بھی وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ اسے میرے لئے اور سب بھائیوں کے لئے دنیا اور آخرت میں نافع بنائے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

عبد السلام بن محمد بھٹوی

جامعۃ الدعوة الاسلامیۃ

مرکز طیبہ مرید کے ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۰ھ



ضروری وضاحت

کتاب الجامع من بلوغ المرام کے اعراب اس طرز پر لگائے گئے ہیں جو تمام عرب ممالک میں رائج ہیں، پاک و ہند کے قارئین کو اس میں سے بعض اعراب اجنبی معلوم ہونگے۔ ان کی سہولت کے لئے دونوں کے فرق کی وضاحت درج کی جاتی ہے۔

عرب ممالک کا طرز اعراب	پاک و ہند کا طرز اعراب	تفصیل
أ	ا	الف پر زیر جیسے
إ	ا	الف پر زیر جیسے
أ	ا	الف پر پیش جیسے
رَبِّ (تشدید کے نیچے زیر)	رَبِّ	حرف مشدد کے نیچے زیر
مُوسَى	مُوسَى	کھڑا زیر۔ جیسے
الله	الله	لفظ اللہ جیسے
رَحْمَن	رَحْمَن	لفظ رحمن جیسے
بِه	بِه	کھڑی زیر۔ جیسے
لَهُ	لَهُ	اُلٹا پیش۔ جیسے



www.KitaboSunnat.com

کتاب الجامع

اس کتاب میں انسان کی اصلاح سے تعلق رکھنے والے چھ ابواب جمع کئے گئے ہیں جن سے نفس کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔

- | | |
|--|--|
| ادب کا بیان | بَابُ الْأَدَبِ ① |
| نیکی کرنے اور رشتہ داری ملانے کا بیان | بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَاةِ ② |
| دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان | بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ ③ |
| برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان | بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنْ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ ④ |
| اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان | بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ⑤ |
| ذکر اور دعاء کا بیان | بَابُ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ ⑥ |



بَابُ الْأَدَبِ

ادب کا بیان

الْأَدَبُ: یہ ادب یا ادب (س) اور اَدْبُ يَأْدُبُ (ک) کا مصدر ہے اَدْبُ الرَّجُلُ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی علم یا اچھی عادت میں پختہ ہو جائے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں ادب قابل تعریف اقوال و افعال عمل میں لانے کا نام ہے بعض نے کہا اچھے اخلاق اختیار کرنا ادب ہے۔ بعض نے کہا کہ چھوٹے سے نرمی اور بڑے کی تعظیم ادب ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مَأْدِبَةٌ سے ماخوذ ہے جس کا معنی دعوت طعام ہے کیونکہ ان اخلاق کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انتہی اگر غور کریں تو ان تمام حضرات نے ایک ہی مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔

مسلمان کے مسلمان پر حق

۱/۱۳۵۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حق مسلمان پر چھ ہیں جب تو اس سے ملے تو سلام کہہ، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا، جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے ((بَرَخَمَكَ اللَّهُ)) کہہ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر اور جب فوت ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا۔)

تفصیل: صحیح مسلم، السلام، ۵۔ اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۰/۲۲۳)

اسلام باہمی اخوت کا دین ہے۔ ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) ”مومن بھائی ہیں“ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں جن میں سے یہ چھ بہت اہم ہیں۔ حق المسلم کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مسلمان کے ذمے مسلمان کا حق ہیں کافر کا حق نہیں ہیں۔ اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی جاتی ہے۔

سلام: ۱ سلام کے متعلق سب سے قوی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ (الحشر ۵۹/۲۳)

”وہ بادشاہ، نہایت پاک، سلام، امن دینے والا، غالب (ہے)“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہتے:

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ السَّلَامُ عَلَى
مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ

”یعنی اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو جبرئیل پر سلام ہو میکائیل پر سلام ہو فلاں پر سلام ہو۔“

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ پھیر کر فرمایا ((السَّلَامُ عَلَى

اللَّهُ» "اللہ پر سلام ہو" مت کو کیونکہ اللہ خود سلام ہے۔ الحدیث (متفق علیہ مشکوٰۃ باب الشہد) سلام کا معنی وہ ہستی جو ہر عیب اور نقص سے سالم ہے اور جو سب کو سلامتی دینے والا ہے اور السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ سلام (اللہ تعالیٰ) تم پر سایہ لگن رہے، تمہارا نگہبان اور محافظ رہے جس طرح کہا جاتا ہے «اللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَصْحَبُكُمْ» "اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو اللہ تمہارا ساتھی ہو۔"

بعض کہتے ہیں سلام بمعنی «سَلَامَةٌ» ہے یعنی «سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ اسے اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا کیونکہ جو شخص اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے وہ خود تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟

② "جب مسلمان سے ملے اسے سلام کہے" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدا ہوتے وقت سلام کی ضرورت نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيَسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيَسَلِّمْ فَلْيَسَلِّمْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» (صحیح - مسند أحمد، ابوداؤد، الترمذی وغیرہم عن ابی ہریرۃ وصحیح الجامع الصغیر ۴۱۰)

"جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کہے اگر اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ جائے پھر جب اٹھے تو سلام کہے کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے۔"

③ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہا «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» آپ نے سلام کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "دس" (نیکیاں) پھر ایک اور آیا اس نے «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہا آپ نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا: "بیس" پھر ایک اور آیا اس نے کہا «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» آپ نے فرمایا: "تیس" (صحیح ابوداؤد و الترمذی عن عمران بن حصین دیکھئے ابوداؤد باب کیف السلام)

سلام کے کامل الفاظ اتنے ہی ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔
 ((وَمَغْفِرَتُهُ)) کے اضافے کی روایت ابوداؤد میں ہے جس کے متعلق منذری نے فرمایا اس
 میں ابو مرحوم عبدالرحمن بن میمون اور سہل بن معاذ دو راوی ہیں ((لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا)) ان
 کے ساتھ دلیل نہیں پکڑی جاتی (عون باب کیف السلام) اور دیکھئے ضعیف ابوداؤد اسی
 طرح ((وَدِضْوَانُهُ)) کے الفاظ بھی سلام کے ساتھ ثابت نہیں۔

4 جب کوئی شخص سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہئے یا کم از کم اتنا جواب
 ضرور دینا چاہئے (نساء ۸۶)

5 اگر تھوڑی دیر کے لئے کسی سے علیحدہ ہو تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہے رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے پھر اگر ان
 کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے تو دوبارہ ملنے پر پھر اسے سلام
 کہے۔ (صحیح ابوداؤد، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما ۴۳۳۲)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس فرمان پر بہت اہتمام سے عمل کرتے تھے وہ صحابی جس نے نماز
 اطمینان سے نہیں پڑھی تھی جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ نے اسے واپس
 بھیجا کہ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تین دفعہ ایسا ہی ہوا تو اس نے ہر مرتبہ آکر
 پہلے سلام کہا تھا حالانکہ وہ مسجد میں ہی تھا اور رسول اللہ ﷺ بھی مسجد میں تھے۔ (بخاری
 و مسلم)

6 جو شخص قضائے حاجت میں مشغول ہو اسے سلام نہیں کہنا چاہئے۔ جابر بن عبد اللہ
 رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیشاب کر رہے تھے ایک آدمی گزرا اور
 اس نے سلام کہا آپ نے فرمایا:

«إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِن
 فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ» (ابن ماجہ باب الرجل یسلم علیہ وهو یبول -

صحیح ابن ماجہ ۲۸۲)

”جب تم مجھے اس جیسی حالت میں دیکھو تو مجھے سلام مت کہو کیونکہ اگر تم ایسا کرو

گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔“

7 نماز پڑھنے والے کو سلام کہنا چاہیے البتہ وہ نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے زبان سے نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ الْتَزِمْدِيُّ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ (اور دیکھئے صحیح الترمذی ۳۰۲ اور صحیح ابن ماجہ ۱۰۱۷) اگر نمازی کو سلام کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ منع فرمادیتے۔ البتہ نماز کی حالت میں سلام آہستہ کے جس سے نمازی کو تکلیف نہ ہو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تو لوگوں کو بلند آواز سے قراءت کرتے ہوئے سنا آپ نے پردہ ہٹا کر فرمایا:

«أَلَا إِنَّ كَلِّكُمْ مَنَاجٍ رَبِّهِ فَلَا يُؤْذِنَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ»

”یاد رکھو تم سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو اس لئے ایک دوسرے کو تکلیف ہرگز نہ دو اور قراءت میں یا فرمایا کہ نماز میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرو۔“ (ابوداؤد - التطوع) اور دیکھئے صحیح ابی داؤد - ۱۱۸۳

8 بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضوء کر رہا ہو اسے سلام نہ کہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جب نمازی کو سلام کہہ سکتا ہے تو اس سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے۔

دعوت قبول کرنا: ”جب تجھے بلائے تو اس کے پاس جا۔“ الفاظ عام ہیں کسی مقصد کے لئے بھی مسلم بھائی بلائے اس کے پاس جانا حق ہے مثلاً وہ مدد کے لئے بلائے یا مشورہ طلب کرنے کے لئے یا کھانے کے لئے غرض کسی بھی جائز کام کے لئے بلائے اس کی دعوت قبول کرنا اس کا حق ہے۔ خاص طور پر اگر اسے مدد کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ»

”ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔“

دعوت ولیمہ میں جانے کی خاص تاکید آئی ہے اور نہ جانے پر وعید آئی ہے۔ آپ نے دعوت ولیمہ کے متعلق فرمایا:

«وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

”جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔“

ہاں اگر دعوت میں کوئی نامناسب کام دیکھے تو واپس آجائے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک قالین خریدا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس قالین کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے آپ کے لئے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں گے اور نکیہ لگائیں گے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو اور فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ (بخاری کتاب النکاح)

ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے گھر میں تصویر دیکھی تو واپس چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی۔ وہ آئے تو گھر کی دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عورتوں نے ہم سے زبردستی یہ کام کرا لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کسی اور پر یہ خطرہ تو ممکن ہے تمہارے متعلق یہ خطرہ نہ تھا اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا چنانچہ واپس چلے گئے۔ (بخاری کتاب النکاح)

اگر پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو دعوت قبول کرنا لازم نہیں۔

﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (ہود ۱۱۳/۱۱۴)

”اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔“

ہاں اگر ایسی جگہ جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم میں ایک جماعت ہونی چاہئے جو خیر کی دعوت دیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔“ (آل عمران-۱۰۴)

خیر خواہی! مسلم بھائیوں کی خیر خواہی ہر حال میں ہی ضروری ہے ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مومن کے یہی چھ حق بیان کئے گئے ہیں اور خیر خواہی کے متعلق فرمایا: ((وَيَنْصَحُ لَهٗ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ)) ”کہ وہ حاضر ہو یا غائب ہو اس کی خیر خواہی کرے۔“ (حدیث: ۲۷۳)

یعنی حاضر ہے تو اس کی جھوٹی تعریف، چاپلوسی اور منافقت نہ کرے غلط مشورہ نہ دے نہ ہی دھوکا دے اگر غائب ہے تو اس کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، بدخواہی نہ کرے غرض کہ ہر حال میں اس کی بھلائی کی فکر کرے۔

((اِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْهُ)) سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی مشورہ پوچھے تو اس وقت اسے درست مشورہ دینے اور اس کی خیر خواہی کرنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔

چھینک پر الحمد للہ کہنے کا جواب: چھینک کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ)) کہے اس کا بھائی یا ساتھی اسے ((بَرَ حَمَلُكَ اللّٰهُ)) کہے جب وہ ((بَرَ حَمَلُكَ اللّٰهُ)) کہے تو یہ کہے ((يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْرِ)) ”اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔“ (بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

② چھینک آنے پر کم از کم الحمد للہ کہنا واجب ہے۔ اگر اس کے ساتھ ((عَلَى كُلِّ حَالٍ)) پڑھا جائے تو بہتر ہے ترمذی میں ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو یوں کہے ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ))

حَالِ)) ”دیکھئے صحیح الترمذی۔ ۲۲۰۲“

② عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے۔ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) جواب دینے والا کہے ((بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ)) اور وہ خود کہے ((يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ)) صحیح الاسناد موقوف صحیح الادب المفرد ۷۱۵-۷۱۶ (۹۳۳) یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

③ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص چھینک سن کر کہے ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى سَكَلِ حَالٍ مَا كَانَ)) اسے کبھی ڈاڑھ اور کان کا درد نہیں ہوگا (الادب المفرد للبخاری ۹۲۶)

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے رجال ثقات ہیں اور اس جیسی بات رائے سے نہیں کہی جاسکتی اس لئے یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ (فتح الباری) مگر شیخ البانی نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ کیونکہ یہ ابو اسحاق سبیعی کی روایت سے ہے اور انہیں اختلاط ہو گیا تھا۔ اس لئے حافظ نے بھی اسے صحیح نہیں کہا (ضعیف الادب المفرد ۱۳۸/۹۲۶)

④ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا۔

«الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى»

”ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گنتی ہے جس پر برکت نازل کی گئی ہے۔ جس طرح ہمارا رب محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: نماز میں یہ الفاظ کس نے کہے ہیں۔۔۔ تین دفعہ پوچھا۔۔۔ میں نے عرض کیا۔ میں نے کہے ہیں آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمیں سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے بڑھے کہ ان میں سے کون اسے لے کر اوپر چڑھے۔ [حسن] صحیح ابی داؤد ۷۰۰ و صحیح

(ترمذی ۳۳۱)

اس سے معلوم ہوا چھینک آنے پر یہ الفاظ کہے تو اور زیادہ ثواب ہے۔

④ نماز میں چھینک آنے پر بھی الحمد للہ ضرور کہنا چاہئے جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں مذکور ہے۔ البتہ نماز کے دوران کسی دوسرے کو جواب دینا جائز نہیں کیونکہ یہ دوسرے آدمی سے خطاب ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز میں لوگوں کے کلام میں سے کوئی چیز درست نہیں وہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قراءت ہے۔ (مسلم)

⑤ جو شخص چھینک آنے پر الحمد للہ نہ کہے اسے یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ (بخاری باب لا یبشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ)

⑧ غیر مسلم اگر چھینک آنے پر الحمد للہ کہے تو اسے «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» نہیں کہنا چاہیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس چھینکتے اور امید کرتے کہ آپ انہیں «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» کہیں گے مگر آپ انہیں یہی کہتے: «يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْرِ» (صحیح ابی داؤد ۴۲۱۳ و صحیح الترمذی)

⑨ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کا قول اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان مروی ہے کہ اپنے بھائی کو تین دفعہ يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہو۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو زکام ہے۔ (صحیح ابی داؤد۔ ۴۲۱۰)

⑩ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو چھینک آتی تو اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور چھینکتے وقت اپنی آواز کو پست رکھتے۔ (صحیح ابوداؤد ۴۲۰۷ و صحیح الترمذی)

⑪ چھینک آنے پر الحمد للہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چھینک سے دماغ میں رکے ہوئے فضلات و بخارات خارج ہو جاتے ہیں اور دماغ کی رگوں اور اس کے پٹھوں کی رکاؤٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس سے انسان بہت سی خوفناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا

ہے۔ اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو ہر اس مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہے اور جمائی شیطان سے ہے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب وہ ”ہا“ کہتا ہے تو شیطان اس سے بنتا ہے۔ (بخاری کتاب الادب) صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے۔

بیمار پر سی: ① مسلمان کی بیمار پر سی واجب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے بابٌ وَجُوبُ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ اور اس پر کئی احادیث سے استدلال فرمایا ہے۔

② کفار کی تعلیم سے متاثر ڈاکٹروں کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے حالانکہ بیمار کو دوستوں کے ملنے سے دلی راحت حاصل ہوتی ہے جو دل کی تقویت کا باعث ہوتی ہے جس سے بیماری ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔

ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

کم از کم اتنی دیر بیمار کی توجہ اپنی بیماری سے کم ہو جاتی ہے جتنی دیر وہ ملنے کے لئے آنے والوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔

③ بیمار پر سی کرنے سے مریض کی ضروریات کا علم ہوتا ہے مثلاً اسے کسی طبیب کے پاس لے جانے کی ضرورت ہو۔ یا کسی دوا کی ضرورت ہو یا گھر میں اخراجات کی کمی کا مسئلہ ہو بیمار پر سی ہی سے ضرورت کا علم ہونے پر مسلم بھائی کی مدد کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات بیمار پر سی کرنے والا خود طبیب ہوتا ہے یا اس بیماری میں مبتلا رہ چکا ہوتا ہے وہ بہترین مشورہ بھی دے سکتا ہے۔

④ بیمار پر سی کے لئے آنے والوں کی دعا اور کتاب و سنت کے الفاظ پر مشتمل دم سے مریض کو صحت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کی

بیمار پر سی کرے اور سات مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے عافیت دی جاتی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت آپہنچا ہو:

«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»

”میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے عرشِ عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے۔“ [صحیح] (عن ابن عباس - ترمذی ابواب الطب اور دیکھئے صحیح

الترمذی۔ ۱۶۹۸)

5 بیمار پر سی کرنے والے کو چاہئے کہ مریض کو حوصلہ دلائے اور بیماری کا ثواب ذکر کر کے اس کی ہمت بندھائے۔ رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کے لئے جاتے تو فرماتے: «لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» «کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔“ (بخاری کتاب المرضی عن ابن عباس)

6 عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کے پاس جاتے یا اسے آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ فرماتے:

«أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (البخاری کتاب المرضی)

”لے جا بیماری کو اے لوگوں کے پروردگار اور شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے

تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔“

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے (کتاب السلام ص: ۱۷۲۲)

7 زیر بحث حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمار پر سی صرف مسلمان کا حق ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ غیر مسلم کی بیمار پر سی بھی کر لیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے ایک یہودی نوجوان کی بیمار پر سی کی جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اور اسے اسلام قبول کرنے کے لئے کہا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے چچا ابوطالب کی وفات کے وقت اس سے ملاقات کی اور اسلام قبول کرنے کی تلقین فرمائی۔ (صحیح بخاری کتاب

(الرضی)

۱۱ ابن ماجہ میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”نبی ﷺ بیمار پرسی نہیں کرتے تھے مگر تین راتوں کے بعد“ مگر یہ روایت موضوع ہے اس میں ایک راوی مسلمہ بن علی متروک ہے۔ (سلسلۃ الضعیفہ ۱۳۵) اسلئے جتنی جلدی ہو سکے بیمار پرسی کرنی چاہئے۔

فرمان الہی ہے: ﴿ فَاسْتَيْقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (المائدہ: ۴۸) ”نیکیوں میں سبقت کرو۔“

۱۲ ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک متر ہزار فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں اور اگر پچھلے پہر کرے تو صبح تک متر ہزار فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور جنت میں اس کے لئے ایک باغ لگ جاتا ہے۔ (ترمذی۔ الجنائز اور دیکھئے صحیح الترمذی ۷۷۵)

۱۳ بیمار پرسی کا مقصد بیمار کو راحت پہنچانا ہے اور ظاہر ہے دیر تک بیٹھنے سے اور ہجوم کرنے سے اسے تکلیف ہوگی اس لئے بیمار پرسی کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔

جنازے کے ساتھ جانا ①: ((إِذَا مَاتَ فَاتَّبَعَهُ)) سے معلوم ہوا کہ مسلمان واقف ہو یا ناواقف اس کے جنازے کے ساتھ جانا اس کا حق ہے۔ حدیث میں اس کا بہت اجر آیا ہے۔ (دیکھئے بلوغ المرام کتاب الجنائز حدیث-۵۳۳)

② جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے پڑھنا جس طرح لوگوں میں آج کل رائج ہے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔

اپنے سے کم نعمت والوں کی طرف دیکھو

۱۳۵۵/۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنْظَرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظَرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔“

تخریج: بخاری (۶۳۹۰) مسلم / الزہد (۹)

مفردات: (أَسْفَلَ) لام پر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں رفع اس لئے کہ یہ ”ہو“ کی خبر ہے اور نصب اس لئے کہ یہ ہو کی محذوف خبر کائن کے لئے مفعول فیہ (طرف) ہے۔ (أَنْ لَا تَزْدَرُوا) یہ باب افعال سے ہے اس کا مادہ ”زری“ ہے (زَرَيْتُ عَلَيْهِ) اور (أَزْرَيْتُ بِهِ) میں نے اس کی تحقیر کی یہ اصل میں (تَزَوَّرْتُ بِهَا) تھا افعال کی تاء اگر زاء کے بعد آجائے تو اسے دال سے بدل دیتے ہیں۔

فوائد: ① اگر کوئی شخص انہی لوگوں کی طرف دیکھے جنہیں دنیا کی نعمتیں اس سے زیادہ دی گئی ہیں تو خطرہ ہے کہ اس کے دل میں خالق کا شکوہ پیدا ہو جائے یا اس شخص پر حسد پیدا ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں اس کی بربادی کا باعث ہیں۔ حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ جب وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے بھی نیچے ہیں اس کا دل خالق کے شکر، اپنی حالت پر صبر و قناعت اور دوسرے بھائیوں پر رحم سے بھر جائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہیں جانے گا۔

② اپنے سے نیچے سے مراد وہ ہے جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے کمتر ہے۔ اگر تندرست ہے تو بیماری میں مبتلا لوگوں کی طرف دیکھے اس سے اسے اللہ کی عطا کردہ صحت پر شکر کی نعمت حاصل ہوگی۔ اگر بیمار ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں بلکہ ان کے

اعضاء ہی نہیں ہیں وہ اندھے، بہرے، لنگڑے یا کوڑھی ہیں۔ اس سے اسے اپنی عافیت کی قدر معلوم ہوگی۔ اگر تنگدست ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی بڑھ کر فقیر ہیں جنہیں محتاجی نے سراسر ذلیل کر دیا ہے۔ یا وہ قرض کے خوفناک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ غرض دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو اسے اپنے سے بڑھ کر مصیبت میں مبتلا لوگ ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے ان کے حال پر غور کرے گا تو اسے شکر، صبر اور قناعت کی نعمت حاصل ہوگی۔

③ دین کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (مطفئین: ۲۶) ”اور اسی (جنت) میں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کریں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز میں رغبت کرتے ہیں۔“ اور فرمایا: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (آئدہ: ۳۸) ”پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔“

جب نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو اور نیکیوں میں اپنے سے بالاتر لوگوں کو دیکھے گا۔ تو پہلی نظر سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا اور اللہ پر خوش ہو جائے گا۔ اور دوسری نظر سے اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا، پروردگار کے سامنے حیا کی وجہ سے انتہائی عجز اختیار کرے گا اور ندامت کے احساس سے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے سے بالاتر لوگوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا۔

گناہ اور نیکی کی پہچان

۱۳۵۶/۳۔ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”نواس بن سمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔“ (مسلم)

تخریج: مسلم (البر والصلۃ ۱۳، ۱۵) اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۶۰/۹)

فوائد: ① حسن خلق سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے سختی اور درشتی سے پرہیز کیا جائے مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے حقیقت یہ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اڑھنا بچھونا بنالینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی پیدائشی عادت کی طرح بن جائیں اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (الن: ۴) یقیناً آپ عظیم خلق پر ہیں۔ سعد بن ہشام بن عامر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیں تو انہوں نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں فرمایا: ﴿فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ﴾ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تھا۔“ (مسلم / مسافرن ۱۳۹) یعنی آپ نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لئے تھے اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔

حسن خلق کے اس مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، شکر، وفائے عہد، صدق، امانت، عدل، صدقہ، جہاد، احسان غرض سبھی کچھ شامل ہے اور اس کی جامع چند آیات یہ ہیں:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ بِمَا أَسْرَفْتُمْ وَلَٰكِن بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ.....﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

اور فرمایا:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ ﴾ (الفرقان ۲۵/۶۴-۶۵)

اور فرمایا:

﴿ الشَّيْبُورُ الْمَكِيدُونَ ﴾ (التوبة ۹/۱۱۲)

اور فرمایا:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ . . . هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾ ﴾ (المؤمنون ۲۳/۱-۱۱)

﴿ قرآن مجید مترجم مع تفسیر سے تفصیل ملاحظہ کر لیں۔

② رسول اللہ ﷺ نے گناہ کی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں پہلی یہ کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی۔ ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں اس کی صاف ممانعت تو کہیں نہیں ملتی دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ لوگوں میں بدنامی ہوگی یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ اسی کا نام گناہ ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث حفظ کی:

«دَعَّ مَا يُرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيْبُكَ فَإِنَّ الصُّدُقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذِبَ رَيْبَةٌ» (صحيح الترمذي، النسائي)

”جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے کیونکہ سچ اطمینان (کا باعث) ہے اور جھوٹ بے چینی (کا باعث) ہے۔“ (مزید وضاحت کیلئے دیکھئے بلوغ المرام حدیث ۱۳۸۴)

گناہ کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے اسی لئے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں اور برے کام معلوم نہ ہوں۔ ریاء کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔

③ جب وہ کام گناہ ہیں جن میں شبہ ہو، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکا ہو تو جو کام صاف الفاظ میں منع کئے گئے ہیں ان کے گناہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟

- ④ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے دیا ہو مگر لوگ جمالت کی وجہ سے اسے ناپسند کریں تو لوگوں کی پروا نہیں کی جائے گی۔ مسلمان کی شان یہ ہے: ﴿لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (المائدة: ۵۴) ”وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔“
- ⑤ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے۔ اسی لئے عربی میں نیکی کو معروف کہا جاتا ہے کہ اس کام کا اچھا ہونا سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز ہے۔ اور برائی کو منکر کہتے ہیں جس کا معنی ہے ”نہ پہچانی ہوئی چیز“ یعنی فطرت انسانی اس کام کو قبول نہیں کرتی اور نہ پہچانتی ہے۔

دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں

۴/۱۳۵۷۔ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُخْزِنُهُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

”اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی۔“ (متفق علیہ اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔)

تخریج: بخاری (۲۳۸۸) مسلم (۱/السلام ۷۳) وغیرہ دیکھئے تحفة الاشراف ۷/۵۶۱) مفردات: يُخْزِنُهُ زاء کے کسرہ کے ساتھ اَنْزَمَ يَنْزِمُ کی طرح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ نَصَرَ يَنْصُرُ کی طرح متعدی ہے دونوں کا معنی غمگین کرنا ہے (وَلَا يَخْزِنُكَ الَّذِي يَنْصُرُكَ فِي الْكُفْرِ) ”کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں“

(آل عمران: ۱۷۶) البتہ زاء کے فتح کے ساتھ (سمع) لازم ہے اس کا معنی غمگین ہونا ہے (لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) ”غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ (التوبة: ۴۰) فوائده ① دو آدمیوں کی آپس میں سرگوشی سے تیسرے ساتھی کے غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے خیال گزرے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں یا کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنے راز میں شریک کریں۔

② دوسرے لوگوں سے مل جانے کے بعد دو آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں خواہ ایک آدمی بھی مزید مل جائے۔ کیونکہ دو آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنے کی صورت میں تیسرا اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی ایک آدمی موجود ہے وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ مالک نے عبداللہ بن دینار سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے ایک آدمی آیا جو ان سے کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتا تھا اور اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا تو انہوں نے ایک اور آدمی کو بلایا اور مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تم دونوں ذرا ٹھہرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ جب تم تین آدمی ہو۔۔۔ الخ (موطا)

③ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ایک ساتھی کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہیں کر سکتے تو دو سے زیادہ آدمی بھی ایک ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر سرگوشی نہیں کر سکتے مثلاً تین یا دس آدمی اپنے کسی ایک ساتھی کو علیحدہ کر کے آپس میں سرگوشی کریں گے تو یہ چیز دو آدمیوں کے علیحدہ ہو کر سرگوشی کرنے سے بھی زیادہ باعثِ غم ہوگی۔ اس لئے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ ہو دوسرے ساتھیوں کو آپس میں سرگوشی کرنا جائز نہیں۔ (فتح الباری)

④ دو آدمی اگر آپس میں کوئی راز کی بات کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا اسے سننے کے لئے آجائے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں نہ ہی اس کے آنے سے ان کے لئے آپس میں سرگوشی منع ہوگی۔ سعید مقبری فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا

ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا۔ جب تم دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھو تو جب تک اجازت نہ لے لو نہ ان کے پاس کھڑے ہو نہ بیٹھو (صحیح الادب المفرد للبخاری ۱۱۶۶/۸۸۹)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنے جو اس سے بھاگتے ہوں قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا۔ (عن ابن عباس احمد ابوداؤد الترمذی صحیح الجامع ۶۳۷۰)

کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر مت بیٹھیں

۱۳۵۸/۵ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقِينُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِمَّنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر خود اس میں بیٹھ جائے لیکن کھل جاؤ اور کشادگی کر لو۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۳۶۹) مسلم / السلام ۲۷۲۷ (۲۸) وغیرہ دیکھئے تحفة الاشراف ۶/۲۴۰ مفردات: تَفَسَّحُوا آپس میں کھل جاؤ تاکہ آنے والا بیٹھ جائے تَوَسَّعُوا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ تاکہ آنے والے کے لئے جگہ نکل آئے قالہ ابن ابی جمرہ (فتح)، لَا يَقِينُمْ نَفِي كَاصِيغَه هِي مگر اس سے مراد نہی ہے خصوصاً اس لئے کہ صحیح مسلم میں لَا يَقِينُمْ کے الفاظ ہیں یعنی ہرگز نہ اٹھائے۔

فوائد: ① اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی کی مخصوص جگہ میں یا اس کی ملکیت میں

کوئی دوسرا آکر بیٹھ جائے تو اسے اٹھانا جائز نہیں کیونکہ وہاں بلا اجازت بیٹھنا تو اس کے لئے جائز ہی نہیں۔ اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں بیٹھنا ہر مسلمان کے لئے جائز ہے مثلاً مسجد، حکام کی مجالس، اہل علم کے حلقہ ہائے درس، بازار میں تجارت کے لئے کوئی جگہ، دستکاری کے لئے کوئی جگہ، تفریحی مقامات، منی، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں جو شخص پہلے آکر بیٹھ جائے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اسے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔

② جو شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر خود بیٹھتا ہے یا تو اس لئے یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پر ترجیح دے رہا ہے اور یہ بات مسلمان کے لائق نہیں ہے ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ”وہ اپنے آپ پر (دوسروں کو) ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو سخت حاجت ہو۔“ (حشر: ۹) یا پھر تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تواضع کا حکم دیا ہے۔

③ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنے کے نتیجے میں دلوں کے اندر دوری اور بغض پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ جب کہ مومنوں کو باہمی محبت و اخوت کی تاکید کی گئی ہے۔

④ لَا يَقِيمُ ”نہ اٹھائے“ کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود اٹھ کر بیٹھنے کی پیشکش کرنے تو وہاں بیٹھنا جائز ہے۔ البتہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس سے بھی اجتناب کرتے تھے اگر کوئی شخص ان کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے (بخاری ۶۲۷۰) مگر اہل علم نے ان کے اس عمل کو مزید احتیاط پر محمول کیا ہے کہ ممکن ہے وہ شخص خوش دلی سے نہ اٹھا ہو صرف شرم کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہو۔

⑤ اس حدیث میں سے پاگل اور بے وقوف مستثنیٰ ہیں اگر وہ مجلس علم کو خراب کر رہے ہوں یا مسجد کے ادب میں خلل انداز ہوں تو انہیں نکالنا درست ہے (وَلَا تُؤْثِرُوا الشُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ) ”اور بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔“ مجلس علم کا مقام مال سے بہت زیادہ ہے۔ جب بے وقوفوں کو اس بات سے روکا جاسکتا ہے کہ وہ مال کو خراب کریں تو انہیں علم کی دولت خراب کرنے سے کیوں نہیں روکا جائے گا۔

⑥ جو شخص بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آئے۔ یا کسی کو تکلیف دے اسے مسجد سے نکالنا

جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے یہ سبزیاں تھوم، پیاز، یا گندنا کھائی ہوں وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے (مسلم عن جابر: مساجد ۷۴) عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ کے خطبہ کے آخر میں فرمایا: لوگو تم یہ دو پودے کھاتے ہو جنہیں میں تو خبیث (برا) ہی سمجھتا ہوں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ مسجد میں کسی آدمی سے ان کی بو محسوس کرتے تو اس کے متعلق حکم دیتے تو اسے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا۔ (مسلم) (مساجد ۷۸) حقے اور سگریٹ کی بدبو تو پیاز اور لہسن سے کئی گنا تکلیف دہوتی ہے۔

کھانا ختم کرنے پر ہاتھ چاٹنے کی تاکید

۱۳۵۹/۶۔ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنا ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اسے خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۵۴۵۶) مسلم / الاشریۃ (۱۳۷/۱۳۳) وغیرہا دیکھئے تحفۃ الاشراف (۸۸/۵) و (۹۴۵)

فوائد: ① ”لَا يَمْسَحُ يَدَهُ“ ہاتھ صاف کرنے سے مراد رومال یا تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ) (الاشریۃ ۱۳۳) ”اپنا ہاتھ تولیے کے ساتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹے۔“

شروع ایام میں صحابہ کرام کے پاس تولئے نہیں ہوتے تھے آگ سے تیار شدہ کھانا بھی کم ہی ملتا تھا ان دنوں میں وہ انگلیاں چاٹنے کے بعد انہیں اپنی ہتھیلیوں، کلائیوں اور پاؤں کے ساتھ ہی صاف کر لیتے تھے۔ اور (دوبارہ) وضوء کئے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ (بخاری عن جابر ۵۲۵۷)

② ہاتھ چاٹنے کی وجہ رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ النَّبْرَكَةُ (مسلم عن جابر / الاثرية ۳۵) کہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔

③ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر لقمہ گر پڑے تو اٹھا کر صاف کر کے کھالے شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔ (مسلم الاثرية: ۱۳۷)

④ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے، پوری طرح جزو بدن بنے۔ کسی بیماری کا باعث نہ بنے۔ اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے واللہ اعلم (نووی)

برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سے بھوک کا احساس مٹ جائے کیونکہ بعض اوقات آدمی بہت سا کھانا کھاتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر بھوک نہیں مٹتی، حرص ختم نہیں ہوتی بلکہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے اور آخر کار وہ کھانا اس کے لئے بوجھ اور بیماری کا باعث بن جاتا ہے اور بعض اوقات چند لقموں کے بعد ہی طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور اسے بہترین فرحت کا احساس ہوتا ہے یہ اس برکت کا اثر ہے جو کھانے کے کسی لقمے کے ضمن میں اسے حاصل ہو گئی۔

⑤ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری نہیں صرف پونچھ لینا ہی کافی ہے مزید دیکھئے اسی حدیث کا فائدہ نمبر ۱۔

⑥ ”اپنا ہاتھ خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے“ یعنی جو اس کا ہاتھ چاٹنے سے کراہت محسوس نہ کرتا ہو مثلاً بیوی، بچہ یا بھائی وغیرہ اگر بکری یا گائے کو چٹا دے تب بھی درست ہے کہ برکت ضائع تو نہ ہوئی۔

سلام کے آداب

۱۳۶۰/۷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ،
 وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَالرَّائِبُ عَلَى
 الْمَاشِيِ)

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوٹا
 بڑے کو سلام کہے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“
 (متفق علیہ - مسلم کی ایک روایت میں ہے اور ”سوار پیدل چلنے والے
 کو۔“)

تخریج: بخاری (۶۲۳۱، ۶۲۳۲، ۶۲۳۳، ۶۲۳۴) مسلم (السلام ۲۱۶۰) دیکھئے تحفۃ
 الاشراف (۳۹۴۲/۱۰)

مفردات: ”لَيْسَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ“ یہ جملہ صحیح مسلم میں نہیں ہے اس لئے
 پوری حدیث کو متفق علیہ کہنا مشکل ہے۔ (وَالرَّائِبُ عَلَى الْمَاشِيِ) یہ جملہ مسلم کے علاوہ
 صحیح بخاری میں بھی ہے۔ (الاستیذان ۶۵)

فوائد: ① سلام میں ابتداء کی اس ترتیب میں جو حکمتیں ہیں اہل علم نے اپنی اپنی
 دانست کے مطابق بیان فرمائی ہیں اصل حکمت اللہ ہی کے پاس ہے اور اسی کا علم کامل
 ہے۔

② چھوٹے کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لئے ہے کہ بڑے کا حق چھوٹے پر زیادہ
 ہے کیونکہ چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کی توقیر کرے اور اس کے ساتھ باادب رہے۔

③ تھوڑے لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لئے ہے کہ زیادہ لوگوں کا تھوڑے لوگوں پر زیادہ حق ہے اور اس لئے بھی کہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں کو یا اکیلے کو پہلے سلام کہیں تو اس میں خود بینی اور کبر نہ پیدا ہو جائے۔

④ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اس لئے پہلے سلام کہے کہ وہ داخل ہونے والے کی طرح ہے جسے سلام کرنے کا حکم ہے۔ اور اس لئے بھی کہ بیٹھے ہوئے شخص کا ہر گزرنے والے کی طرف بار بار از خود متوجہ ہو کر سلام کہنا مشکل ہے۔ جب کہ گزرنے والے کو ایسی کوئی مشکل نہیں۔

⑤ سوار پیدل چلنے والے کو اس لئے پہلے سلام کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سواری کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے۔ اگر پیدل کو حکم ہوتا کہ سوار کو پہلے سلام کہے تو خطرہ تھا کہ سوار میں تکبر نہ پیدا ہو جائے۔

⑥ جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو دونوں کو ابتداء کا حکم ہے اَفْشُوا السَّلَامَ ”سلام عام کرو“ ان میں سے جو پہل کرے گا وہ افضل ہے۔ جیسا کہ دو قطع تعلق کرنے والوں کے متعلق فرمایا: (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (متفق علیہ)

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَالْمَأْشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ دو پیدل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کہے وہ افضل ہے (صحیح اللادب المفرد ۷۵۳/۹۸۳) یہ حدیث مرفوع بھی صحیح ہے۔ الصحیحہ ۱۱۳۶۔

رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کہے گا؟ فرمایا أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ جو دونوں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے (ترمذی عن ابی امامہ وقال حسن اور دیکھئے صحیح الترمذی ۲۱۶۷)

⑦ اگر وہ شخص جسے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے سلام نہیں کرتا تو دوسرے کو سلام کہہ دینا چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیلانے کی ہمت تاکید کی ہے۔ (بخاری ۶۲۳۵)

ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر سلام کا طریقہ

۱۳۶۱/۸ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُجْزَىٰ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزَىٰ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ)

”علیؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت کی طرف سے جب وہ (کہیں سے) گزریں یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی سلام کہہ دے اور جماعت کی طرف سے یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جواب دے دے۔“ (احمد بیہقی)

تخریج: [صحیح] [تحفة الاشراف (۴/۲۲۹)] اور دیکھئے صحیح ابی داؤد (۳۳۲۲)

- فوائد: ① اگر جماعت کی طرف سے ایک آدمی سلام کہہ دے تو سب کا فرض ادا ہو گیا ورنہ سب گناہ گار ہوں گے جواب کا بھی یہی حکم ہے۔
- ② ایک آدمی کا سلام کہہ دینا کافی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سب سلام کہیں تو بہتر ہے اسی طرح اگر سب لوگ جواب دیں تو افضل ہے۔

کفار سے سلام کا طریقہ

۱۳۶۲/۹ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو نہ عیسائیوں کو اور جب انہیں کسی راستے میں ملو تو انہیں اس کی طرف (سے گزرنے پر) مجبور کرو جو زیادہ تنگ ہو۔“
(مسلم)

تخریج: مسلم (السلام ۱۱۳) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف مسند ابی ہریرہ (۳۱۱/۹)
فوائد: ① یہود و نصاریٰ کو پہلے سلام کہنے میں ان کی تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے حالانکہ عزت کے حق دار صرف اہل ایمان ہیں۔ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (منافقون ۸) ”عزت صرف اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے مگر منافق لوگ جانتے نہیں۔“ یہود و نصاریٰ سے جنگ فرض ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ ﴿حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة ۳۹)

اسی ذلت کا احساس دلانے کے لئے اور اسے مستقل قائم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر راستے میں تمہاری ملاقات ان سے ہو تو ان کے لئے کھلا راستہ مت چھوڑو بلکہ انہیں مجبور کرو کہ تنگ تر راستے سے گزریں۔

افسوس کہ مسلمانوں نے جماد چھوڑا تو عزت بھی قصہ پارینہ بن گئی۔ بھلا محکوم قوم اپنی حاکم قوم کے لوگوں کو تنگ راستے کی طرف چلنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یا انہیں پہلے سلام کرنے اور سیلوٹ مارنے سے انکار کر سکتی ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ حدیث صرف سلام میں ابتداء نہ کرنے اور تنگ راستے کی طرف مجبور کرنے کا حکم ہی نہیں دے رہی بلکہ قدم قدم پر مسلمانوں کو باعزت ثابت کرنے، کفار کو ذلیل کرنے اور ان کے ساتھ مسلسل برسریکار رہنے کا حکم دے رہی ہے۔

② سلام کی ایک حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی:

«أَوْلَا أَدَلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ

يَبَيِّنُكُمْ» (مسلم عن أبي هريرة/ الإيمان: ۹۳)

”کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے آپس میں سلام عام کرو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ سلام کا نتیجہ باہمی محبت ہے جب کہ کفار کے متعلق حکم یہ ہے کہ انہیں اپنا دوست مت بناؤ ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (الممتحنہ: ۱) ”میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔“

③ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ﴾ ”تم پر موت ہو“ تم جواب میں کہو ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ ”یعنی تم پر ہو“ (بخاری عن ابن عمر ۶۲۵) معلوم ہوا اگر اہل کتاب سلام کا لفظ کہیں اور ہمیں صاف سنائی دے تو انہیں ﴿وَعَلَيْكُمْ السَّلَام﴾ کہنا چاہئے خصوصاً اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (النساء: ۸۶)

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔“

④ اگر مسلمان اور کافر ملے جلے بیٹھے ہوں تو انہیں سلام کہنا چاہئے رسول اللہ ﷺ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست مشرک اور یہودی ملے جلے موجود تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں سلام کہا (بخاری ۶۲۵۳)

⑤ یہود و نصاریٰ سے سلام میں پہل منع ہے لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو مزاج پرسی میں اگر پہل کر لے تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ آپ نے سلام میں پہل سے منع کیا کلام میں نہیں۔

چھینک کا جواب

۱۰/۱۳۶۳- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
«إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ»

أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ،
فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمْ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْمِ» (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ)

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ)) کہے اور اس کا بھائی اسے ((يَرْحَمُكَ اللهُ)) (اللہ تم پر رحم کرے) کہے تو جب وہ اسے ((يَرْحَمُكَ اللهُ)) کہے تو وہ اسے یوں کہے ((يَهْدِيكُمْ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْمِ)) اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔“ (بخاری)

تخریج: بخاری (۶۲۲۳) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۷/۳۲۳)

اس حدیث کے فوائد کے لئے اسی باب کی پہلی حدیث کے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔

کھڑے ہو کر پانی پینا

۱۱/۱۳۶۴۔ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
الله ﷺ «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر ہرگز نہ پیئے۔“ (مسلم)

تخریج: مسلم (الاشربة ۱۱۶) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۱/۸۹)

فوائد: ① صحیح مسلم میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں: (فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِفْ) جو بھول جائے قے کر دے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا قنارہ فرماتے ہیں ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پھر کھانے کا کیا حکم ہے تو فرمایا (ذَاكَ أَشْرٌ وَأَخْبَثٌ) وہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ (اس کی وجہ

یہ ہو سکتی ہے کہ کھانے میں پینے کی بہ نسبت زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ (فتح)

② کھڑا ہو کر پینے کی ممانعت کی طبی وجہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیئے تو عموماً اطمینان سے پیتا ہے جس سے اچھو لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اسی طرح حلق، غذا کی نالی اور معدہ و جگر میں درد کا امکان کم ہو جاتا ہے جب کہ کھڑے ہو کر پینے سے جلد بازی کی وجہ سے ان تکلیفوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے قے کرنے سے ان تکلیفوں کے زائل ہونے کی امید ہے۔ کیونکہ اس سے رکی ہوئی وہ خلط رواں ہو جاتی ہے جو قے کے بغیر رواں نہیں ہو سکتی۔ ممانعت کی ایک وجہ رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا فرمایا: قے کر دو عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ بلا پیئے اس نے کہا نہیں فرمایا تمہارے ساتھ اس نے پیا ہے جو اس سے بدتر ہے۔ شیطان (نے تمہارے ساتھ پیا ہے) (مسند احمد ۷۹۹۰) اس حدیث کی سند کے رجال شیخین کے رجال ہیں سوائے ابو زیاد کے انہیں یحییٰ بن معین نے ثقہ اور ابو حاتم نے صالح الحدیث کہا ہے۔ (سلسلة الاحادیث الصحیحة ۱۷۵)

③ ان احادیث کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ سے کھڑے ہو کر پینا صحیح احادیث سے ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں پیا۔ (بخاری ۵۶۱۷، مسلم الاشریہ ۱۱)

علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر کوفہ کے رجبہ میں لوگوں کی ضروریات کے لئے بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا تو ان کے پاس پانی لایا گیا۔ انہوں نے منہ اور ہاتھ دھوئے۔ راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ پھر کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا پھر فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا جانتے ہیں حالانکہ نبی ﷺ نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا۔ (بخاری ۵۶۱۱)

کبشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے آپ نے ایک مشکیزے کے منہ سے جو لٹکا ہوا تھا کھڑے ہو کر پیا۔ (ترمذی الاشریہ صحیح الترمذی ۱۱۵۳۲)

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھا لیتے تھے

اور کھڑے ہوئے پی لیتے تھے۔ (ترمذی / الاثریہ صحیح الترمذی ۱۵۳۳)

موطا میں ہے کہ عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر پی لیتے تھے سعد اور عائشہ بیسہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ (فتح الباری ۱۰/۸۶)

④ جب ممانعت اور جواز کی احادیث صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں تو اب ان پر عمل کیسے ہوگا۔ اہل علم نے اس میں مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں۔

پہلا طریقہ: حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی احادیث سے جواز کی احادیث منسوخ ہو گئیں کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس لئے پہلے کھڑے ہو کر پینا جائز تھا جب آپ نے منع فرما دیا تو اب کھڑے ہو کر پینا حرام ہے کیونکہ نبی کا اصل یہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نسخ صرف احتمال سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے۔ جو یہاں معلوم نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ اس لئے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر پینے سے انسان گو گناہ گار نہیں بنتا البتہ اجر و ثواب سے ضرور محروم رہتا ہے جب کہ بیٹھ کر پینے سے اجر و ثواب ملتا ہے اور سنت پر عمل ہوتا ہے۔

دوسرا طریقہ: کھڑے ہو کر پینے سے نبی کی احادیث نبی تنزیہی ہے۔ اس لئے قے کرنے کا حکم بھی استحباب پر محمول ہوگا۔ یعنی اجر و ثواب یہی ہے کہ قے کر دے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود جب رسول اللہ ﷺ نے خود کھڑے ہو کر پانی پیا تو اس سے ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے عمل سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ البتہ اس سے بچنا اجر و ثواب ہے کیونکہ اگر یہ بھی نہ مانا جائے تو رسول اللہ ﷺ کے منع فرمانے کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا۔

اکثر اہل علم نے اس مسئلہ میں یہی موقف اختیار فرمایا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا مسلک ہے اور اس پر اعتراض کی گنجائش سب سے کم ہے۔

تیسرا طریقہ: کھڑے ہو کر پینا منع ہے لیکن اگر کوئی عذر ہو تو کھڑا ہو کر پی سکتا ہے جن

مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیا ہے ان پر اگر غور کریں تو یہی بات سمجھ آتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ زمزم کنوئیں پر آپ کو ڈول پکڑایا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا ظاہر ہے کہ حاجیوں کے انبوه میں کنوئیں کے پاس جہاں چاروں طرف پانی بکھرا ہوا ہو ڈول سے بیٹھ کر پینا آسان نہیں اس لئے آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا۔

کبشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ نے لنگے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا۔ جو بیٹھ کر پینا مشکل تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے وضوء کا بچا ہوا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں پیا اگرچہ احتمال موجود ہے کہ آپ نے وضوء بیٹھ کر کیا ہو مگر یہ امکان بھی ہے کہ آپ نے مشکیزے سے وضوء کیا ہو اور اسی میں سے کھڑے کھڑے پانی پی لیا ہو۔

یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ نبی کو اس کے اصل معنی پر رکھا جائے کہ کھڑے ہو کر پینا ناجائز ہے اور آپ ﷺ کے فعل کو کسی عذر پر محمول کیا جائے۔ کیونکہ کھڑے ہو کر پینے پر قے جیسے تکلیف دہ عمل کے حکم اور کھڑے ہو کر پینے کی صورت میں شیطان کے ساتھ پینے کے ذکر کے بعد نبی کو تنزیہ پر محمول کرنا مشکل ہے۔

جن صحابہ سے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر آیا ہے ممکن ہے انہیں نبی کی احادیث نہ پہنچی ہوں اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھ کر اس عمل کو مطلقاً جائز سمجھ لیا ہو۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی نبی پہنچ جانے کے بعد بلا عذر کھڑے ہو کر کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ہاں اگر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ تو کھڑے ہو کر کھانی پینے سے نہیں۔ واللہ اعلم۔

چوتھا طریقہ: آپ زمزم اور وضوء سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں ان دونوں کے سوا کھڑے ہو کر پینا منع ہے۔

پانچواں طریقہ: کھڑے ہو کر پینا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے دوسرے کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے۔

جو تاپہننے اور اتارنے کے آداب

۱۲/۱۳۶۵- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا تَزَعَّ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيَمْنَى أَوْ لَهَا تَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تَزَعُّ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص جو تاپہننے تو دائیں سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے اور دایاں پاؤں دونوں میں سے پہلے ہو جس میں جو تاپہنا جائے اور دونوں سے آخری ہو جس سے جو تا اتارا جائے۔“
(متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۵۸۵۶) مسلم (الباس ۶۷) وغیرہا دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۹۱/۱۰)
فوائد: ① وہ تمام کام جو زینت یا عزت یا شرف کا باعث ہوں انہیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہئے:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجَلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا آپ کے جو تاپہننے میں کنگھی کرتے میں وضوء میں اور اپنے تمام کاموں میں۔“ (متفق علیہ)

مثلاً شلوار پہننا، مسجد میں پاؤں رکھنا، سرمہ لگانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے جس کی وجہ سے دائیں جانب زیادہ تکریم کی حق دار ہے۔

② جو کام اس کے برعکس ہوں ان میں بائیں طرف سے ابتداء کرنی چاہئے مثلاً مسجد سے

نکلنے اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے۔

③ جو تاپہنا چونکہ باعث عزت و زینت ہے اس لئے دائیں پاؤں سے ابتداء کا حکم دیا اور جو تاتا کرنے میں اس کا الٹ ہے اس لئے دائیں پاؤں سے آخر میں جو تاتا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک مزین رہے۔ (قالہ الحلیمی - فتح)

④ رسول اللہ ﷺ کھانے پینے، کپڑا پہننے اور وضوء کے لئے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اور استنجاء اور میل کچیل وغیرہ کی صفائی کے لئے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ (ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب ۱۸) ناک بھی بائیں ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ (سنن الدارمی حدیث ۷۰۱)

⑤ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے محبت رکھتے تھے دائیں ہاتھ سے چیز لیتے دائیں سے ہی دیتے اور دائیں طرف اختیار کرنے کو اپنے تمام کاموں میں محبوب رکھتے۔ (نسائی / الزینۃ باب ۸ صحیح النسائی)

ایک جو تاپہن کر چلنا منع ہے

۱۳/۱۳۶۶- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَمْسُ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعَهُمَا جَمِيعًا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جو تاپہن کرنے چلے ، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے اتار دے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۵۸۵۵) مسلم (البلاس ۱۹) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۰/۱۸۷)
مفردات: (لِيُنْعِلَهُمَا) نووی نے ضبط کیا ہے کہ یہ یاء کے ضمہ کے ساتھ اَنْعَلَ يُنْعَلُ

(إِفْعَال) سے ہے جس کا معنی جو تا پہنانا ہے (ہما) سے مراد دونوں پاؤں ہیں ان کا ذکر اگرچہ پہلے نہیں گزرا مگر ضمیر اس لئے لائی گئی ہے کہ جو تا پہنانے سے خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ جو تا کون سے عضو میں پہنا جاتا ہے۔ اگر (لِيُخْلَعَهُمَا) ع کے فتح کے ساتھ ہو تو یہ عَلِيمٌ يَعْلَمُ سے ہوگا قاموس میں ہے نَعَلَ كَفَرِحَ وَانْتَعَلَ وَتَنَعَلَ اس نے جو تا پہنا۔ اس صورت میں هُمَا سے مراد ”دونوں جوتے“ ہوں گے یعنی دونوں جوتے پہن لے۔ (لِيُخْلَعَهُمَا) ”هُمَا“ سے مراد ”جوتے“ ہیں۔ یعنی دونوں جوتے اتار دے۔ بخاری کی ایک روایت میں (أَوْ لِيُخْلَعَهُمَا) ہے یا دونوں کو ننگا رکھے اس وقت هُمَا سے مراد دونوں پاؤں ہوں گے۔

فوائد: ① جوتے کا مقصود پاؤں کو تکلیف دہ چیزوں مثلاً کانٹے وغیرہ سے بچانا ہوتا ہے۔ جب صرف ایک پاؤں میں جو تا ہو تو دوسرے پاؤں کو بچانے کے لئے خاص جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس سے اس کی معمول کی چال برقرار نہیں رہتی نہ ہی جسم کا توازن درست رہتا ہے۔ اور پاؤں میں موج آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کوشش میں آدمی گر بھی سکتا ہے (فتح) بظاہر یہ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں مگر ہر حکم کی اصل علت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

② اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک جو تا پہن کر چلنا حرام ہے کیونکہ نبی کا اصل یہی ہے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ ”جب تم سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے (جو انگوٹھے میں ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے آدمی جوتے میں چل نہیں سکتا) تو ایک جوتے میں نہ چلے۔“ جب چلتے چلتے ٹوٹ جانے کی صورت میں بھی ایک جو تا پہن کر چلنے کی اجازت نہیں تو بغیر ضرورت کس طرح اجازت ہو سکتی ہے۔

③ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ایک جو تا پہن کر نہ چلے لیکن اگر کبھی ایک جو تا پہن کر چلے تو حرام نہیں کیونکہ ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: «رَبُّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ» ”کئی دفعہ رسول اللہ ﷺ ایک جو تا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔“ (ترمذی - اللباس) مگر یہ روایت ضعیف ہے اس میں یسٹ بن ابی سلیم ہیں تقریب میں ہے (صَدُوقٌ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ حَدِيثُهُ فَتُرِكَ) علاوہ ازیں یہ متفق علیہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے۔ جیسا کہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ

مذکور ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ (فتح) کسی صحابی کا عمل دلیل نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے یہ عذر سمجھا جائے گا کہ انہیں حدیث نہیں پہنچی یا کسی تاویل کی وجہ سے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔

④ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اکثر جوتے پہن کر رکھا کرو کیونکہ آدمی جب تک جوتا پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ سوار ہوتا ہے۔ (مسلم / لباس ب ۶۶)

⑤ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کریں۔ (ابوداؤد الترمذی ب: ۱ اور دیکھئے صحیح ابی داؤد۔

مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سخت کوشی باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جوتا ٹوٹ جانے کی صورت میں یا موجود نہ ہونے کی صورت میں چل ہی نہ سکیں۔ جب کسی شخص کی عادت ہو جائے کہ وہ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلتا پھرتا رہے تو ایک جوتا ٹوٹنے کی صورت میں ننگے پاؤں چلنے میں نہ اسے لوگوں سے حیاء مانع ہوگی نہ نازک بدنی اسے ننگے پاؤں چلنے سے روکے گی۔

⑥ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ درست کر لے اور ایک موزہ پہن کر نہ چلے۔ (مسلم - اللباس ۲۰) اس سے معلوم ہوا کہ ایک پاؤں میں موزہ یا جراب پہن کر چلنا پھرنا بھی جائز نہیں۔

بعض لوگ اس کے ساتھ یہ بڑھاتے ہیں کہ قمیص کی ایک آستین اتار کر نہ چلے وغیرہ مگر یہ اضافے اپنی طرف سے ہیں۔ ان سے کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔

مُتَّحِنُونَ سَعَى كِبْرُ الْكِنَانِ

۱۴/۱۳۶۷- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ

خَيْلَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۵۷۸۳، ۵۷۹۴) مسلم (اللباس ۳۳) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۶۶/۵) (۳۳۷/۵) (۲۱۵/۶)

مفردات: الخیلاء تکبر یہ مصدر ہے۔ گھوڑوں کو خیل اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کی چال میں تکبر پایا جاتا ہے (قاموس)

فوائد: ① ”دیکھے گا نہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب تو ہو ہی نہیں سکتی وجہ یہ ہے کہ متواضع مسکین مہربانی کی نظر کا حق دار ہوتا ہے تکبر و مغرور اس سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ قرکی نظر کا حقدار بن جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النساء ۴/۳۶)

”یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا۔“

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ» (مسلم ۱/۷۱)

”تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے عذاب الیم ہے (کپڑا) لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سامان بیچنے والا۔“

② کپڑا لٹکانے پر یہ وعید عورتوں اور مردوں سب کے لئے ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس

حدیث سے یہی بات سمجھی چنانچہ ترمذی اور نسائی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں ساتھ ہی یہ الفاظ ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک باشت لٹکا لیا کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں ان کے پاؤں کھل جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو ایک ہاتھ لٹکا لیں اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ ترمذی نے فرمایا حسن صحیح (سنن ترمذی (اللباس)

اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں کئی گز کپڑا اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے چلتی ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ یورپی اقوام میں اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کی عورتوں میں بھی یہ رسم بد چل پڑی ہے کہ وہ شادی کے موقع پر کئی گز لمبا غرارہ پہنتی ہیں جو پیچھے گھسٹتا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے کئی عورتوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں۔ نمود و نمائش اور کبر و نخوت کی ماری ہوئی یہ عورتیں بھی اللہ کی نگاہ لطف سے محروم ہیں۔ عورت مردوں کی طرح اپنے ٹخنے ننگے نہ رکھے بلکہ پاؤں کو چھپائے مگر ایک ہاتھ (دو باشت) سے زیادہ کپڑا نہ لٹکائے بہتر یہ ہے کہ ایک باشت ہی لٹکائے۔

③ ”جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔“ سے معلوم ہوا کہ تکبر کے بغیر کسی کا کپڑا نیچے چلا جائے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری چادر کا ایک کنارہ لٹک جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «إِنَّكَ لَمَسْتَ مِنْ مَنِّ بَصْنَعَةِ خَيْلَاءٍ» ”تم ان لوگوں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔“ بخاری (۵۷۸۳)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: «إِلَّا أَنْ أْتَاهَذَا ذَلِكَ مِنْهُ» ”سوائے اس کے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔“ یعنی جب میں اس سے غافل ہو جاؤں تو وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ احمد کے ہاں معمر بن زید بن اسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: «إِنْ إِزَارِي يَسْتَرْجِي أَحْيَانًا» ”میری چادر کبھی کبھی نیچے ڈھلک جاتی ہے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ چلنے یا بلنے جلتے

سے ان کے اختیار کے بغیر چادر کی گرہ کھل جاتی تھی جب خاص خیال رکھتے تو نہیں ڈھلکتی تھی کیونکہ جب بھی ڈھلکنے لگتی اسے کس لیتے تھے۔ ابن سعد نے طلحہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریق سے روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحْسَى لَا يَسْتَمْسِكُ إِزَارَهُ يَسْتَزِجِي عَنْ حَقْوَيْهِ» "ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قد جھکا ہوا تھا اپنی چادر تھام نہیں سکتے تھے وہ ان کے کولہوں سے ڈھلک جاتی تھی۔" (فتح الباری ۲۶۶/۱۰)

اب صاف ظاہر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر چادر نیچے نہیں لٹکاتے تھے کبھی کبھی بے توجہی ہو جاتی تو نیچے ڈھلک جاتی تھی۔ اس طرح اگر کسی کی چادر ڈھلک جائے تو نہ یہ تکبر ہے نہ اس پر مواخذہ ہے۔

④ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کپڑا لٹکائے اور کہے کہ میں نے تکبر سے نہیں لٹکایا تو اس کی یہ بات درست نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مومن کی چادر کا مقام پنڈلی کا عضلہ (موٹا حصہ) مقرر فرمایا اس کے بعد پنڈلی کا نصف مقرر فرمایا زیادہ سے زیادہ ٹخنے کے اوپر تک رکھنے کی اجازت دی اور اس سے نیچے لٹکانا منع فرمایا بطور دلیل چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِيهِ النَّارُ» (صحیح بخاری)

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔"

«عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ لِحْيَتِي أَوْ سَاقِي فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ - قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»

(ترمذی/ اللباس ۴۱)

"حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا عضلہ (موٹا

حصہ) پکڑ کر فرمایا: چادر کی جگہ یہ ہے اگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے اگر یہ بھی نہ مانو تو چادر کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں۔“ (ابو عیسیٰ (ترمذی) نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

علاوہ ازیں یہ حدیث احمد، نسائی، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیکھئے صحیح الترمذی (۱۳۵۷) ابو سعید رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» (صحیح - مالک، أحمد، أبوداود، ابن ماجہ، ابن

حبان، بیہقی، صحیح الجامع ۹۲۱)

”مومن کے چادر باندھنے کی حالت نصف پنڈلی تک ہے اور اس کے اور ٹخنوں کے درمیان اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ لگ میں ہے جو شخص تکبر سے اپنی چادر لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔“

⑤ جان بوجھ کر چادر لٹکانا تکبر میں شامل ہے خواہ ایسا کرنے والا یہ کہے کہ میں نے اسے تکبر سے نہیں لٹکایا۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اور کئی باتوں کے علاوہ ان سے فرمایا:

«وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنَّ آيَةَ فِإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيَلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيَلَةَ»

(أبوداود/ ۴۰۸۴، نسائی، حاکم، صحیح أبي داود/ ۳۴۴۲)

”اور اپنی چادر نصف پنڈلی تک اونچی رکھو اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک اور چادر لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو یقیناً پسند نہیں فرماتا۔“

اور دیکھئے صحیح ابی داود ۳۳۳۲

⑥ اگر کوئی شخص اپنی پنڈلیاں ٹیڑھی یا باریک ہونے کی وجہ سے چادر لٹکائے تو یہ بھی

ناجائز ہے۔

«عَنِ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَزَوْلَ فَقَالَ: اِرْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ إِنِّي أَحْتَفُ تَصَطُّكَ رُكْبَتَايَ فَقَالَ: اِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقٍ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَسَنٌ فَمَارُمِي ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ» (مسند احمد 4/390)

”شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی چادر کھینچتا ہوا جا رہا تھا آپ اس کی طرف جلدی سے گئے یا دوڑ کر گئے اور فرمایا اپنی چادر اوپر اٹھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس نے کہا میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں میرے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں آپ نے فرمایا اپنی چادر اوپر اٹھاؤ کیونکہ اللہ عزوجل کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہی خوبصورت ہے تو اس کے بعد اس آدمی کو جب بھی دیکھا گیا اس کی چادر نصف پنڈلی پر ہوتی تھی۔“

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ۱۳۴) اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس صحابی کا چادر لٹکانا تکبر کی وجہ سے نہیں تھا مگر رسول اللہ ﷺ نے اس لئے منع فرمایا کہ اس میں تکبر پائے جانے کا گمان ہو سکتا تھا۔

«عَنْ عَمْرٍو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ قَالَ عَمْرٍو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حَمَسُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ يَا عَمْرٍو إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرٍو وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِ أَصَابِعٍ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو فَقَالَ يَا عَمْرٍو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَ تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرٍو هَذَا

مَوْضِعُ الْإِزَارِ (مسند احمد ۴/۲۰۰)

”عمرو بن فلاں الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی چادر لٹکائے ہوئے چل رہے تھے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ آکر ملے آپ نے اپنی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں (لنگی ہوئی چادر سے ظاہر ہونے والے تکبر کی طرف توجہ دلانے کے لئے اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے تھے) عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (یہ سن کر) میں نے کہا یا رسول اللہ میں تپلی پنڈلیوں والا آدمی ہوں (اس لئے چادر لٹکا رکھی ہے) آپ نے فرمایا اے عمرو یقیناً اللہ عزوجل نے جو چیز پیدا کی ہے خوبصورت پیدا کی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی دائیں ہتھیلی کی چار انگلیاں عمرو کے گھٹنے کے نیچے رکھ کر فرمایا: اے عمرو! یہ چادر کی جگہ ہے پھر انگلیاں اٹھا کر دوبارہ اس سے نیچے رکھیں اور فرمایا اے عمرو! یہ چادر کی جگہ ہے۔“

یہ حدیث طبرانی نے ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے عمرو بن زرارہ کا یہ واقعہ اپنا چشم دید بیان کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت جو اوپر بیان ہوئی ہے اس میں عمرو نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے مگر اس میں عمرو بن فلاں بیان ہوا ہے یہ وہی عمرو بن زرارہ ہیں اور طبرانی نے خود عمرو بن زرارہ سے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (فتح ۱۰/۲۷۵)

⑦ جو شخص جان بوجھ کر چادر یا شلوار ضرورت سے بڑی سلواتا ہے اور اسے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کے علاوہ اس کے ناجائز ہونے کی چند اور وجہیں بھی ہیں۔

پہلی وجہ: اسراف (فضول خرچی) ہے جو کہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف ۷/۳۱)

”اور فضول خرچی نہ کرو وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

﴿... وَلَا بُدْرَ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾﴾ (الإسراء: ١٧-٢٦-٢٧)

”اور فضول خرچی نہ کرو، بلاشبہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔“

دوسری وجہ: عورتوں سے مشابہت ہے جو اس میں اسراف سے بھی زیادہ نمکیاں ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ»

”رسول اللہ ﷺ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی طرح کا لباس پہنے اور اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے۔“ (حاکم ۴ / ۱۹۴) حاکم نے فرمایا یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ عورت اگر اپنے ٹخنے ننگے رکھے تو مرد سے مشابہت ہے اور مرد اپنے ٹخنے ڈھانک کر رکھے تو عورت سے مشابہت ہے۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ چادر لٹکانے والے کی چادر کے ساتھ کوئی نہ کوئی نجاست لگنے کا اندیشہ رہتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿وَلِيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ (مدثر: ۴) ”اپنے کپڑے پاک رکھ“ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چادر لٹکانے سے منع فرماتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی۔

صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مفصل واقعہ مذکور ہے عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ”جب امیر المومنین کو پیٹ میں خنجر مارا گیا تو انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا ہم بھی ساتھ گئے نیز لائی گئی انہوں نے پی تو پیٹ سے نکل گئی پھر دودھ لایا گیا آپ نے پیا تو زخم سے نکل گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا۔ کہ آپ فوت ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کے پاس داخل ہوئے اور لوگ بھی آنے لگے اور ان کی تعریف کرنے لگے ایک نوجوان آیا اس

نے کہا امیر المؤمنین اللہ کی طرف سے خوش خبری کے ساتھ خوش ہو جائیے۔ آپ کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت اور اسلام میں پیش قدمی کی جو نعمت حاصل ہوئی آپ کو معلوم ہی ہے پھر آپ حاکم بنے تو عدل کیا پھر شہادت نصیب ہوئی۔ فرمانے لگے میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ برابر برابر رہ جائے نہ مجھ پر (بوجھ) ہو نہ میرے لئے (کچھ) ہو۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ فرمایا:

«يَا ابْنَ أَخِي اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْفَى لِي ثَوْبِكَ وَأَنْفَى لِرَبِّكَ»

”بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھالو کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے

اور تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے۔“ (صحیح بخاری ۳۷۰۰)

یہاں ان بھائیوں کو غور کرنا چاہئے جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کو معمول خیال کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اتنی تکلیف کی حالت میں بھی کپڑا لٹکانے سے منع فرمانے کو ضروری سمجھا ہے۔

⑧ زیر بحث حدیث میں مذکور لفظ (مَنْ جَزَّ ثَوْبَهُ - الخ) سے صاف ظاہر ہے کہ نبی ﷺ نے صرف چادر لٹکانے سے ہی منع نہیں فرمایا بلکہ چادر شلوار قمیص کوئی بھی کپڑا ہو اسے لٹکانا منع ہے۔

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہئے

۱۳۶۸/۱۵ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا

شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ

وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم

میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب پئے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے اور بائیں کے ساتھ پیتا ہے۔“ (مسلم)

تخریج: مسلم (الاشربة ۱۰۵) اور دیکھئے تحفة الاشراف (۲۶۷/۶) (۱۳۰/۶) (۳۰۰/۵) فوائد: ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے۔ کیونکہ اس میں شیطان کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) ”جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔“ (ابوداؤد عن ابن عمر لباس ۴) اور دیکھئے (صحیح ابی داؤد ۳۴۰۱) جب فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت حرام ہے تو شیطان کی مشابہت تو بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔

② رسول اللہ ﷺ نے اپنے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: (يَا غَلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ) ”لڑکے کے بسم اللہ پڑھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔“ (بخاری/الاطعمة ۳)

ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا: ”دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔“ اس نے کہا میں اس سے نہیں کھا سکتا اس نے یہ بات صرف تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم نہ ہی کھا سکو تو اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ (مسلم عن سلمة بن الاكوع (الاشربة ۱۰۷)) اس حدیث کے مزید فوائد کے لئے دیکھئے اسی باب کی حدیث (۱۴)

کھانے پینے اور پسننے میں فضول خرچی اور تکبر جائز نہیں

۱۳۶۹/۱۶ - وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلْ

وَأَشْرَبُ وَالْبَسْنَ وَتَصَدَّقَ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ)

”عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھا، پی، پن اور صدقہ کر جس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔“ (اسے ابوداؤد اور احمد نے روایت کیا اور بخاری نے اسے تعلیقاً (دانتہ سند حذف کر کے) روایت کیا ہے)

تخریج: بخاری تعلیقاً (اللباس ب) احمد (۲/۱۸۱، ۱۸۲) ابوداؤد....

مفردات: سَرَفٌ اور إِسْرَافٌ کسی بھی قول یا فعل میں حد سے گزرنا، خرچ میں حد سے تجاوز کرنے میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا «فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ» قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے اور فرمایا «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا» کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو (فتح)

مَخِيلَةٌ مصدر میسی ہے بروزن مَفْعَلَةٌ خِيَلَاءَ کا ہم معنی یعنی تکبر۔ آدمی جب اپنے آپ میں کسی خوبی کا خیال جمالیتا ہے تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تنخیل نفس میں کسی چیز کے خیال کی نقش بندی کو کہتے ہیں (راغب)

فوائد: ① اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے دنیا کی ہر طیب چیز حلال فرمادی ہے کھانے کی ہو یا پینے کی پہننے کی ہو یا رہنے کی یا کوئی سواری ہو۔ صرف وہ چیزیں حرام فرمائیں جو خبیث ہیں اور انسان کے جسم یا عقل یا مال یا عزت یا دین کے لئے نقصان دہ ہیں کیونکہ یہ پانچوں چیزیں انسان کی عزیز ترین چیزیں ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہے۔

﴿وَيَسْئَلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُسَرِّمُهُنَّ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ﴾ (الأعراف ۷/۱۵۷)

”وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔“

② اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر مباح چیز انسان استعمال کر سکتا ہے اور جتنی

چاہے استعمال کر سکتا ہے یہ نہیں کہ فلاں تو کر سکتا ہے اور فلاں نہیں اور اتنی کر سکتا ہے اور اتنی نہیں:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة: ۲/۲۹)

”وہی ذات ہے جس نے دنیا کی سب چیزیں تمہارے لئے بنائیں۔“

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

(الأعراف: ۷/۳۲)

”تو کہہ جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا اس کو اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے۔“

③ یہ حلال چیزیں اس وقت ناجائز ہوں گی جب وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کر جائیں مثلاً اتنا کھانا یا پینا جو جسم کے لئے وبال بن جائے اور صحت کو نقصان پہنچائے یا کھانے پینے یا صدقہ کرنے میں اتنا خرچ کر دینا جو استطاعت سے زیادہ ہو پھر زیر بار ہو کر پریشان رہنا یا کھانے پینے یا صدقہ کرنے میں نمود و نمائش اور لوگوں سے اونچا ہونے کا مقصد دل میں رکھنا ان سب چیزوں سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا۔

④ کھانے پینے کی حد جس سے گزرنا نہیں چاہئے ترمذی کی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنُ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلْتُ لِطَعَامِهِ وَتَلْتُ لِشَرَابِهِ وَتَلْتُ لِنَفْسِهِ»

”کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو ابن آدم کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں پس اگر اسے (زیادہ کھائے بغیر) کوئی چارہ ہی نہ ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لئے ہے اور تیسرا پینے کے لئے اور تیسرا سانس کے لئے۔“

ترمذی (الزهد ۴) حدیث صحیح دیکھئے صحیح الترمذی (۱۹۳۹)

اگر زیادہ دیر کا بھوکا پیاسا ہو تو زیادہ بھی کھاپی سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سخت بھوک کے بعد بار بار دودھ پینے کے لئے کہا یہاں تک کہ انہوں نے کہا (لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا) ”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کے داخل ہونے کے لئے (بیٹھ میں) کوئی جگہ نہیں پاتا۔“ (بخاری ۶۳۵۲)

۵] لباس میں حد سے گزرتا یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو یا ریشم کا ہو یا عورتوں کے مشابہ ہو یا اس میں کفار سے مشابہت ہو۔

۶] صدقہ میں اسراف کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الاسراء ۱۷/۲۹)

”اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف طوق سے بندھا ہوا بنا لو اور نہ اسے پورا ہی کھول دو ورنہ اس حال میں بیٹھ رہو گے کہ ملامت کئے ہوئے تھک کر رہ جانے والے ہو گے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں صدقہ کے علاوہ کھانے پینے پہننے اور دوسرے کاموں میں خرچ کی وہ حد بیان کی گئی ہے جس سے آدمی بڑھتا ہے تو اسراف میں داخل ہو جاتا ہے۔



بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

نیکی اور (رشتہ داری) ملانے کا بیان

”الْبِرُّ“ باء کے کسرہ کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنا صدق، فرمانبرداری، کسی سے حسن سلوک خصوصاً ماں باپ کے ساتھ۔ عام طور پر ماں باپ سے حسن سلوک کو ”بِرٌّ“ کہتے ہیں۔ باء کے فتح کے ساتھ بِرٌّ بہت زیادہ نیکی کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرتا ہے۔

یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ﴿وَبِرًّا بِالَّذِينِ﴾ ”ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔“ اس کے مقابلے میں بدسلوکی، ایذاء رسانی خصوصاً والدین کی ایذاء رسانی کو عقوق کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو عاق کہتے ہیں۔

صَلَّةٌ وَصَلٌّ يَصِلُ وَصَلًّا كَمَا مَصَدَرٌ هُوَ جَسْ طَرِحٌ وَعَدَّ يَعُدُّ كَمَا مَصَدَرٌ وَعَدًّا أَوْ عِدَّةً آتَا هُوَ۔ اس کا لغوی معنی ملانا، پیوند لگانا، جوڑنا آتا ہے یہاں اس سے مراد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست رکھنا، ان پر خرچ کرنا اور ان سے میل جول قائم رکھنا، ان کی بے رخی کے باوجود ان سے احسان کرنا ہے۔ صلہ، رحم کے مقابلے میں قطع رحم ہے۔

رشتہ داری قائم رکھنے کے فائدے

۱/ ۱۳۷۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ

وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لئے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کے نشان قدم (باقی رکھنے) میں دیر کی جائے وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔“ (بخاری)

تخریج: بخاری (۵۹۸۵) فتح الباری میں ہے ((مَنْ أَحَبَّ)) انس کی روایت ہے ابو ہریرہ کی روایت ((مَنْ سَوَّءَ)) ہے۔

مفردات: يُنْسَأُ بَابٌ مَتَّعَ يَمْتَعُ سے ہے ”تاخیر کی جائے۔“

اَثَرُہ قدموں کے نشان کو اثر کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی دیر تک باقی رہے عمر میں اضافہ ہو جائے کیونکہ انسان کے قدموں کے نشان اسی وقت تک زمین پر لگتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں اس کی یاد گاریں دیر تک باقی رہیں۔ رَحِمَةٌ رَحِمٌ اصل میں بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ قرابت ہے جو شکم سے پیدا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

فوائد: ① رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے بعض لوگوں کو اس حدیث پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں رزق مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا ہے اسی طرح عمر بھی ملے ہو چکی ہے۔

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الأعراف ۷/۳۴)
”جب ان کا مقرر وقت آگیا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ پہلے۔“

تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی اور عمر میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کی فراخی کے اسباب اور عمر بڑھنے کے اسباب بھی لکھ رکھے ہیں۔ مثلاً جو شخص محنت کرے گا ہوش مندی اختیار کرے گا اسے کھلا رزق ملے گا اور جو کابلی اور سستی اختیار کرے گا وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول انسان کو صحت مند رکھنے کے اسباب ہیں جن سے عمر بڑھتی ہے۔ خراب آب و ہوا، ناقص ناموافق ماحول، بیماری اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جس سے عمر گھٹتی ہے۔

جس طرح رزق اور عمر میں اضافے کے یہ ظاہری اسباب ہیں اسی طرح اس کے کچھ روحانی اور ربانی اسباب بھی ہیں۔ جو رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اسے قلبی اطمینان، دلی مسرت اور اوقات عزیزہ میں برکت حاصل ہوگی وہ جو کام کرے گا دلجمعی سے کرے گا اس سے اس کے رزق میں فراخی ہوگی اور اطمینان قلب پر ہی صحت کا دارومدار ہے جب صحت درست ہوگی تو عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس جس کم نصیب کا اپنوں سے ہی مقاطعہ ہے وہ ہر وقت رنج و غم میں رہے گا اپنے رشتہ داروں کو ہی نیچا دکھانے کی فکر میں رہے گا۔ یہ قطع تعلق نہ اسے دنیا کے کام کا چھوڑے گا نہ دین کے کام کا۔ طبیعت چڑچڑی اور قوتیں مضعل ہو جائیں گی اس کا نتیجہ کاروبار میں ناکامی اور پریشان کن بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوگا جس سے رزق تنگ اور صحت برباد ہو جائے گی اور یہی چیزیں آدمی کو موت سے قریب کر دیتی ہیں۔

اصل یہ ہے کہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے گا اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حالانکہ جنت میں جانے والوں اور جہنم میں جانے والوں کے نام تقدیر میں پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں۔ مگر ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کا سبب ہے اسی طرح صلہ رحم فراخی، رزق اور درازی، عمر کا سبب ہے۔

ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں: «إِنَّ صَلَّةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَفْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ» «رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر (عمر میں برکت) کا باعث ہے۔» ترمذی (البر ۳۹) صحیح الترمذی ۱۶۱۲۔

② وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے۔ اس کے مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی تو یہ کہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کی عمر میں حقیقی اضافہ ہو جاتا ہے اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے دوسری یہ کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اس کے اوقات ضائع نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت کی نعمت سے نوازتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ تھوڑی عمر بہت لمبی عمر سے بھی اجر و ثواب حاصل کرنے میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی بہت لمبی عمروں کے مقابلے میں اس امت کی عمر بہت تھوڑی رکھی مگر لیلۃ القدر کے ساتھ اس کمی کو پورا فرما دیا۔ بلکہ اس امت کا ثواب پہلی امتوں سے زیادہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہزار برس عمر ملے مگر نیکی کی توفیق نہ ملے تو اس کی عمر گھٹ گئی بلکہ برباد ہو گئی اور جس کو نیکی کی توفیق مل گئی خواہ عمر تھوڑی بھی ہو اس کی عمر بڑھ گئی۔ کیونکہ اس کے کام آگئی۔

تیسری یہ کہ اسے ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور لوگ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اس کی اچھی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ گویا وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ مثلاً ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اس کی وفات رباط (جماد میں پہرہ دینے کی حالت) میں آجائے کہ قیامت تک اس کا اجر جاری رہے۔

③ صلہ رحمی کا اصل اجر و ثواب تو قیامت کو ملے گا مگر دنیا میں بھی اس کے یہ فائدے رسول اللہ ﷺ نے بتائے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں نیکی

کرتے وقت آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی اس عمل کا فائدہ پہنچنے کی نیت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ صدقہ کرنے سے دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ جہنم سے پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے شرط یہ ہے کہ صرف دنیا ہی اس کا مقصود نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

www.KitaboSunnat.com

﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ﴾ (۲۰۰) ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (۲۰۱) ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة ۲۰۰-۲۰۲)

”تو لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں اور ان سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔“

رشتہ داری کو توڑنے والے کا انجام

۱۳۷۱/۲ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کائے والا داخل نہیں ہوگا یعنی رشتہ داری کو کائے والا۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۵۹۸۳) مسلم (البر والصلوة / ۱۸) وغیرہا دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳/۲۱۱)
 فوائد: ① قرآن مجید میں قطع رحمی اور فساد فی الارض کرنے والوں کے لئے لعنت کی وعید آئی ہے:

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلُوا ﴾ (الرعد ۱۳/۲۵)

”اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (محمد ۲۲-۲۳/۴۷)

”پس تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔“

② صلہ رحم سے کون سی رشتہ داری مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داری کے کئی مراتب ہیں۔

پہلا یہ کہ آپس میں ایسی رشتہ داری ہو جس سے باہمی نکاح حرام ہو جاتا ہے یعنی ان دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ مثلاً چچا، پھوپھی، اور ان کا بھتیجا، ماموں، خالہ اور ان کا بھانجا یہ ایسی قرابت ہے کہ اگر ان دونوں رشتہ داروں کو عورت فرض کیا جائے تو انہیں ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو اور عورت اور اس کی خالہ کو دو بہنوں کی طرح ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اس سے ان کے درمیان قطع رحم کا خطرہ ہے۔ جن رشتہ داروں کا باہمی نکاح ہو سکتا ہے مثلاً آدمی اور اس کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی اولاد ان کے درمیان وہ رحم (رشتہ) نہیں جو سب سے نازک ہے اور جو ایک نکاح میں جمع کرنے سے اور طلاق یا خلع کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔

دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں صاف ظاہر ہے کہ جو قرابت

وارث کو حاصل ہوتی ہے غیر وارث کو حاصل نہیں ہوتی ورنہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وارث بنا دیتے۔

تیسرا یہ کہ ان دونوں کے علاوہ کسی وجہ سے بھی قرابت حاصل ہو۔ ان میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا پھر باپ کا اور پھر حسب مراتب دوسرے اقارب کا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے۔ اور اگرچہ صلہ رحمی تمام اقارب کا حق ہے مگر درجہ بدرجہ حق بڑھتا چلا جاتا ہے۔

③ صلہ رحمی کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپس میں سلام و کلام کا سلسلہ قائم رہے اگر یہ بھی باقی نہ رہا تو صلہ رحمی کیسی؟ اس کے بعد اقارب کے احوال کی خبر گیری، مال جان سے ان کی مدد اور غلطیوں سے درگزر صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہیں۔

④ وہ صلہ رحمی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے:

«لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَاْفِيءِ وَلَكِنَّ الْوَأَصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا» (بخاری 5391)

”صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے۔“

⑤ رشتہ داروں سے سلوک کے تین مرتبے ہیں۔

صلہ رحمی: رشتہ دار تعلقات منقطع کر دیں تو ان سے ملائے اور حسن سلوک کرے۔

مکافات: رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

قطع رحمی: رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لے خواہ ان کے برا سلوک کرنے کی وجہ سے کرے خواہ ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے باوجود تعلقات منقطع کرے بہر حال اگر ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے بعد برا سلوک کرتا ہے اور ناطہ توڑ لیتا ہے تو یہ قطع رحمی کی بدترین صورت ہے۔ دونوں جانبوں سے قطع تعلق ہو تو بدترین وہ ہے جو

قطع تعلق میں ابتداء کرتا ہے۔

⑥ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملاتا ہوں وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے علم اختیار کرتا ہوں وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا:

«إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيْرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» (مسلم/ البر ۲۲)

”اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔“ (مسلم/ البر ۲۲)

⑦ ”قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سننے کے بعد بھی کہ قطع رحم حرام ہے اسے حلال سمجھتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔

اور جو شخص اسے حلال نہیں سمجھتا بلکہ حرام ہی سمجھتا ہے مگر کسی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ ان خوش نصیبوں میں نہیں ہوگا جو ابتداء ہی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ مطلب اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔

والدہ کی ایذا رسانی حرام ہے

۱۳۷۲/۳ - وَعَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ

الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتٍ وَكَرَهُ لَكُمْ قِيْلَ
وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»

”مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو ستانا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور (خود) کچھ نہ دینا اور (دوسروں سے کہنا) لا مجھے دے اور تمہارے لئے ناپسند کیا (یہ کہنا کہ) یہ کہا گیا اور فلاں نے کہا اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۵۹۷۵) مسلم (الاقضية ۱۲)

مفردات: عقوق مصدر ہے جو کہ بڑ کی ضد ہے بر الوالدین، والدین سے اچھا سلوک عقوق الوالدین ان کا دل دکھانا، بدسلوکی کرنا عقق کا لفظی معنی قطع کرنا ہے۔

الْأُمَّهَاتِ - اُمَّهَاتُ كِي جَمْعُ هِيَ - اُمُّ (مَالٍ) كُو اُمَّةٌ اَوُر اُمَّهَةٌ هِي كَسْتِي هِي اُمُّ كِي جَمْعُ اُمَّاتٍ هِيَ - جَمْعُ كِي صِيغَةُ فِي هِي فَرَقُ هِيَ كِي اُمَّاتٍ صَرَفُ ذَوِي الْعَقُولِ كِي لِنِي آتَا هِيَ جَبَكِي اُمَّاتٍ غَيْرِ ذَوِي الْعَقُولِ كِي لِنِي - كَبْهِي كَبْهِي اِسُّ كَالِثُ هِي هُو جَاتَا هِيَ - (لِسَانُ الْعَرَبِ)

مَنْعًا: اپنے ذمے جو چیزیں لازم ہیں ادا نہ کرنا۔ مثلاً مال، حسن سلوک وغیرہ۔

هَاتٍ: فعل امر بمعنی آت یعنی لاوے۔ بعض کہتے ہیں آت کے حمزہ کو ہاء سے بدل دیا ہے۔ آتی یؤتی ”دینا“ یعنی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور اپنے لئے ہر چیز کا مطالبہ کرتے چلے جانا۔

هَوَاتِدُ: ① اس حدیث میں والدہ کے دل دکھانے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے حالانکہ ماں باپ دونوں کے ساتھ ہی احسان کا حکم ہے اور والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اولاد کی مشقت زیادہ اٹھاتی ہے۔

﴿ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَتَيْنِ اِنْ اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ (لقمان ۱۴/۳۱)

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق وصیت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔“

صحیحین کی ایک حدیث میں آپ نے تین دفعہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی چوتھی دفعہ باپ کا ذکر فرمایا: ماں کا ذکر خاص طور پر اس لئے بھی کیا کہ کمزور ہونے کی وجہ سے اولاد اسے زیادہ ستاتی ہے۔

② عقوق سے مراد اولاد کا ہر وہ قول یا فعل ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو بشرطیکہ وہ بھی ضد میں نہ آئے ہوئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُمْ كَانَ لِلْأَقْرَبِينَ عَفْوَكَ﴾ (الإسراء: ۱۷/۲۵)

”تمہارا رب اس چیز کو خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم صالح ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشے والا ہے“ اسی طرح شرک یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں والدین کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) ”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا حکم ماننا جائز نہیں۔“ (شرح السنۃ ۱۰/۳۴، حدیث: ۲۳۵۵)

③ وَوَأَذِ النَّبَاتِ اہل جاہلیہ عام طور پر بیٹیوں کو اس لئے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ جنگ میں دشمن کے ہاتھ نہ آجائیں اور اس لئے بھی کہ لڑکے تو کمائیں گے جنگ میں معاون بنیں گے لڑکیاں تو بوجھ ہی بوجھ ہیں۔ کئی لوگ فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) ”اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو۔“ قدیم جاہلیت میں یہ کام انفرادی طور پر ہوتا تھا۔ جاہلیت جدیدہ میں حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں مثلاً چین کے دہریوں نے دو بچوں سے زائد بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے اگر کسی عورت کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہو جائے تو زچہ خانے میں ہی حکومت کی مقرر کردہ نرسیں اور ڈاکٹر اسے زہر کا ٹیکہ لگا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے کافر ملک مسلمان

ممالک میں بھی یہ قانون نافذ کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ابھی تک ترغیب و تحریص سے کام لیا جا رہا ہے اگلا قدم جبر کا ہوگا افسوس کہ مسلمان حکمران بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے اور اس کو رزاق سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو رزق کے ٹھیکے دار سمجھ کر مسلمانوں کی نسل کشی کے درپے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔

④ وَمَنْعًا وَهَاتِ . خود کسی کو بچھ نہ دینا اور دوسروں سے ہر چیز کا تقاضا ہی کرتے چلے جانا جس طرح پیروں کا لطیفہ مشہور ہے کہ تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے۔ یہ نہایت ہی نست کی بات ہے۔

⑤ قَبِلَ وَقَالَ - یہ کہا گیا اور فلاں نے کہا اس صورت میں یہ فعل ماضی مجہول اور معروف کے صیغے ہیں یہ دونوں لفظ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں قُلْتُ قَوْلًا وَقَبِلًا وَقَالَ میں نے بات کہی۔ بعض اوقات قَبِلَ وَقَالَ فعل کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے مگر مراد اسم ہوتا ہے۔

⑥ تمہارے لئے قَبِلَ وَقَالَ کو ناپسند کیا اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ (الف) لوگوں کے متعلق سنی سنائی باتیں بلا تحقیق آگے پہنچانا یا تحقیق کر کے دوسروں کو سناتے رہنا پہلی صورت میں جھوٹ اور بہتان کا مرتکب ہو گا دوسری صورت میں غیبت اور چغلی کا ارتکاب کرے گا کیونکہ عموماً لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کے متعلق بات کی جائے۔

(ب) لوگوں کے عیوب اور کمزوریاں بیان کرتے چلے جانے سے انسان اپنی حالت سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اس لئے قیل و قال کو ناپسند فرمایا صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَالَ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ”جو کہے کہ لوگ برباد ہو گئے وہ ان سب سے زیادہ برباد ہے۔“ (مسلم / البر ۱۳۹)

(ج) دین کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کو بیان کرتے چلے جانا۔ فلاں امام نے یہ کہا فلاں نے یہ، بعض علماء یوں فرماتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور

پختہ اور اصل بات کا فیصلہ نہ کرنا۔

اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی بات کے ساتھ دوسروں کے اقوال ذکر کرنا مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا خصوصاً جب وہ کتاب و سنت کے خلاف ہوں اس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی بات کی سبکی ہوتی ہے۔

دَعُوا كُلَّ قَوْلٍ عِنْدَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ

فَمَا آمِنٌ لِي فِي دِينِهِ كَمُخَاطَبِ

”محمد ﷺ کی بات کے سامنے ہر بات چھوڑ دو کیونکہ اپنے دین میں امن والا آدمی

اس شخص کی طرح نہیں جو خطرے میں پڑا ہوا ہے۔“

ہاں اگر رد کے لئے ایسے اقوال ذکر کئے جائیں تو کوئی حرج نہیں مگر وہ قیل قال نہیں ہوگا۔ بلکہ قیل وقال کا رو ہوگا۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ قیل وقال سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ان اقوال میں سے کون سا قول اختیار کروں اور آخر کار دین سے ہی منحرف ہو جاتا ہے۔

تیسری یہ کہ جب انسان زیادہ قیل وقال ذکر کرتا ہے تو بہت سی باتیں بغیر تحقیق کر جاتا ہے۔ جس سے اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (مقدمہ صحیح مسلم) ”آدمی کو جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو کچھ سنے آگے بیان کر دے۔“

چوتھی یہ کہ قیل وقال میں بہت سی باتیں ایسی کرے گا جن کا اسے نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں اس لئے زیادہ باتیں کرنا ہے ہی نامناسب۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون ۲/۳)

”اور (ایمان والے وہ ہیں) جو بے فائدہ باتوں سے روگردان رہتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ»

”یہ بات آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بے مقصد چیزیں چھوڑ دے۔“

7] وَكَفَرَةُ السُّؤَالِ اس میں بھی کئی چیزیں شامل ہیں۔

(الف) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سوال کرنا اس لئے منع تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سوال کرنے سے مسلمانوں کے لئے وہ چیزیں حرام ہو جائیں جو سکوت کی وجہ سے جائز تھیں۔

﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ فَتَنُوكُمْ ﴾ (المائدة/۱۰۱)

”ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔“

(ب) بلا ضرورت لوگوں کے حالات کی جستجو کرنا ان کے ذاتی معاملات کے متعلق پوچھنا خواہ مخواہ کا تجسس ناپسندیدہ عمل ہے۔

(ج) ایسے سوال کرنا جن کا وجود ہی نہیں محض فرضی صورتیں ہیں یا ابھی تک وجود میں نہیں آئیں سلف صالحین اسے سخت ناپسند فرماتے تھے۔ مثلاً بعض رائے پرستوں نے سوال پیدا کیا کہ اگر کتے نے بکری سے جفتی کی اور بچہ مشترک پیدا ہوا تو حلال ہے یا حرام؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ دیکھنا چاہئے گوشت اور گھاس سامنے رکھ کر اگر گھاس کھاتا ہے تو حلال ہے گوشت کھاتا ہے تو حرام اگر دونوں کھائے تو اس کو مارا جائے گا اگر بھونکے تو کتے کے حکم میں ہے ورنہ بکری کے اگر دونوں آوازیں کرتا ہو تو ذبح کیا جائے اگر اوجھری نکلے تو کھایا جائے ورنہ نہیں۔۔۔

ان لوگوں کو محض سوال پیدا کرنے اور ان کا جواب گھرنے سے غرض تھی یہ نہیں کہ کہیں ایسا ہوا بھی ہے یا ہو سکتا بھی ہے۔ بتائیے کتے اور بکری کی جفتی سے پیدا ہونے والا جانور کہاں پایا جاتا ہے؟

(د) علماء کو پھنسانے اور نیچا دکھانے کے لئے سوال کرنا اکرام مسلم کے خلاف ہے اور اکرام علم کے بھی خلاف ہے۔

(۵) لوگوں سے مال یا دوسری چیزیں مانگنا۔ رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ سے بیعت کی کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ ان میں سے کئی حضرات نے اس عہد کی اتنی پابندی کی کہ اگر گھوڑے سے ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی کو پکڑانے کے لئے نہ کہتے بلکہ خود اتر کر پکڑتے اور دوبارہ سوار ہو جاتے۔ (مسلم حدیث ۱۰۴۳)

⑧ وَاصْاعَةَ الْمَالِ ضَالِحٌ كَرْنَا، تَاجِرٌ جَلْمٌ فِي خَرْجِ كَرْنَا يَأْتِي حَيْثِيَّةً يَأْتِي مَوْقِعَهُ كِي مَنَابِتٍ سِي بَرِّهِ كَر خَرْجِ كَرْنَا مَالِ كُو ضَالِحٌ كَرْنَا هِي۔

اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے

٤/ ١٣٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَضِيَ اللَّهُ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطَ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

”عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کے راضی ہونے میں ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔“

تخریج: صحیح ترمذی (۱۸۹۹) ابن حبان (۳/ ۳۵۹) حَام (۳/ ۱۵۲) شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۵۱۲) میں اس کی تخریج و تصحیح پر مفصل بحث کی ہے۔ مفردات: رَضَا - رَضِيَ عَنْهُ وَعَلَيْهِ يَرْضَى رَضًا عَلِمَ يَعْلَمُ كَامْصَدْرِهِ - بَكْر راء - ناقص واوی - سَخَطٌ قُفْلٌ، عَنُقٌ أَوْ جَبَلٌ كِي وَزَنٍ پَرِ سَخَطٌ، سُخْطٌ أَوْ سَخَطٌ پَرِ هَا جَاتَا هِي عَلِمَ يَعْلَمُ كَامْصَدْرِهِ۔

فوائد: [1] اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کو راضی کرنا فرض ہے اور انہیں ناراض کرنا حرام ہے کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (لقمان: ۱۴) ”میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔“ اور فرمایا:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء: ۱۷/۲۳)

”اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔“

[2] والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فرضیت میں بہت سی احادیث ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ مَن أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»
(مسلم عن أبي هريرة البر/ ۹)

”اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔“

(ب) ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے فرمایا ﴿الصَّلَاةُ لَوْ قُبِيهَا﴾ ”وقت پر نماز“ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ﴿بِرُّ الْوَالِدَيْنِ﴾ ”والدین سے حسن سلوک“ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا: ﴿الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”اللہ کے رستے میں جہاد کرنا“ (متفق علیہ)

(ج) ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں تین دفعہ فرمایا ہم نے عرض کیا۔ کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ﴿الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ﴾ (الحدیث) ”اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو

ستا۔“ (صحیح بخاری ۵۹۷۶)

3] والدین کا حکم صرف اسی وقت مانا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ مثلاً والدین ایسا کام کرنے کا حکم دیں جس سے اللہ نے منع فرمایا یا ایسے کام سے روکیں جو اللہ نے ہر ایک پر فرض کیا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي مَعْرُوفٍ» (متفق علیہ مشکوٰۃ کتاب الامارۃ) ”اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اطاعت صرف معروف میں ہے۔“ خصوصاً اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں:

﴿وَلَنْ جَاهِدَكَ عَلَيَّ أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

(لقمان ۱۵/۳۱)

”اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور کریں کہ میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھ کو علم نہیں تو تو ان کا کہنا نہ مان۔“

4] نواب صدیق خاں رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا: خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہو یا وہ چیز ترک کرنی پڑتی ہو جو فرض عین ہو یعنی ہر ایک شخص پر فرض ہو تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ان کی اطاعت صرف ان چیزوں میں ہے جو مباح ہیں۔

شرح اقتاع میں فرمایا: والدین اگر کوئی فرض چھوڑنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ مثلاً ان چیزوں کا علم حاصل کرنا جو آدمی پر فرض ہیں۔ اور جن سے دین قائم رہتا ہے جیسا کہ طہارت صلاۃ صیام وغیرہ (کیونکہ ان فرائض کی ادائیگی ان کے علم کے بغیر ممکن نہیں) اگر یہ علم اپنے شہر میں حاصل نہ ہو سکے تو ان کی اجازت کے بغیر سفر کر سکتا ہے کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ (بحوالہ توضیح الاحکام) کفار کے ساتھ لڑنے کی تربیت حاصل کرنا اور لڑائی کی تیاری کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ

تیاری نہ کرنا منافقین کا کام ہے:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً﴾ (التوبة ۹/۴۶)

”اور اگر یہ (جنگ کے لئے) نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی تیاری ضرور کرتے۔“

اگر اپنے شہر میں یہ تیاری ممکن نہ ہو تو سفر کے لئے والدین کی اجازت کی کوئی شرط نہیں اور اگر وہ منع کریں تو ان کی بات ماننا جائز نہیں۔

۵] عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے جہاد کے لئے اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو انہیں میں جہاد کر۔ (البخاری الجہاد باب ۱۳۸)

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ((الْجِهَادُ بِأَذْنِ الْآبَوَيْنِ)) ”ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جہاد“ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

جمہور علماء فرماتے ہیں جب ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک منع کر دے تو جہاد حرام ہے بشرطیکہ وہ دونوں مسلمان ہوں کیونکہ ان سے حسن سلوک اس پر فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے البتہ جب جہاد فرض عین ہو جائے تو کوئی اجازت نہیں لی جائے گی۔ (فتح الباری حدیث ۳۰۰۴)

۶] جب جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت اگر کوئی شخص ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے جہاد پر نہ جائے تو اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلْإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة ۹/۲۴)

”کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں وہ کاروبار جس کے مندے سے

تم ڈرتے ہو اور وہ رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہیں (اگر یہ سب چیزیں) تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (عذاب) لے آئے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

7] مندرجہ ذیل صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔

1] جب دشمن مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ کر دے یا قبضہ کر لے (تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر قرطبی مسئلہ رابعہ آیت ۳۱ سورت توبہ)

2] جب امیر کسی گروہ یا خاص شخص کو نکلنے کا حکم دے دے۔ (وَإِذَا اسْتَفْزَمْتُمْ فَلَا فِزْوًا) (بخاری ۲۸۲۵) ”جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکلو۔“

3] جب کوئی شخص میدان میں ہو اور لڑائی شروع ہو جائے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ

الْأَدْبَارَ﴾ (الأنفال ۱۵/۸)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے لڑائی کی ٹڈ بھیز میں ملو جو کافر ہیں تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔“

مسلم بھائی کیلئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرو

۱۳۷۴/۵۔ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا

یہاں تک کہ اپنے ہمسائے کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۱۳) مسلم (الایمان ۷۲) یہ حدیث مسلم میں «حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ» شک کے ساتھ ہے یعنی بھائی کے لئے یا فرمایا کہ ہمسائے کے لئے صحیح بخاری میں شک کے بغیر «حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ» کے الفاظ ہیں یعنی اپنے بھائی کے لئے پسند کرے۔“

ابو نعیم نے المستخرج میں ابراہیم الحزنی کے طریق سے مسدود سے روایت کی ہے (جو کہ حدیث میں بخاری کے شیخ ہیں) وہ یحییٰ القطان سے وہ حسین المعلم سے (وہ قتادہ سے وہ انس سے) روایت کرتے ہیں اس میں یہ لفظ ہیں (لَا يُؤْمِنُ عَبْدًا حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ وَ لِجَارِهِ) ”یعنی اپنے بھائی اور اپنے ہمسائے کے لئے پسند کرے“

اسماعیلی نے روح کے طریق سے حسین سے یہ لفظ روایت کئے ہیں «حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ» ”یعنی اپنے مسلم بھائی کے لئے وہ خیر پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے“ اور پسند کرنے سے مراد خیر پسند کرنا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ بھائی سے مراد مسلم بھائی ہے۔ (فتح الباری)

فوائد: ① ”مومن نہیں ہوتا“ سے مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ کامل مومن نہیں ہوتا جس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو انسان ہی نہیں کیونکہ دوسری آیات واحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چند اوصاف کے علاوہ کسی ایک وصف کی کمی سے کوئی شخص ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

② اس حدیث میں مسلم بھائی اور ہمسائے کے لئے وہی چیز پسند کرنے کو ضروری قرار دیا گیا جو آدمی خود اپنے لئے پسند کرتا ہو۔ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ چیز مشکل بلکہ ناممکن معلوم ہوتی ہے حالانکہ اگر آدمی اس بات کو محبوب رکھے کہ یہ نعمت جس طرح مجھے ملی ہے میری نعمت میں کمی کے بغیر میرے بھائی کو بھی مل جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے میرے بھائی پر بھی فضل کر دے تو یہ چیز کچھ مشکل

نہیں ہے مگر یہ مقام انہیں لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو قلب سلیم رکھتے ہیں دھوکے حسد اور کینے سے بھرے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو عافیت میں رکھے (نووی)

اسی طرح یہ مقام متواضع لوگ حاصل کرتے ہیں ہر چیز میں دوسروں پر اونچا رہنے کے خواہش مند یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعِاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (النقص ۲۸/۸۳)

”یہ آخری گھر ہم ان لوگوں کے لئے بناتے ہیں جو زمین میں نہ بلندی کا ارادہ رکھتے ہی نہ فساد کا اور اچھا انجام پر ہمیز گاروں کے لئے ہے۔“

سب سے بڑے گناہ

۱۳۷۵/۶ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے لئے شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ کھائے گا میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی

کے ساتھ باہم بدکاری کرے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۸۶۱) مسلم (الایمان ۱۳۲) وغیرہا دیکھئے (تحفة الاشراف ۷/۴۲) (۵۸/۷)

فوائد: [۱] سب گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک اور برابر ٹھہرائے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (بقرہ ۲۲) ”پس تم دیدہ دانستہ اللہ کے لئے شریک نہ بناؤ۔“ یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے گناہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے مگر اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

(النساء/۴، ۱۱۶)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔“

اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انبیاء بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں:

﴿ وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾ (الزمر ۲۹/۶۵)

”اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضرور ہی ضائع ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔“

[۲] شرک کے بعد قتل ناحق اور اس کے بعد زنا کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ لِاٰهَاءٍ اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ﴾ (الفرقان ۲۵/۶۸)

”اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اس

جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں۔“

قتل ناحق اس وقت قباحت میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے ہی بچے کو اس خطرے سے قتل کر دے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا اور اللہ کے وعدے پر بھی یقین نہ کرے۔

﴿وَلَا تَسْأَلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ تَنْحُنُّ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كَوْنٌ﴾ (الإسراء ۱۷/۳۱)

”اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔“
ایک قتل ناحق دوسرا اپنے لخت جگر کا قتل اور قطع رحم، تیسرا اللہ کے وعدے کی تکذیب اور اس پر بد ظنی۔

③ زنا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنتُمْ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء ۱۷/۳۲)

”اور زنا کے قریب نہ جاؤ یقیناً وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔“

زنا کی قباحت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے کیونکہ ہمسایہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے اس کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے لیکن اس کے برعکس جب ہمسایہ ہی اپنے ہمسائے کی عزت برباد کرے اس کی بیوی کو خاوند کے خلاف اپنی طرف مائل کرے اس کا گھر اجاڑنے کے درپے ہو جائے تو یہ زنا کے ساتھ کئی جرائم ملنے کی وجہ سے بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔

④ اَنْ تُزَانِيَ - باب مفاعله سے ہے اس میں مشارکت ہوتی ہے یعنی ہمسائے کی بیوی بھی اس گناہ میں شریک ہو اس کی رضامندی سے تم یہ گناہ کرو۔ اس میں مزید قباحت اس لئے ہے کہ جب وہ کسی غیر کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ برائی کرے گی تو خاوند سے اس کی وفا ختم ہو جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا۔

⑤ حَلِيلَةٌ جَارِكُ هَسَائِے كِ بِيوِ كُو حَلِيلَةٌ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے لئے حلال ہوتی ہے مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لئے حلال ہے تمہارے لئے

طلال نہیں۔

ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے

۱۳۷۶/۷۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے؟“ کہا گیا: ”اور کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟“ فرمایا ”ہاں کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری / الادب / بَابُ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (۱۰/۳۰۳) مسلم (الایمان ۱۳۶) وغیرہما۔

فوائد: ① قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو ”اف“ کہنے اور جھڑکنے سے منع فرمایا:

﴿ فَلَا تَقُلْ لِمَا آفَى وَلَا لِنَهْرِهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

(الاسراء ۱۷/۲۳)

”تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کو عزت سے مخاطب کرو۔“

گالی دینا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔

② والدین کو اگرچہ خود گالی نہ دے اور نہ ہی تکلیف دے مگر ایسا کام کرے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی انہیں گالی دے یا تکلیف پہنچائے تو یہ حرام ہے۔

③ جس کام کے نتیجے میں خطرہ ہو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ کام بھی ناجائز ہے مثلاً کسی کے والدین کو گالی دینے سے خطرہ ہے کہ وہ اس کے والدین کو گالی دے گا اگرچہ یہ ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے والدین کو گالی نہ دے فقہاء کی اصطلاح میں اسے سد ذرائع کہتے ہیں۔

سد ذرائع کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

(الأنعام ۶/۱۰۸)

”اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو نہیں تو بے سمجھی سے ضد میں آکر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔“

ایک اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے عائشہ! اگر تمہاری قوم نئی نئی جاہلیت سے (اسلام میں) آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دیتا اور اسے گرا دیا جاتا اس کا جو حصہ اس سے نکال دیا گیا ہے میں اس میں داخل کر دیتا اور اسے عین زمین کے ساتھ ملا دیتا اس کا ایک مشرقی دروازہ بنا دیتا اور ایک مغربی اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پہنچا دیتا۔ (بخاری / الحج ۳۲)

رسول اللہ ﷺ نے اس خطرے سے کعبہ کو نہیں گرایا کہ کعبہ کو گرانے سے یہ نئی نئی مسلمان ہونے والی قوم شہادت میں مبتلا نہ ہو جائے حالانکہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنانے میں بہت سے فائدے تھے۔

البتہ ایک بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے صرف وہ کام چھوڑ سکتا ہے جو ضروری نہ ہو بلکہ اختیاری ہو۔ اگر فرض کی ادائیگی سے کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی پروا نہیں کی جائے گی مثلاً اگر کوئی شخص نماز کی

دعوت دینے سے بدزبانی شروع کر دے تو نماز کی دعوت ترک نہیں کی جائے گی۔ صرف اختیاری کام چھوڑے جاسکتے ہیں امام بخاری نے اس موضوع پر ایک عنوان قائم کیا ہے بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْأَخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْضَرَ فَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ فَيَقْعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ "یعنی اس شخص کا بیان جو بعض اختیاری چیزیں (جو ضروری نہ ہوں) اس خوف سے چھوڑ دے کہ بعض لوگوں کی سمجھ اس سے تاصر رہے گی۔ تو وہ اس سے بھی سخت چیز میں جا پڑیں گے۔"

تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا حلال نہیں

۱۳۷۷/۸ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلم کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے وہ دونوں ملیں تو یہ اس طرف منہ پھیر لے اور وہ (اس طرف) منہ پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۰۷۷) مسلم (البر والصلة ۳۵) وغیرہا دیکھئے تحفة الأشراف (۹۸/۳) (۱۰۵/۶) (۹۰/۱۰)

فوائد: ① تین راتوں سے زیادہ حلال نہ ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ تین راتوں سے زیادہ آپس میں بول چال چھوڑ دینا حرام ہے۔ کیونکہ بات چیت چھوڑ دی تو سارے

حقوق ہی ضائع کر دیئے جو ایک دوسرے پر واجب تھے مثلاً سلام، قبول دعوت، عیادت، چھینک کا جواب وغیرہ۔

تین رات تک باہمی گفتگو چھوڑنا جائز ہے کیونکہ ناراضگی اور غصہ انسانی فطرت ہے۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے اتنی رعایت دی گئی ہے تاکہ پہلے دن غصے میں ٹھہراؤ آجائے، دوسرے دن انسان کچھ سوچے، تیسرے دن واپس لوٹ آئے عموماً تین دنوں میں غصہ ختم یا کم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ قطع تعلق کرے گا تو قطع حقوق لازم آئے گا۔

③ قطع تعلق جو حرام ہے سلام کہنے سے ختم ہو جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ فَوَاقٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ»
(صحیح ابی داودہ ۴۱۰)

”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ پس جب وہ اسے ملے تو اسے تین دفعہ سلام کہے اگر (دوسرا آدمی) ہر دفعہ اسے جواب نہیں دیتا تو وہ اس کے گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔“

امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دوسرے بھائی کو اس کے بات نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو صرف سلام سے قطع تعلق ختم نہیں ہو گا بلکہ پہلے جیسے تعلقات بحال کرنے سے ختم ہو گا۔ مگر اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام وہ صورت ہے جس میں دونوں ملتے ہیں مگر منہ پھیر لیتے ہیں اور سلام تک نہیں کہتے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ اخوت دینی جس تعلق کا تقاضا کرتی ہے وہ پہلے تعلقات مکمل بحال کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

④ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا جائز ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ معلوم

ہوتا ہے کہ یہ قطع کلام مخلص ساتھیوں کے لئے ہے جن پر بات چیت چھوڑنے سے اثر پڑتا ہو اور وہ حق کی طرف پلٹ آنے والے ہوں ورنہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے کفار اور منافقین سے بات چیت ترک نہیں فرمائی کفار اور منافقین کے ساتھ قطع تعلق دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں۔ البتہ مخلص مسلمانوں سے ظاہری عتاب ترک کلام سے ہوتا ہے دل سے قطع تعلق نہیں ہوتا۔

ہر اچھا کام صدقہ ہے

۱۳۷۸/۹ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

”جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر اچھا کام صدقہ ہے۔“

تخریج: بخاری (۶۰۲۱) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۷۵/۲)

فوائد: ① معروف کا معنی ہے پہچانا ہوا یعنی وہ کام جس کا اچھا ہونا شریعت یا عقل کے لحاظ سے جانی پہچانی بات ہے۔

② صدقہ کا اصل تو یہ ہے کہ آدمی خوشی سے اپنے مال سے کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لئے دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسری خداداد صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر وہ یہ کام نہ کر سکے یا نہ کرے؟ آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کر دے انہوں نے کہا اگر وہ یہ کام نہ کرے؟

فرمایا پھر بھلائی کا حکم دے پوچھا اگر یہ بھی نہ کرے؟ فرمایا پھر برائی سے باز رہے یہی اس کے لئے صدقہ ہے۔ (بخاری ۶۰۲۲)

ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لئے صدقہ ہے اور تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا تمہارے لئے صدقہ ہے اور تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا تمہارے لئے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔“ (ترمذی البر ۳۶) صحیح الترمذی (۱۵۹۳)

معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو

۱۰/۱۳۷۹۔ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِي»

”ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بھلائی میں سے کسی چیز کو ہرگز حقیر مت سمجھ خواہ (تناہی ہو کہ) تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے۔“ (مسلم)

تخریج: مسلم (البر والصلۃ ۱۳۳) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۵/۱۷۵)

فوائد: نیکی کا کوئی بھی کام معمولی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (البقرہ ۲/۲۱۵)

”اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزلہ ۷/۹۹)

”پس جو شخص ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا۔“

ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ

۱۱/۱۳۸۰۔ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرِ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» (أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ)

”ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تو شوربا پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھ۔“ (مسلم)

تخریج: مسلم (البر والصلوة ۱۳۳)

فوائد: ① رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔“ (متفق علیہ)

② اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنی لذت کا ہی خیال نہ رکھو بلکہ اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھو اگر گوشت یا سبزی کم ہے اور تم اپنے ہمسائے کو اس میں سے نہیں دے سکتے تو شوربا زیادہ کر لو تاکہ ہمسائے کو بھی دے سکو۔ یہ مروت کے خلاف ہے کہ تم بھنا ہوا گوشت کھاؤ اور ہمسایہ سالن کے بغیر کھائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ» (اليهمني في شعب الایمان وحسنه الألبانی فی حاشیة المشکوۃ ۴۹۹۱)

”مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔“

③ ہمسائے کو تحفہ دیتے وقت یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں پتلا شوربا یا معمولی چیز

بطور تحفہ کیوں دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ہمسالی اپنی پڑوس کے لئے کسی چیز کو حقیر نہ جانے خواہ وہ بکری کی کھری کیوں نہ ہو۔“ (بخاری، ھیہ ۱/)

مسلمان کی مدد اور پردہ پوشی کی فضیلت

۱۲/۱۳۸۱۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی مسلم سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرمائے گا اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلم پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں (رہتا) ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں (رہتا) ہے۔“

تخریج: (مسلم) (الذکر والدعاء / ۳۸) اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۷۵/۹)

مفردات: نَفَسَ یہ تنفیس الخناق سے مشتق ہے یعنی گلا گھونٹنے والی چیز کو ڈھیلا کرنا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ نَفَسٌ کا معنی سانس ہوتا ہے۔ مراد تنگی دور کرنا ہے۔

کڑی ایسا غم جو نفس کو فکر مند کر دے اور دل کو ڈھانپ لے اس طرح کہ گویا سانس لینے کی گنجائش نہ رہے۔

فوائد: ① مسلمان کی دنیا کی تنگیوں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں جنہیں دور کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، مثلاً اگر اسے مالی تنگی درپیش ہے تو اگر ہو سکے تو اپنے پاس سے مال دے کر اسے دور کرے یا اسے قرض دے دے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی دوسرے سے مال دلاو دے یا قرض دلاو دے۔ اگر کسی ظالم کے ظلم سے تنگ ہے تو وہ ظلم دور کرنے یا کم کرنے کی کوشش کرے اگر بیمار ہے تو علاج میں اس کی مدد کرے وغیرہ۔ آخرت میں پیش آنے والی سختیاں بھی بے شمار ہیں۔

نووی نے فرمایا کہ مسلم بھائی کی تنگی دور کرنے والے کے لئے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرنے کی بشارت تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اس حدیث میں ایمان پر خاتمہ کی بشارت بھی ضمناً مذکور ہے۔ ”(توضیح) ② تنگ دست پر آسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة ۲/۲۸۰)

”اور اگر وہ (مقروض) تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینا ہے آسانی تک اور تم صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہو۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تنگ دست کے لئے آسانی کی ایک صورت یہ ہے کہ اسے مہلت دے دے یہ تو واجب ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا قرض معاف کر دے بلکہ ہو سکے تو اس کے ساتھ اس کا مالی تعاون بھی کر دے تاکہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے یہ فضیلت کی بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکر سے کہتا اس سے درگزر کرو شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا۔“ (متفق علیہ مشکوٰۃ باب الافلاس)

③ جو شخص کسی تنگدست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا معلوم ہوا کہ اگر تنگدست پر سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص خوشحال ہو تو اس سے اپنا حق لینے کے لئے تنگی کر سکتا ہے کیونکہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ (متفق علیہ)

اور اگر پیسے ہوتے ہوئے نہ دے تو اس کی بے عزتی کرنا اور سزا دینا جائز ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح (ابوداؤد، نسائی عن الشریذ)

④ ”مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا“ جو شخص کسی مسلمان کی کسی لغزش یا غلطی پر مطلع ہو پھر اس پر پردہ ڈال دے تو اسے یہ اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈال دے گا۔ دنیا میں اس طرح کہ اسے ایسی غلطی سے ہی محفوظ رکھے گا یا اگر ایسی غلطی کر بیٹھے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگی اور آخرت میں اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے برے اعمال ظاہر نہیں کرے گا۔

⑤ جو شخص چھپ کر گناہ کرے اس پر پردہ ڈالا جائے گا لیکن جو شخص کھلم کھلا علانیۃً اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور روکنے سے نہیں رکتا اس کا معاملہ ان لوگوں کے پاس پہنچایا جائے گا جو اسے روک سکیں کیونکہ اگر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ برائی میں اس کی مدد ہوگی فرمان الہی ہے ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ”اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔“ (المائدہ: ۲)

⑥ حدیث کے راویوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں کیونکہ اس سے دین کی تحریف کا خطرہ ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے بیت المال میں خیانت کرنے والوں کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے جو کہ فرض ہے۔

⑦ مسلمان پر پردہ ڈالنے میں دوسروں مسلمانوں کے علاوہ آدمی خود بھی شامل ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کسی کو نہ بتائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔

⑧ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی اپنے بھائی کا تعاون جس کام میں کر رہا ہوتا ہے اس میں اللہ کی امداد شامل ہوتی ہے اس

کے علاوہ اس کے اپنے کاموں میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، مگر اس صورت میں اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے اس لئے جو شخص چاہے کہ اس کے سب کام درست رہیں وہ دوسرے مسلم بھائیوں کی مدد کرتا رہے۔

⑨ مسلم بھائیوں کو خوش کرنے کو افضل عمل قرار دیا گیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ تُدْخَلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا أَوْ تَقْضَى عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تُطْعَمَهُ خُبْزًا» (فضاء الحوائج لابن أبي الدنيا بحوالہ سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث حسن ۱۴۹۴)

”سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کرے یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے یا اسے روٹی کھلا دے۔“

⑩ اللہ تعالیٰ بندے کو عمل کی جزا اس کے عمل کی طرح ہی دیتے ہیں کوئی پردہ ڈالے تو پردہ ڈالتے ہیں۔ تنگی دور کرے تو تنگی دور کرتے ہیں۔ مومن کی مدد کرے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی مومن کو رسوا کرے تو اسے رسوا کر دیتے ہیں۔

نیکی کا راستہ دکھانے کا اجر

۱۳/۱۳۸۲- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آخِرِ
فَاعِلِهِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص کسی کو بھلائی (کے کام) کا راستہ دکھائے اس کے لئے بھلائی کرنے

والے کے ثواب کی طرح ثواب ہے۔“

تخریج: (مسلم) (الامارة / ۱۳۳) دیکھئے تحفة الاشراف ۷/ ۳۲۹)

فوائد: ① جو شخص کسی کو نیکی کا کوئی کام بتائے اسے نیکی کرنے والے جتنا اجر مل جاتا ہے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ (جو کتاب و سنت سے ثابت ہو) جاری کرے اس کے لئے اس کا اجر ہے اور ان سب لوگوں کا اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ (مسلم- ۱۰۱۷)

② نیکی کا کام خود بتا دے یا کسی ایسی جگہ بھیج دے جہاں سے اسے رہنمائی حاصل ہو جائے اشارے سے بتا دے یا زبان سے یا تصنیف و تالیف کے ذریعے سے۔ اس فضیلت میں مبلغین، اساتذہ، مصنفین، مدارس میں طلباء کو بھیجنے والے سب شامل ہیں اور مجاہدین اسلام بدرجہ اولیٰ شامل ہیں جن کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اسلام کی دولت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (مسلم / ۲۳۰۶)

اسی لئے جو مقام صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوا بعد والے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ بعد والوں کی نیکیاں صحابہ کے دین پہنچانے کی وجہ سے صحابہ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو چکی ہیں۔

اللہ کے نام پر کیا گیا سوال رد نہ کیا جائے

۱۴/ ۱۳۸۳- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ» (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے اللہ کے (نام کے) ساتھ پناہ مانگے اسے پناہ دو اور جو شخص تم سے اللہ کے (نام کے) ساتھ سوال کرے اسے دو اور جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے بدلہ دو اگر تم (بدلہ دینے کے لئے کوئی چیز) نہ پاؤ تو اس کے لئے دعا کرو۔“ (بیہقی)

تخریج: [صحیح] (بیہقی (۳ / ۱۹۹) حاکم (۱ / ۴۱۲) احمد (۲ / ۶۸ / ۹۹) ابو نعیم فی الحلیۃ (۵۶/۹) نے کئی سندوں سے عن اعمش عن مجاہد عن ابن عمر مرفوعاً روایت کیا ہے حاکم نے فرمایا یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے ذہبی نے اس کی موافقت کی اور البانی نے فرمایا۔ ان دونوں نے جو فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ ”الصحيحۃ“ (۲۵۴)

فوائد: ① ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے اس روایت میں یہ لفظ زیادہ کئے ہیں «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ» یعنی اگر تمہیں بدلہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ملے، تو اس کے لئے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے تم نے اسے بدلہ دے دیا ہے۔“

ترمذی میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے، اگر وہ (کوئی چیز) پائے تو بدلہ دے جو نہ پائے وہ تعریف کر دے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے (احسان کو) چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ترمذی (البر / ۸۷) صحیح الترمذی (۱۶۵۶)

② اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی بھلائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کو یہ کہے «جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا» (اللہ تجھے بہتر بدلہ دے) تو اس نے تعریف کا حق ادا کیا (ترمذی۔ البر / ۸۸) صحیح الترمذی (۱۶۵۷)

اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ تمہارا احسان مجھ پر اتنا بڑا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا اس کا بہتر بدلہ تجھے اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے۔

- ③ جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دو خواہ اسے تم سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو یا کسی دوسرے سے۔ اللہ کے نام پر مانگے تو اسے دو۔ سائل کا ویسے ہی حق ہے، مگر جب اللہ کا نام درمیان میں آجائے تو اس کی قدر کرنا لازم ہے۔
- ④ مخلوق سے وہ چیز مانگ سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو ہاں اگر مخلوق سے وہ چیز مانگے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے تو یہ شرک ہے۔ یہی معاملہ پناہ مانگنے کا ہے۔



دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان

الزهد۔ کسی چیز کی رغبت کم ہونا۔ مراد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف ساری توجہ رکھنا ہے نووی نے اربعین کی شرح میں فرمایا زہد یہ ہے کہ دنیا کی غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے خواہ حلال ہی ہوں اور انہیں چیزوں پر گزارا کرے جبکہ بغیر چارہ نہیں۔ (مسک الختام) ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا دنیا میں زہد حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بھروسہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں اور تمہیں کوئی مصیبت اگر پہنچے تو اسکے ثواب کی رغبت اس سے زیادہ ہو کہ وہ مصیبت تمہیں نہ پہنچتی۔ صاحب سبل نے فرمایا یہ نبوی تفسیر دوسری تفسیروں سے مقدم ہے۔

مگر یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے ترمذی نے فرمایا اس میں عمرو بن واقد منکر الحدیث ہے البانی نے بھی اسے ضعیف جدا قرار دیا ہے دیکھئے ضعیف الترمذی حدیث (۴۰۵) الورع۔ بچتا۔ مراد حرام سے بچنا بلکہ حرام سے بچنے کیلئے شبہ کی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔

مشتبہ امور سے بچنے کا حکم

۱/۱۳۸۴۔ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ

إِصْبَعَيْنِهِ إِلَى أذُنَيْهِ -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ،
وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ
انْقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ
فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ
مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ
فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ نعمان نے یہ بات اپنی انگلیاں کانوں کی طرف لے جاتے ہوئے کسی۔ ”یقیناً حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شخص شبہوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو شبہ کی چیزوں میں جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا جیسا کہ وہ شخص جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد مویشی چرانے والا ہے قریب ہے کہ اس میں جا پڑے یا درکھو ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے خبردار اللہ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار اور جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے یا درکھو وہ دل ہے۔“
(متفق علیہ)

تخریج: (بخاری ۵۲) مسلم (المساقاة / ۱۰۷) وغیرہما

فوائد: ① حلال ظاہر ہے۔ کسی کو اس کے حلال ہونے میں شک نہیں مثلاً پھل، روٹی، شہد، دودھ اور کھانے پینے کی عام چیزیں، اسی طرح خرید و فروخت اور دوسرے معاملات جو سب جانتے ہیں کہ حلال ہیں۔

حرام ظاہر ہے مثلاً خنزیر کا گوشت، شراب، زنا، غیبت، چغلی اور جھوٹ وغیرہ ان دونوں کا حکم واضح ہے جس کی حرمت صاف قرآن و حدیث میں آگئی وہ حرام ہے جس کا حلال ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا وہ حلال ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی وہ بھی حلال ہے اسی طرح جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا وہ بھی حلال ہے۔

② ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ ان کی مشابہت حلال سے بھی ہے اور حرام سے بھی، ان کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے صرف پختہ عالم ہی جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حرام سے بچنا چاہے تو وہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے کیونکہ اگر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے گا تو حرام سے صحیح نفرت باقی نہیں رہے گی آہستہ آہستہ واضح حرام چیزوں کا استعمال بھی شروع کر دے گا۔

③ جو شبہات میں جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے کیونکہ اگر یہ مطلب نہ ہو تو پھر مشبہات صاف ہی حرام کی قسم بن جائیں گی جب کہ یہ بات درست نہیں۔

④ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی۔ کیونکہ شبہات سے بچے گا تو صریح حرام سے بدرجہ اولیٰ بچے گا اس سے اس کا دین محفوظ ہو گیا عزت اس لئے کہ اگر شبہ والی چیزیں استعمال کرے گا تو عام لوگ بدگمان ہو جائیں گے جس سے اس کی عزت پر حرف آئے گا۔

⑤ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے راستے میں گری ہوئی ایک کھجور دیکھی تو فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کے مال سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ (متفق علیہ)

⑥ تمام مکروہ چیزوں سے بچنا بھی اس میں شامل ہے کیونکہ مکروہ سے نفرت ختم ہوتی ہے

تو آدمی حرام تک جا پہنچتا ہے۔ اگر مکروہ چیزوں سے نفرت قائم رہے تو حرام کے ارتکاب کی دلیری نہیں ہوتی۔

⑦ جسم کے درست یا خراب ہونے کا اصل مکتبہ دل ہے۔ کیونکہ سارے اعضاء دل ہی کی بات مانتے ہیں دل مکتبہ ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے پاؤں چل پڑتے ہیں اور اگر وہ مکتبہ ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے اور پاؤں رک جاتے ہیں۔ دل کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو عقل اس کے جواز کے دلائل کا انبار لگا دیتی ہے اگر نفرت کرتا ہے تو دوسری جانب کی دلیلیں نکال لاتی ہے۔

پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا

۱۳۸۵/۲۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ
وَالْقَطِيفَةَ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہلاک ہو گیا دینار، درہم اور چادر کا غلام اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر اسے نہ دیا جائے تو خوش نہیں ہوتا۔“

تخریج: بخاری (۶۴۳۵) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۴۳۱/۹) (۴۳۹/۹)

مفردات: تَعَسَّ اور سَمِعَ دونوں کے وزن پر آتا ہے جب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو تَعَسَّ سے استعمال کرتے ہیں مثلاً تَعَسَّتْ اور جب کسی کے بارے میں بیان کرنا ہو تو فَرِحَ کی طرح مثلاً تَعَسَّ فَلَانَ اس کا معنی ہلاک ہو گیا۔ پھسل گیا۔ (قاموس)
الْقَطِيفَةُ وہ چادر جس کو جھال لگی ہوئی ہو۔

فوائد: ① اس حدیث میں دینار، درہم اور چادر کا ذکر بطور مثال ہے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کی طلب میں اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کے مالک کی طرح اُسے ہر طرف لئے پھرتی ہیں انہیں حاصل کرنے کے لئے وہ ہر ذلت برداشت کرنے کے لئے تیار ہے جس طرح غلام مالک کا ہر حکم مانتا ہے اس کی خوشی اور ناخوشی بھی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ اس کی پسندیدہ دنیا کی چیز سے ملتی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴾ (النوبة ۵۸/۹)

”اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تجھ پر طعن کرتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو فوراً بگڑ بیٹھتے ہیں۔“

پھر دنیا میں لوگوں کی پسندیدہ چیزیں بھی مختلف ہیں کوئی مال کا بھوکا ہے کوئی عمدہ کا کوئی حسینوں کا غلام ہے کوئی جائیداد اور کوٹھیوں کے چکر میں گرفتار ہے۔

② انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاریات ۵۶/۵۱)

”اور میں نے جن وانس کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

اس لئے اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے دنیا کمانا یا اس کی خواہش رکھنا منع نہیں شرط صرف یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کا غلام بنے یہ چیزیں اس کو اللہ کی غلامی سے غافل نہ کریں۔ بلکہ وہ دنیا بھی اس لئے حاصل کرے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اس کی معاون ہوگی۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾

(الحج ۲۲/۱۱)

”اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر (رہ کر) کرتا ہے سو اگر اسے بھلائی حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اگر اسے آزمائش آجائے تو اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں نامراد ہو گیا واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔“

دنیا میں پرہیزی یا راہ گیر کی طرح رہو

۱۳۸۶/۳- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقْمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہ کہ تو پرہیزی ہے یا راہ گزرنے والا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لئے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لئے (کچھ نہ کچھ) حاصل کر لے۔“

تخریج: (بخاری ۶۴۱۶) وغیرہ دیکھئے تحفة الاشراف (۵/۳۸۱) (۶/۲۸)

فوائد: ① دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ تو ایک پرہیزی ہے یا راہ گزرنے والا۔

دونوں کا فرق یہ ہے کہ بعض اوقات مسافر چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ دیر کے لئے کہیں عارضی اقامت بھی اختیار کر لیتا ہے پہلی صورت میں وہ عابر سبیل ہے دوسری صورت میں غریب۔

② پردیسی آدمی اگر کہیں کچھ دیر کیلئے ٹھہر بھی جائے تو وہاں دل نہیں لگاتا کیونکہ اس کی منزل آگے ہوتی ہے زیادہ سامان اور جائیداد نہیں بناتا کیونکہ اس نے وہاں رہنا نہیں ہوتا اور اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ اس کا لباس اور وضع قطع اس شہر کے لوگوں جیسی ہے یا نہیں کیونکہ اس نے وہاں سے چلے جانا ہوتا ہے اس کا لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے ہم وطن نہیں ہوتے اور جو مسافر ابھی راہ طے کر رہا ہو وہ اتنا سامان بھی نہیں اٹھاتا جو کسی پردیسی کے عارضی اقامت کے دوران جمع ہو جاتا ہے صرف اتنا سامان ساتھ لیتا ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ حدیث میں رہنمائی کی گئی کہ پردیسی کی طرح دنیا میں رہو یا راہ گیر کی طرح دونوں طرح اجازت ہے مگر اسے وطن نہ بنا لو۔ یا اَوْ بِمَعْنَى بَلٍ ہے یعنی دنیا میں پردیسی کی طرح رہو بلکہ (بہتر ہے کہ) راہ گیر کی طرح رہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرو اور صرف اتنے سامان پر گزارہ کرو جس کے بغیر چارہ نہیں۔

③ ”جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر“ یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے یعنی لمبی امیدیں نہ باندھ بلکہ اپنی موت کو بالکل قریب سمجھ۔ جب موت انسان کے پیش نظر ہو تو وہ ہر وقت ایسی حالت میں رہتا ہے کہ موت آجائے تو اسے ندامت نہ ہو۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور مستعد رہتا ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَاتُلِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

(آل عمران ۱۰۲/۳)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔“

④ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ صحت اور زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں بیماری اور موت بھی انسان کی گھات میں ہیں اسلئے اسے چاہیے کہ صحت

کی حالت میں بیماری کیلئے اعمالِ ذخیرہ کر لے اور زندگی میں موت کیلئے سامانِ مہیا کر لے۔

غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو

۱۳۸۷/۴۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں سے ہے۔“ (اسے ابوداؤد نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح کہا)

تخریج: [حسن صحیح] (ابوداؤد (۳۰۳۱) صحیح ابی داؤد (۳۴۰۱) ابن تیمیہ نے ”الافتاء (ص ۳۹) میں فرمایا اس کی سند جید ہے۔ عراقی نے تخریج الاحیاء (۱/۳۳۲) میں فرمایا اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ نے فتح الباری (۱۰/۲۲۲) میں فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ مفصل تخریج و تصحیح کے لئے دیکھئے حجاب المرأة المسلمة للالبانی (۱۰۳) اور الادواء (۱۲۶۹) تحفة الاشراف (۶/۲۷۵)

فوائد: ① جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کی خاص وضع قطع لباسِ حجامت وغیرہ میں مشابہت اختیار کرے تو وہ انہیں کا ساتھی ہے کیونکہ ان کی وضع قطع اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مسلمانوں کی وضع قطع کی بجائے کفار کی وضع قطع پسند ہے جبکہ کفر کے طریقے کو پسند کرنا ایمان کے منافی ہے ہمیں تو کفار کی مخالفت کا حکم دیا گیا مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا «جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَزْحُوا اللَّحْیَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ» ”موتیوں سے بچو اور داڑھیاں بڑھاؤ مجوس کی مخالفت کرو۔“ (مسلم ۲۲۲)

اسی طرح زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا «غَيَّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشْتَهُوْا بِالْيَهُودِ» بالوں کی سفیدی کو بدل دو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ (صحیح الترمذی ۱۳۳۳)

جب بالوں کی سفیدی اور داڑھی اور مونچھوں کی وضع قطع تک میں مجوس و یہودی مخالفت کو مد نظر رکھا گیا ہے تو کفار کی خاص رسوم جو ان کے علیحدہ مذہبی یا قومی تشخص کی علامت ہیں مسلمانوں کے لئے کس طرح جائز ہو سکتی ہیں۔

② یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت ظاہر میں اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا باطن بھی انہیں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس لئے کفار سے مشابہت کو حرام قرار دیا گیا۔

③ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک نہایت عمدہ اور نفیس کتاب لکھی ہے «اِقْتِصَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مُخَالَفَةُ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» "اس میں قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں پر کفار کی مشابہت سے اجتناب اور ان کے طور طریقوں کی مخالفت فرض ہے اس کی تلخیص کا اردو ترجمہ مکتبہ سلفیہ لاہور نے "راہ حق کے تقاضے" کے نام سے شائع کیا ہے۔

صرف اللہ سے لو لگاؤ

۱۳۸۸/۵۔ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے (سوار) تھا تو آپ نے فرمایا ”اے لڑکے! اللہ کا دھیان رکھ وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور جب مد مانگے تو اللہ سے مد مانگ۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حسن صحیح ہے۔)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۲۵۱۶) اور دیکھئے صحیح الترمذی (۲۰۴۳))

ترمذی میں بقیہ حدیث یہ ہے ”اور جان لے کہ اگر امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، مگر جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیئے گئے۔“

فوائد: 1 اللہ کا دھیان رکھ۔ یعنی اللہ کی حدود، اس کے احکام، اس کی منع کی ہوئی چیزوں اور اس کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کا دھیان رکھ۔ اللہ کی حد آجائے تو اس سے آگے مت بڑھ، حکم آجائے تو اس پر عمل کر، وہ منع کر دے تو رک جا۔ غرض ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی یاد میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ (التوبة ۹/۱۱۲)

”اور وہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ﴾ (ق ۹/۳۲)

”یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو ہر رجوع کرنے والے حفاظت کرنے والے کے لئے۔“

اہل علم نے یہاں حفیظ کا مطلب بیان فرمایا: ”اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا“ بعض نے فرمایا: ”اپنے گناہوں کا دھیان رکھنے والا یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ

آتا ہے۔

② ”وہ تیرا دھیان رکھے گا۔“ جس طرح فرمایا:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة ۲/۱۵۲)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

اللہ تعالیٰ بندے کا دھیان دنیا کے معاملے میں بھی رکھتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی دنیا میں اسے اس کے جسم میں اہل و عیال میں اور مال و اولاد میں عافیت دیتا ہے فرشتے ہر تکلیف وہ چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

﴿لَكُمْ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (الرعد ۱۳/۱۱)

”اس کے لئے باری باری (حفاظت کے لئے) آنے والے ہیں اس کے آگے اور اس

کے پیچھے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“

آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بندے کے دین و ایمان کی حفاظت رکھتا ہے اسے گمراہ کن خواہشات و نظریات و اعمال سے محفوظ رکھتا ہے، اسے ایمان کی حالت میں موت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پورا ادراک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کس طرح ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔

③ ”تو اسے اپنے سامنے پائے گا“ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کے احکام کی

اطاعت اور اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے اسے

محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس کی مدد ہر وقت اس کے شامل

حال ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ہی ساتھ ہے جیسے فرمایا:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الحديد ۵۷/۴)

”اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے

جو تم کرتے ہو۔“

گمراہی خاص معیت ہے جو اللہ کو یاد رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا:

﴿لَا تَخْزَنَ ابْنُ اللَّهِ مَعْنَا﴾ (التوبة ۹/۴۰)

”کچھ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ مَأْسَمِعٌ وَأَرَى ﴾ (طہ ۶۶/۹)

”تم مت ڈرنا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔“

اس معیت سے مراد خاص حفاظت اور نصرت ہے۔

④ جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال سے خوش ہوتا ہے۔

سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ

عَلَيْهِ» «جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔» (صحیح الترمذی

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما ۲۶۸۲) اس کے برعکس بندوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَوَكَّتْ . سَوَّالُهُ

وَتَوَى ابْنُ آدَمَ حِينَ يُسْئَلُ يَغْضَبُ

”اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے اگر تم اس سے سوال کرنا چھوڑ دو اور ابن آدم کو دیکھو گے

کہ وہ اس وقت غصے ہو گا جب اس سے سوال کیا جائے۔“

www.KitaboSunnat.com

ایک اور شاعر نے کہا ہے۔“

أَبَا مَالِكٍ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ وَالتَّمَسْ

بِكَفَيْكَ فَضَلَ اللَّهِ فَاللَّهُ أَوْسَعُ

وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ الثَّرَابُ لَا وَشَكُّوا

إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا وَيَمْتَنَعُوا

”اے ابو مالک لوگوں سے سوال مت کر اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کا فضل مانگ

کیونکہ اللہ سب سے وسعت والا ہے لوگوں سے تو اگر مٹی کا سوال کیا جائے تو جلد

ہی ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ مانگنے پر آگے مٹی دینے سے بھی انکار کر دیں گے۔“

⑤ وہ چیزیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں مثلاً ہدایت، صحت، دولت ہندی، اولاد، حج

و نصرت وغیرہ ان کا سوال صرف اللہ سے جائز ہے اور ان چیزوں میں مدد بھی اللہ سے ہی مانگی جائے گی۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“ غیر سے مانگے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اور جو چیزیں بندوں کے اختیار میں ہیں یا اس کا دوسرے پر حق ہیں مثلاً کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہے تو مانگ لینا کوئی شخص کسی ظالم کا ظلم دور کرنے میں یا کسی اور کام میں مدد کر سکتا ہے تو اس سے مدد مانگ لینا جائز ہے جیسا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بہستی والوں سے کھانا مانگا تھا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ﴿مَنْ أَلْصَقَ بِي إِلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران ۵۲) ”کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں“ کیونکہ مہمان نوازی اور دین میں نصرت طلب کرنا مہمان اور داعی کا حق ہے۔ ان چیزوں میں بھی اصل امید اللہ سے ہی رکھے کہ وہ چاہے گا تو مخلوق کے دل اس کی طرف مائل کر دے گا۔ گویا اصل سوال اور استعانت اللہ تعالیٰ سے ہی کرے۔

جہاں تک ہو سکے معمولی چیزوں میں بھی مخلوق سے سوال کرنے سے بچے کیونکہ سوال کرنا اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی ایک جماعت سے بیعت لی تھی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے ان میں کسی کا کوڑا تک گر جاتا تو وہ کسی سے پکڑانے کے لئے نہیں کھتا تھا اس جماعت میں آٹھ یا نو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ - ۱۰۴۳)

⑥ جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ کیونکہ اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا۔ نہ اللہ کی بندگی نہ دنیا کا کوئی کام۔ رسول اللہ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ﴿رَبِّ أَعْتَبْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾ (صحیح الترمذی - ۱۲۳۶) ”اے اللہ اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما“ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (یوسف: ۱۸) ”جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔“

⑦ اس حدیث میں جو چار وصیتیں کی گئی ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب سے قطع تعلق کر لے کیونکہ یہ بھی اللہ سے سوال اور اس سے استعانت میں

شامل ہیں۔ جو شخص ان ذرائع سے رزق طلب کرے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں تو اگر مل جائے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے نہ ملے تو وہ بھی اس کی مرضی سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل بھروسہ اور امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

۱۳۸۹/۶ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: «إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَإِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ)

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بنی سہیل کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا اور اس چیز سے بے رغبت ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔“ (اسے ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے)

تخریج: [حسن] (ابن ماجہ کی سند اس طرح ہے عن خالد بن عمر القرظی عن سفیان الثوری عن ابی حازم عن سہل بن سعد الخ خالد بن عمرو وضاع ہے اس لئے بعض محدثین نے اس حدیث کو باطل کہا ہے۔ مگر اس کی متابعت موجود ہے اور یہ حدیث اس

کے علاوہ اور سندوں سے بھی آئی ہے جن میں شدید ضعف نہیں علاوہ ازیں جید سند کے ساتھ ایک مرسل روایت بھی اس کی شاہد ہے اس لئے شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۹۴۴) میں بھی اس کی متابعت اور شواہد تفصیل سے ذکر کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

فوائد: ① دنیا سے بے رغبت ہو جا اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا کیا ہے اس کا آسان مختصر جواب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا میں ہے آخرت میں نہیں کیونکہ جن چیزوں کا فائدہ آخرت میں ہو یا آخرت میں بھی ہو وہ آخرت قرار پائیں گی دنیا نہیں اس لئے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرے جو آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا *الزُّهْدُ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ زُهْدُ انْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ* جو آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں۔

② اس چیز سے بے رغبت ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ کیونکہ جو شخص لوگوں سے مانگے یا ان کے پاس موجود چیزوں کی حرص رکھے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ فطرۃ انسان کے دل میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے:

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾

(آل عمران ۱۴/۳)

”لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان والے گھوڑوں سے اور چوپاؤں اور کھیتی سے۔“

اب جو شخص لوگوں سے ان کی محبوب چیز مانگے وہ اس سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں، ہاں ان کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جائے تو لوگ عزت اور محبت کرتے ہیں۔

③ ایک اعرابی نے لوگوں سے پوچھا اہل بصرہ کا سردار کون ہے لوگوں نے بتایا حسن بصری! اس نے پوچھا وہ ان کا سردار کیسے بن گیا؟ بتایا گیا کہ لوگ اس کے علم کے محتاج ہیں اور وہ ان کی دنیا سے مستغنی ہے۔ (توضیح الاحکام)

④ لوگوں کی محبت کی خواہش اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ مستحب بلکہ فرض ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا» "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔" پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو اسی طرح آپ نے باہمی محبت حاصل کرنے کے لئے ہدیہ دینے کی تلقین فرمائی۔ (صحیح مسلم - کتاب الایمان - ۵۴)

اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے

۱۳۹۰ / ۷ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار غنی چھپا ہوا ہو۔“

تخریج: (مسلم الزهد / ۱۱)

فوائد: ① سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہیں بدری صحابی ہیں جنگ قادسیہ کے امیر اور فاتح ایران ہیں جب مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں شروع ہوئیں تو یہ گوشہ نشین ہو گئے صحیح مسلم میں ہے کہ ان ایام میں ان کے بیٹے عمر بن سعد ان کے پاس آئے سعد

اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وہ سواری سے اترے اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں ہی ڈیرا لگا رکھا ہے اور لوگوں کو اس حال میں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ حکومت کے لئے آپس میں لڑجھگڑ رہے ہیں تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار، غنی، چھپا ہوا ہو۔ (مسلم الزہد / ۱۱)

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے بعض لوگ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اس پر رحمت کرتا ہے اور اللہ کے بغض اور دشمنی سے مراد ان چیزوں کا الٹ ہے گویا ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ نہ محبت کر سکتا ہے نہ عداوت۔ اسی لئے انہوں نے یہ تاویل کی۔ مگر ان حضرات کی بات درست نہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہ اللہ کی صفت حب اور صفت عداوت بیان فرمائی گئی ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرہ: ۱۹۵) ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرہ: ۹۸)

ہر شخص جانتا ہے کہ محبت اور عداوت کیا ہوتی ہے۔ محبت کا معنی ارادہ خیر یا ہدایت یا رحمت ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ صفات اپنی جگہ مستقل صفات ہیں۔ ان حضرات کو یہ تاویل کرنے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو انسانی محبت کی طرح سمجھا جو بعض اوقات انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ سمیع و بصیر بھی نہیں بلکہ سمیع و بصیر کا مطلب ہے کہ وہ علم رکھتا ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ علم الگ چیز ہے اور دیکھنا اور سننا الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفت اور دوسری تمام صفات کسی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں بلکہ اس طرح ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اگر یہ لوگ اس بات کو اپنے سامنے رکھتے تو کبھی صفات کا انکار یا ان کی تاویل نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(الشوریٰ: ۱۱) ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع ہے بصیر ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت بصر کا انکار نہ کر بیٹھنا کہ انسان بھی سمیع و بصیر ہے اگر اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر مان لیا تو وہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی اللہ کا سنا دیکھنا مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ محبت بھی کرتا ہے اور عداوت بھی رکھتا ہے، مگر ایسی جو مخلوق کی محبت و عداوت کے مشابہ نہیں ہے۔ غور فرمائیے۔ ایسا پروردگار کس کام کا جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا، نہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہو نہ دشمنوں سے عداوت رکھتا ہو؟

② اَلتَّقَىٰ پر ہمیزگار جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام پر عمل کرنے والا اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے والا ہو۔

③ اَلْغَنَىٰ دولت مند، بے پروا یعنی اسے اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ((لَيْسَ الْغِنَىٰ بِكَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ عَنِ النَّفْسِ)) (صحیح البخاری - ۶۴۳۶) ”دولتمندی دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اصل دولت مندی نفس کا (مخلوق سے) غنی ہونا ہے“ اَلْغِنَىٰ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہاتھ کی کمائی سے ضرورت کی اشیاء میاں رکھتا ہے تاکہ اسے مخلوق کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ جیسا کہ سعد رضی اللہ عنہ ان ایام میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالنے میں مشغول رہتے تھے۔

④ اَلْخَفَىٰ چھپا ہوا، ناموری شہرت سے بچ کر اللہ کی عبادت میں مشغول کیونکہ شہرت اپنے ساتھ کئی آفات بھی لاتی ہے۔ مثلاً ریاکاری، فتنوں میں شمولیت، اللہ کی بندگی کے لئے وقت نہ بچنا۔ جب کہ گمنامی میں آدمی کو عبادت کے لئے کھلا وقت مل جاتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے مانوس ہوتا ہے وہ فتنوں سے اور ریاء سے محفوظ رہتا ہے اس کے تمام کام صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے ہوتے ہیں۔

آدمی کے اسلام کی خوبی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا ہے

۱۳۹۱/۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے اس کا اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے مقصد کی نہیں۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حسن ہے)

تخریج: [حسن] (ترمذی (۲۳۱۷) ترمذی نے اسے حسن کہا ہے یہ حدیث علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مرسل بھی آئی ہے۔ شیخ البانی نے فرمایا حدیث صحیح (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۹) اور دیکھیے تحفۃ الاشراف (۳۸۱/۹) (۳۱۳/۱۱)

مفردات: عَنَاهُ الْأَمْرُ يَعْنِيهِ وَأَهْمُهُ جَبَّ كَوْنُ كَامِ آدَمِي كَو فِكْرٍ فِي دَالِ، وَهُوَ اس کا خاص اہتمام کرے اور وہ اس کا مطلوب اور مقصد بن جائے۔

فوائد: ① یہ حدیث جوامع الکلم سے ہے۔ الفاظ کم ہیں، مگر معانی بہت وسیع ہیں۔
② اس حدیث میں بے مقصد اور بے فائدہ اقوال کا ترک بھی شامل ہے اور بے فائدہ اعمال و عقائد کا ترک بھی۔ اگر آدمی ہر بات اور ہر کام سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کام کا دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ ہے تو بے شمار باتیں اور بے شمار کام خود بخود اس سے چھوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

(البخاری باب حفظ اللسان ۶۴۷۵، مسلم)

”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔“

زیر بحث حدیث سے معلوم ہوا کہ بے فائدہ باتیں ہی نہیں بے فائدہ کام بھی چھوڑے گا تو یہ اس کے اسلام کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر اس کا اسلام خوبصورت نہیں ہو سکتا۔

③ جب بے مقصد باتیں، بے مقصد کام اور بے مقصد نظریات ترک کر دیئے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اقوال عقائد اور اعمال تو بدرجہ اولیٰ ترک ہو جائیں گے جو حرام یا مکروہ یا مشتبہ ہیں۔

④ یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت اسی طرح رہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس دھیان سے اس میں اللہ تعالیٰ سے حیاء پیدا ہوگی اور وہ کوئی لاجئی، بے مقصد اور بے فائدہ کام نہیں کرے گا۔ اسی مرتبہ کو رسول اللہ ﷺ نے احسان قرار دیا اور اس حدیث میں اسے آدمی کے اسلام کا حسن قرار دیا۔

⑤ بعض فقہاء مختلف احکام میں ایسے فرضی سوالات بنا بنا کر ان کے جوابات کا تکلف کرتے ہیں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں اور اسے علم کا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بے فائدہ اور بے مقصد کام ہے اور سراسر تکلف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص ۳۸/۸۶)

”کہہ دے میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں سے نہیں ہوں۔“

اس تکلف کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قوم کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں سے قرآن کا زیادہ قاری ہے اگر وہ قراءت میں برابر ہوں تو جو ان میں سے سنت کا زیادہ علم رکھتا ہے اور اگر وہ سنت کے علم میں برابر ہوں تو جس کی ہجرت قدیم ہے اور اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہے (مسلم۔ عن ابی مسعود انصاری۔

اگر اس سے زیادہ ضرورت ہوتی تو رسول اللہ ﷺ ضرور بیان فرما دیتے اب بعض حضرات نے اس پر اکتفاء نہ کرتے ہوئے مزید صورتیں پیدا کیں اور ان کا جواب اپنے پاس سے دیا جب کہ انہیں شریعت بنانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں دیا تھا۔

⑥ اس حدیث کی رو سے بے فائدہ دیکھنا، سننا، پڑھنا، بولنا، کھیلنا، سونا اور دوسرے تمام بے فائدہ کام آدمی کے اسلام کی خوبی کے خلاف ہیں۔ مثلاً ناول، افسانے، گیت، اخبارات کا بیشتر حصہ بے فائدہ کتابیں، اکثر کھیل، تاش وغیرہ، ضرورت سے زیادہ وقت سونے میں صرف کر دینا بے مقصد اور لایعنی کام ہیں۔ ان سے اجتناب کرنا چاہیئے۔

پیٹ بھر کر کھانے کی مذمت

۱۳۹۲/۹ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ)

”مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ابن آدم نے کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے برا ہو۔“

(اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا ہے)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۲۳۸۰) حاکم (۱۲۱/۴) احمد (۱۳۲/۴) ابن حبان (۱۳۴۹) مسند احمد) میں اس کی سند یوں ہے:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلِيمٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

”شیخ البانی نے اس سند کو صحیح متصل اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تفصیل کے لئے

دیکھئے ارواء الغلیل (۳۱/۷-۳۲) ترمذی نے فرمایا حسن صحیح ہے۔ حاکم نے اس پر سکوت فرمایا زہبی نے فرمایا ”قلت: صحیح۔“

اس حدیث کا بقیہ حصہ یہ ہے:

«بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنُ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ فَتُلُكُ لَطْعَامِهِ وَتُلُكُ لِشْرَابِهِ وَتُلُكُ لِلنَّفْسِ»

”ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں سو اگر اسے ضرور ہی کھانا ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لئے اور تیسرا پینے کے لئے اور تیسرا سانس کے لئے۔“

صحیح ابن حبان میں ہے:

«فَإِنْ كَانَ فَاعِلًا لَا مَحَالَهَ — الخ»

اور ابن ماجہ میں ہے:

«فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتُلُكُ لِلطَّعَامِ وَتُلُكُ لِلشَّرَابِ وَتُلُكُ لِلنَّفْسِ» (صحیح ابن ماجہ ۲۷۰۴)

”سو اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آجائے تو تیسرا حصہ کھانے کے لئے کرے تیسرا پینے کے لئے اور تیسرا سانس کے لئے۔“

فوائد: ① اس حدیث میں پیٹ بھر کر کھانے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ آدمی کے بدن کے لئے بھی نقصان وہ ہے اور اس کے دین کے لئے بھی۔ ضرورت سے زائد کھانا مختلف بیماریوں کا باعث ہے انسان کی طبیعت کو بوجھل کرتا ہے جس سے وہ آسانی کے ساتھ اللہ کے احکام ادا نہیں کر سکتا۔

② ابن رجب نے فرمایا ”ابن ابی ماسویہ طیب نے یہ حدیث پڑھی تو کہنے لگا اگر لوگ اس پر عمل کریں تو بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ہسپتال اور دو فروشوں کی دکانیں بے کار ہو جائیں۔ (توضیح) عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ نے کہا ”معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز علاج کا اصل ہے۔“

③ زیادہ کھانے سے پانی زیادہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس کے نتیجے میں نیند زیادہ آتی ہے پیشاب اور پاخانے کی حاجت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی کی عمر عزیز کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں برباد ہو جاتا ہے۔

④ زیادہ کھانے سے حرص بڑھتی ہے۔ جسے پورا کرنے کے لئے آدمی زیادہ سے زیادہ وقت کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے میں صرف کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اتنی آمدنی ہو کہ نفس کی حرص پوری ہو سکے پھر چیزیں خریدنا پھر لذیذ سے لذیذ کھانوں کی تیاری غرض اس برے برتن کو بھرتے بھرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

⑤ زیادہ کھانے سے پیٹ میں فضول مادے جمع ہو جاتے ہیں فاسد بخارات پیدا ہو کر دماغ کو چڑھتے ہیں۔ معدے اور آنتوں میں زہریلے مادے اور خمیر پیدا ہو کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں شوگر، بلڈ پریشر، السر، دل کی شریانوں میں رکاوٹ وغیرہ بسیار خوری کا ہی نتیجہ ہیں۔ آہستہ آہستہ پیٹ پھولنے لگتا ہے اور جسم موٹا ہو جاتا ہے جو خود ایک بیماری اور مصیبت ہے معنوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت سست ہو جاتی ہے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے اور موٹا ہونے کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے۔

⑥ مقوی اور لذیذ کھانے زیادہ سے زیادہ کھانے کے نتیجے میں شہوت بڑھتی ہے۔ حرص کی وجہ سے طبیعت پر پہلے ہی ضبط نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہر وقت گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے۔

⑦ ان تمام بیماریاں کا علاج کم کھانا ہے۔ جس سے حرص کم ہوتی ہے۔ طبیعت ہوشیار، دماغ بیدار، دل روشن، جسم ہلکا پھلکا اور قوی ہو جاتا ہے اکثر بیماریاں قریب نہیں پھینکتیں اللہ کی اطاعت کے لئے بہت سا وقت نکل آتا ہے۔ تہجد اور دوسرے اعمال آسانی سے کر سکتا ہے۔ گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ نفس امارۃ مایوس رہتا ہے۔

⑧ رسول اللہ ﷺ نے انسان کے لئے چند لقمے کافی قرار دیئے اور وہ بھی چھوٹے کیونکہ ایک روایت میں لَقِيمَاتُ كَالْفِطْرِ يَأْتِيهِ۔ (صحیح ابن ماجہ ۲۷۰۴)

اُكْلَاتٌ يَالْقِيمَاتُ جمع مونث سالم ہے جو نکرہ ہے اور الف لام سے خالی ہے عام طور

پر یہ جمع قلت کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے۔ اگر صبر ہو سکے تو یہ بہترین مقدار ہے جو آدمی کے لئے کافی ہے اگر نفس غالب ہو تو آخری حد یہ بیان فرمائی کہ ایک حصہ کھانے سے ایک پینے سے پر کرنے کے بعد تیسرا حصہ سانس کے لئے خالی رکھے اس سے زیادہ کھائے گا تو یہ اسراف ہے۔

⑨ بعض صوفیہ نے بھوک کی فضیلت بیان کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچادی کہ اللہ کی نعمتوں کو ہی ترک کر دیا۔ کسی نے دودھ پینا چھوڑ دیا کسی نے لذیذ کھانا چھوڑ دیا۔ یہ طریقہ بھی اسوۂ رسول ﷺ کے خلاف ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الاعراف: ۳۱) کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ”یہ بھی اسراف ہے کہ اپنے نفس کو بھوک کے عذاب میں رکھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ((إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) (بخاری) ”یقیناً تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور یہ اسراف ہے کہ اس برے برتن کو بھرتا ہی رہے۔“

خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں

۱۳۹۳/۱۰ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدم کی تمام اولاد بہت خطا کرنے والی ہے اور بہت خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔“ (اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس کی سند قوی ہے)

تخصیج: [حسن] (ترمذی ۲۳۹۹) ابن ماجہ (۳۲۵۱) البانی نے صحیح الترمذی میں اسے

حسن قرار دیا ہے اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱/۳۳۰)

فوائد: ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطا سے کوئی انسان بھی خالی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ۲۸) ”اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔“

اس سے اللہ کے احکام کی ادائیگی اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب میں کچھ نہ کچھ غفلت ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہی نہیں کہ انسان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو بلکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ خطا ہونے پر پلٹ آئے توبہ و استغفار کرے بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں سواری گم ہونے پر موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی سواری بچ سازو سامان اسے دوبارہ مل گئی اور وہ خوشی سے بے خود ہو کر یہ کہہ اٹھا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ (مسلم عن انس رضی اللہ عنہ)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔“ (مسلم ۷۳۹، ۲۔ التوبہ ۲۱)

② گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ و استغفار سے بندے کو قرب کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کوئی گناہ سرزد نہ ہونے سے اسے حاصل نہ ہوتا ﴿أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان: ۷۰) ”یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔“

حضرت آدم علیہ السلام کو مع کردہ پودا کھانے کے بعد استغفار سے اور یونس علیہ السلام کو بغیر اجازت جانے پر مچھلی کے پیٹ میں ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ پڑھنے سے درجات کی مزید بلندی ہی حاصل ہوئی توبہ و استغفار کی وجہ سے یہ خطائیں ان کے مقام میں کسی کمی کا باعث نہیں بن سکیں۔

اللہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ مزے لے لے کر بیان کرے گی معشوقوں سے ملاقات اور گناہ کی مجلسوں کے تذکرے، زنا کے قصے، نافرمانوں کی باتیں، بدکاروں کی گھاتیں، دولت مندوں کی فضول خرچیاں، ظالم و جابر لوگوں کی چیرہ دستیائیں، ان کے مذموم حالات اور رسوم و رواج خوبصورت بنا کر پیش کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلسوں کی رونق، سینماؤں کی آبادی، افسانوں اور ناولوں کی دلچسپی انہی حرام کاموں کے تذکرے سے ہے جو مسلمان کے لئے سرے سے جائز ہی نہیں۔

علاوہ ازیں غیبت، چغلی، دنگا، فساد، ٹھٹھا مذاق، گالی گلوچ، بدزبانی، جھوٹ، کفر اور بد عمدی سب زبان کی آفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ رکھے۔

④ خاموشی جو نجات کا باعث ہے یہ ہے کہ حرام، مکروہ، بے کار اور بے فائدہ باتوں سے خاموش رہے۔ ورنہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہی انسان کے دل کی بات کے اظہار کا ذریعہ ہے ایمان و اسلام، تلاوت و ذکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تعلیم و تعلم، اہل و عیال اور دوستوں سے خوش کلامی سب اسی کے ذریعے سرانجام پاتے ہیں۔ اس لئے اس امت میں مکمل خاموشی یا چپ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا ہی رہے گا نہ بیٹھے گا نہ سائے میں جائے گا نہ ہی بات کرے گا اور یہ کہ وہ روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ بات کرے سائے میں چلا جائے بیٹھے جائے ہاں روزہ پورا کر لے۔ صحیح بخاری (۶۷۰۳) اس سے معلوم ہوا کہ خاموش رہنے کی نذر بھی مان لی ہو تو پوری کرنی جائز نہیں۔



برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان

حسد کے نقصانات

۱/۱۳۹۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ نَحْوَهُ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حسد سے بچو کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو۔“ (اسے ابوداؤد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے انس رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔)

تخریج: [ضعیف] (ابوداؤد (۳۹۰۳) کی سند میں جد ابراہیم مجہول ہے باقی راوی موثق ہیں۔ بخاری نے فرمایا یہ صحیح نہیں دیکھے سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ للالبانی (۱۹۰۲) اور ابن ماجہ میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت (۳۲۱۰) میں ایک راوی عیسیٰ بن ابی عیسیٰ حناط ہے جس کے متعلق تقریب میں ہے کہ وہ متروک ہے اس لئے یہ سند بھی بہت ہی ضعیف ہے سلسلۃ ضعیفہ (۱۹۰۱)

فوائد: ① یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، مگر حسد کی ممانعت کی صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» "ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔" (صحیح بخاری ۶۰۶۵)

اس حدیث میں حسد کرنے والے کے مقابلے میں اس پر حسد کرنا منع فرمایا گیا ہے تو اس شخص پر حسد کرنا بدرجہ اولیٰ حرام ہوا جو تم پر حسد نہیں کرتا۔" (فتح)

② حسد کا معنی ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی یہ اس سے چھن جانی چاہیے پھر خواہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے۔

قباحت کے لحاظ سے حسد کے کئی درجے ہیں سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہی۔

دوسرا یہ کہ عملی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔

یہ دونوں صورتیں حرام ہیں اور سورہ فلق میں ایسے حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ "اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔" یعنی حسد کے تقاضے کے مطابق زوال نعمت کی خواہش رکھے یا اس کے لئے عملی کوشش بھی کرے۔

حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی مگر آدمی اسے ہٹا دیتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نہ ہی ایسا ارادہ یا خواہش رکھتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اس پر مواخذہ نہیں ایسے خیالات آہی

جاتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ تو جو شخص ایسے خیال آنے پر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے اور محسود کے ساتھ احسان کرے اس کے لئے دعا کرے اس کی خوبیاں عام بیان کرنا شروع کر دے تاکہ دل میں اس بھائی کے ساتھ حسد کی بجائے اس سے محبت پیدا ہو جائے تو یہ اس کے ایمان کے اعلیٰ درجہ کی علامت ہے۔

③ حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی۔ پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں۔ تو حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔

④ حسد کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی ہے محسود کو کوئی نقصان نہیں نہ دنیا میں نہ دین میں۔ بلکہ اسے دین و دنیا میں حاسد کے حسد سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔

دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ قیامت کو اسے ظلم کا بدلہ ملے گا اور ظالم حاسد نیکیوں سے مفلس رہ جائے گا اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم، فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے۔

⑤ حسد سے نجات پانے کے لئے مفید عمل یہ ہے کہ حسد کے تقاضے کے برعکس اس شخص کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے اس کے لئے دعا کرے اس کی تعریف کرے یہ سمجھ کر کہ یہ جذبہ کبر کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو واضح اختیار کرے اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اس سے انشاء اللہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا گو یہ علاج مشکل اور تلخ ہے، مگر اللہ سے مدد مانگئے اور نفس امارہ کا مقابلہ کرے تو آسان ہو جاتا ہے۔

⑥ حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد ہی کی وجہ سے واقع ہوئی شیطان نے آدم ﷺ پر حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا پھر سب سے پہلے قتل کا باعث بھی یہی بنا کہ قابیل نے ہابیل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا۔

برادران یوسف ﷺ نے یوسف ﷺ اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا اس کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد ﷺ برحق ہیں ایمان نہ لائے تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا۔

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (النساء ۴/۵۴)

”بلکہ یہ لوگوں پر اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

كُفَّارًا حَسَدًا مِمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (البقرة ۲/۱۰۹)

”ہمت سے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا لیں اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے۔“

⑦ بعض اوقات حسد کا لفظ غبطہ یعنی رشک اور ریس کے معنی میں بھی آجاتا ہے یعنی کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ حرام نہیں، مگر صرف دو چیزوں پر ریس کرنا پسندیدہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ» (متفق علیہ)

”حسد (ریس) نہیں مگر دو چیزوں میں ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ

رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔“

اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پائے

۱۳۹۶/۲ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں جو (مقابل کو) بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہے بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۱۶۱۲) مسلم (البر والصلۃ ۱۰۷) وغیرہما اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۳۲/۹) (۳۱/۱۰)

مفردات: الصُّرْعَةُ - صاد کے ضمہ اور راء اور عین کے فتح کے ساتھ بروزن ”هُمَزَةٌ“ جو اپنی قوت سے دوسروں کو پچھاڑ دے۔ اگر راء کے سکون کے ساتھ ہو الصُّرْعَةُ تو اس کا معنی ہو گا وہ شخص جسے دوسرے پچھاڑ دیں۔ اسی طرح ضُحْكَةٌ، خُدْعَةٌ وغیرہ جس پر دوسرے ہنسے، جسے دوسرے دھوکہ دیں۔ ”ثا“ صفت مشبہ میں مبالغہ کے لئے ہے تانیث کے لئے نہیں۔

فوائد: ① قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصے پر قابو پانے والوں کی تعریف فرمائی ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَجْنَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (TV)

(الشوریٰ ۴۲/۳۷)

”وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُطَيْمِ الْعَيْطِ﴾

(آل عمران ۳/۱۳۴)

”وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔“

② انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی جس سے بھی کشتی کرتا ہے اسے پچھاڑ (گرا) دیتا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ طاقت والا آدمی نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے کسی آدمی نے (غصہ دلانے والی) بات کی تو وہ اپنے غصے کو پی گیا پس اس پر غالب آگیا اپنے شیطان پر غالب آگیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آگیا۔ (رواہ ابوزریرہ حسن فتح الباری ۱۰ کتاب الادب باب ۷۶)

صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اپنے آپ سے ”الضَّرْعَةُ“ پچھاڑنے والا کسے شمار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جسے آدمی پچھاڑ نہ سکیں تو آپ نے فرمایا پچھاڑنے والا صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔

③ غصے پر قابو پانے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے کئی طریقے سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غصے کو بھڑکانا اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(الأعراف ۷/۲۰۰)

”اگر تمہیں شیطان کی طرف سے چوکا لگے (یعنی شیطان غصے کو مشتعل کر دے) تو

اللہ کی پناہ مانگ یقیناً وہی سننے والا جاننے والا ہے۔“

سیمان بن صرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور گلے کی رگیں پھول گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ لے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے اگر یہ کہہ لے ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) تو جو کچھ اس پر گزر رہی ہے ختم ہو جائے۔ الحدیث۔ (بخاری ۳۲۸۲) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ)) ”جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔“ (احمد۔ صحیح الجامع ۶۹۳)

ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ”جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جائے۔“ (احمد، ابوداؤد، ابن حبان) (صحیح الجامع ۶۹۳)

④ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی قوت جسمانی قوت نہیں بلکہ معنوی قوت ہے۔ تو جس طرح اجنبی دشمنوں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کریں مقابلہ ضروری ہے اور اس کے لئے قوت کی ضرورت ہے اسی طرح نفس جب اللہ کے احکام کی مخالفت پر اتر آئے خصوصاً جب وہ غصے میں مشغول ہو چکا ہو اور شیطان اس کو برابر بھڑکا رہا ہو زبان سے گالی گلوچ، ہاتھ سے مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو چہرہ سرخ بلکہ سیاہ ہو چکا ہو جسم پر کچکی طاری ہو، رگیں پھول چکی ہوں، دل بغض اور کینے سے بھر چکا ہو۔ اس وقت اس کا مقابلہ اور اس پر قابو پانا اجنبی دشمن پر قابو پانے سے بھی مشکل ہے اس لئے جو اس پر قابو پائے اس نے گویا کئی حریفوں کو زیر کیا اس لئے اصل بہادر اور پہلوان وہ ہے۔

⑤ غصہ ایک طبعی خصلت ہے اسے روکنے اور اس پر قابو پانے کا حکم اس وقت ہے جب اس کی وجہ سے اللہ کے احکام کی مخالفت لازم آرہی ہو۔ ہاں اللہ کے احکام کی حفاظت کے لئے، اللہ کی نافرمانی کو روکنے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لئے غصہ آئے تو قابل تعریف ہے اور اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے احکام کی

پامالی کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ بھی سخت غصے میں آجاتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح میں اس سلسلے میں پانچ احادیث بیان کی ہیں۔ دیکھئے (کِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ ”اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر۔“ (التوبہ: ۷۳ / التحريم: ۹)

ظلم کا انجام

۱۳۹۷/۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ظلم، قیامت کے دن کئی اندھیرے ہو گا۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۲۳۳۷) مسلم (البر والصلة / ۵۷۱) دیکھئے تحفة الاشراف (۳۵۸/۵)

فوائد: ① اکثر اہل لغت اور علماء کے نزدیک ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ رکھنا۔ مثلاً کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ علاوہ ازیں حق بات جو دائرے کے مرکزی نقطے کی طرح صرف اور صرف ایک ہوتی ہے۔ اس سے تجاوز کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ تجاوز کم ہو یا زیادہ۔ اس لئے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا سب پر ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دیکھئے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہیں ظالم کہا گیا اور ابلیس کو بھی ظالم کہا گیا۔ حالانکہ دونوں میں بے حد فرق ہے۔ (مفردات راغب)

② ظلم کی تین قسمیں ہیں:

(الف) اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم: اس کی سب سے بڑی قسمیں کفر، شرک اور نفاق ہے۔ کیونکہ مشرک اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان ۱۳/۳۱)

”یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَيَقُولُ الْآشْهَدُ هَتَوْلَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ہود ۱۱/۱۸)

”اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔“

(ب) لوگوں پر ظلم: ان آیات میں یہی مراد ہے:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی۔“

-- الی قولہ --

﴿إِنَّكُمْ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۲)

”صرف ان لوگوں پر گرفت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔“

لوگوں پر ظلم خواہ ان کی جان پر ہو یا مال پر یا عزت پر ہر طرح حرام ہے۔

(ج) اپنی جان پر ظلم: ان آیات میں یہی مراد ہے:

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ (الفاطر ۳۵/۳۲)

”پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ (القصص ۲۸/۱۶)

”میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔“

اور فرمایا:

﴿ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة ۲/۳۵)

”پس تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔“

ان تینوں قسموں میں درحقیقت انسان اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے کیونکہ ان سب کا وبال اس کی جان پر ہی پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(البقرة ۲/۵۷، الأعراف ۷/۱۶۰)

”اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔“

③ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہو گا۔ اندھیروں سے مراد یا تو حقیقی اندھیرے ہیں یعنی ظالم کو قیامت کے دن روشنی نصیب نہیں ہوگی جس سے وہ صحیح راستہ معلوم کر سکے جبکہ اہل ایمان کا حال یہ ہو گا کہ:

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ (التحریم ۸/۶۶)

”ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہو گا۔“

یا قیامت کے دن کی سختیاں مراد ہیں جیسا کہ:

﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مَنْ ظَلَمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (الانعام ۶/۶۳)

”کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔“

اس آیت میں مذکور ظلمات کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد سختیاں ہیں۔ یا قیامت کے دن ظلم کی جو سزائیں ملیں گی وہ مراد ہیں۔ (سبل)

④ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہو گا، کیونکہ اگر وہ کفر و شرک کی صورت میں ہے تو اس کے مرتکب پر جنت حرام ہے:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾

(المائدة ۵/۷۲)

”کئی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔“

اور اگر بندے پر ظلم ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَسْأَلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ»
(بخاری ۶۵۳۴، ۲۴۴۹)

”جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، وہ اس سے معاف کروالے کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں اس سے پہلے پہلے کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیاں لے لی جائیں اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں۔“

اب ظاہر ہے جب نیکیاں چھن جائیں گی تو نور کہاں سے آئے گا پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے رہ جائیں گے۔

ظلم اور کنجوسی سے بچو

۱۳۹۸/۴۔ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہو گا اور حرص سے بھری ہوئی

کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (البر والصلة/ ۵۶) دیکھئے تحفة الاشراف (۲/۲۱۸)

فوائد: ① شدید حرص جس کے ساتھ کنجوسی بھی ہو اور وہ آدمی کی عادت بن چکی ہو۔ ”الشَّحُّ“ کہلاتی ہے۔

② صحیح مسلم میں پوری حدیث اس طرح ہے:

«وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»

”اور حرص سے بھری ہوئی شدید بخیلی سے بچو کیونکہ اس شدید بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیئے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لیں۔“

شدید بخل اور شدید حرص کے نتیجے میں جب وہ دوسروں کے اموال و حقوق غصب کرنے لگے تو ہر طرف فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے پھیل گئے پھر نہ انہوں کی پروا رہی نہ غیروں کی، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی۔ نتیجہ دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی تباہی کی صورت میں نکلا۔

③ اللہ تعالیٰ نے بخل اور حرص کی مذمت فرمائی ہے:

﴿وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر ۹/۵۹)

”جو شخص اپنے نفس کی شدید حرص سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ﴾ (محمد ۴۷/۳۸)

”اور جو شخص بخل کرے اس کے بخل کا وبال خود اسی پر ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ

شَرُّهُمَ سَيِّطُونَ مَا بَجَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ (آل عمران ۱۸۰/۳)

”وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دی ہے۔ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسا کرنا ان کے لئے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لئے بہت ہی برا ہے عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِعٍ وَجُبْنٌ خَالِعٌ»
(ابوداؤد عن أبي هريرة ۲۵۱۱، صحيح أبي داود ۲۱۹۲)

”آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑھی کنبوسی ہے اور دل نکال دینے والی بزدلی ہے۔“

④ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (بخاری عن سعد ۶۳۷۴)

”اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں کئی عمر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔“

⑤ بخل کیا ہے؟ عام طور پر ہر آدمی اپنے آپ کو سخی اور دوسرے کو بخیل سمجھتا ہے اور بعض اوقات آدمی ایک کام کرتا ہے تو کوئی اسے بخل قرار دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ بخل نہیں ہے۔ تو وہ بخل جو باعث ہلاکت ہے اس کا ضابطہ کیا ہے؟

صاحب سبل فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو چیزیں واجب فرمائی ہیں انہیں ادا کرے۔ واجب کی دو قسمیں ہیں ایک واجب شرعی مثلاً زکوٰۃ، ان لوگوں کے اخراجات جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے اور دوسرے مقامات جہاں اللہ نے

خرچ کرنے کا حکم دیا ہے دوسرا وہ واجب جو وعدے کی وجہ سے ضروری ٹھہرتا ہے، یا انسانی شرافت اور مروت، اس کا تقاضا کرتی ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کی ادائیگی سے ہاتھ کھینچے وہ بخیل ہے اور جو شخص اللہ کے حقوق مثلاً زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ خوش دلی سے ادا کرے اور لوگوں سے معاملات میں معمولی معمولی چیزوں پر تنگدلی اور باریک پڑتال سے بچ کر فراخدلی کا معاملہ کرے یہ سخی ہے۔

⑥ بخل کی بیماری کے دو سبب ہیں۔ پہلا ان خواہشات کی محبت جو مال اور لمبی امیدوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں۔

دوسرا خود مال سے محبت ہو جانا کہ یہ میرے پاس رہے۔ مثلاً روپے پیسے سے محبت تو اس لئے تھی کہ اس کے ذریعے ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ پھر جب معاملہ اور بڑھا تو خود روپے پیسے سے محبت ہو گئی ضرورتیں اور خواہشیں بھول گئیں روپیہ خود ضرورت اور خواہش بن گیا۔ یہ آدمی کے لئے انتہائی بد بختی کی بات ہے کیونکہ جب ضروریات میں خرچ ہی نہیں کرنا تو سونے اور پتھر میں کیا فرق ہے۔

⑦ حرص اور بخل کا علاج یہ ہے کہ خواہشات کی محبت سے جان چھڑانے کے لئے اتنے پر قانع اور راضی ہو جائے جو اللہ نے اسے دیا ہے اور اسی پر صبر کرے۔ لمبی امیدوں کا علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اپنے ساتھیوں کی موت کی طرف توجہ کرے اور دیکھے کہ انہوں نے مال جمع کرنے، مکان اور جائیداد بنانے میں کتنی محنت کی پھر کس طرح وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

بعض لوگ اپنے بچوں کے لئے مال میں بخل کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہی انہیں رزق دے گا۔ خود اپنے آپ کو دیکھے بعض اوقات والدین اس کے لئے ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ پھر کون ہے جو اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے۔

بخل کے علاج کے لئے قرآن مجید کی وہ آیات جو بخل سے روکتی ہیں رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی کو دیکھے۔ پھر بخل کے انجام پر غور

کرے۔ کیونکہ جو بھی مال جمع کرتا ہے لازماً آفات اور مصیبتوں کا نشانہ بنتا ہے۔
غرض سخاوت ہی دنیا اور آخرت میں انسان کے لئے خیر و برکت کا باعث ہے بشرطیکہ
حد اعتدال میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان ۲۵/۶۷)

”اور (رحمان کے بندے وہ ہیں) جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ
بخلی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اسی کے درمیان پورا پورا ہوتا ہے۔“

شُرک اصغر۔ ریا

۱۳۹۹/۵۔ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ
عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ: الرِّيَاءُ»
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

”محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب
سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں چھوٹا شرک ریا
یعنی دکھاوا ہے۔“ (اسے احمد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج: [اسناد حسن ہے] (مسند احمد ۴۲۸/۵) میں پوری حدیث اس طرح ہے:

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ
يَوْمَ تُحَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ
بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَهُمْ جَزَاءً؟»

”سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے شرک اصغر ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اور شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ”دکھاوا“ جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لئے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلہ ملتا ہے؟“

البانی نے فرمایا ”یہ اسناد جید ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور شیخین کے راوی ہیں البتہ محمود بن لبید صرف مسلم کے راوی ہیں۔ حافظ (ابن حجر رحمہ اللہ) نے فرمایا ”وہ صغیر صحابی ہیں ان کی اکثر روایت صحابہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں: مسند میں ان سے کئی روایات رسول اللہ ﷺ سے بیان ہوئی ہیں۔ انتہی۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۹۵۱)

مفردات: اَلرِّيَاءُ بَابُ مَفَاعَلَةٍ كَمَا مَصْدَرٌ هِيَ۔ ((زَايٌ يُرَاءِي مُرَاءً اَةً وَرِيَاءً)) جیسا کہ ((قَاتِلٌ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا)) یہ مہموز العین ہے کیونکہ یہ رُوِيَتْ سے مشتق ہے تخفیف کر کے ہمزہ کو یاء سے بدل کر پڑھنا بھی درست ہے یعنی رياء۔

لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ حقیقت میں نہیں ہے اور شرع میں یہ ہے کہ غیر اللہ کو مد نظر رکھ کر کوئی نیکی کرے یا کسی گناہ سے اجتناب کرے یا کوئی دنیوی مقصد حاصل کرنے کے لئے اپنا عمل لوگوں کو بتائے یا اس مقصد کے لئے کرے کہ لوگوں کو اس کا عمل معلوم ہو۔ (سبل السلام)

فوائد: ① اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ریا کی مذمت کی ہے اور اسے منافقین کی صفت قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴿١٠١﴾ (النساء/ ۱۴۲)

”منافقین اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ست کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے لئے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم۔“

اور فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (۱۱)

(الکھف ۱۸/۱۱۰)

”تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

یہاں عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو کتب و سنت کے مطابق ہو اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مخلوق میں سے کسی کو دکھانے کے لئے نہ کرے اپنے عمل کو ریا سے برباد نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (۱) ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (۲) ﴿الَّذِينَ هُمْ

﴿يُرَاءُونَ﴾ (۳) (الماعون ۱۰۷/۶۴)

”پس ویل ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔“

حدیث میں بھی ریا کے متعلق بہت وعید آئی ہے ریا کار درحقیقت غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا میں ریا اور سمنغہ (دکھانے اور سنانے) کے لئے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی (سجدہ نہیں کر سکیں گے)۔ (بخاری کتاب التفسیر باب یوم یکشف عن ساق ح ۳۹۱۹)

② حدیث میں ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے اس سے ریا کی قباحت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء ۴۷/۴۷)

”اللہ تعالیٰ یہ بات ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔“

ہمیں ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کرنا چاہیئے اور اسی بات پر قانع رہنا چاہیئے کہ ہمارا پروردگار جس کے لئے ہم ساری جدوجہد کر رہے ہیں ہمیں دیکھ رہا ہے کسی دوسرے سے نہ کسی فائدے کی امید ہے نہ نقصان کا خوف اور اعمال میں انخفاء کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیئے تاکہ ریاء سے بچ سکیں۔

③ ریا کی چند صورتیں ہیں: پہلی یہ کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے نیکی کا کوئی عمل کرے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت ہی نہ ہو۔ مثلاً نماز صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھے جیسا کہ منافقین پڑھتے تھے۔ صدقہ صرف اس لئے کرے کہ اسے بخیل نہ کہا جائے۔ یہ ریاء کی بدترین صورت ہے اور یہ حقیقت میں مخلوق کی عبادت اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔

دوسری یہ کہ اصل مقصد بندوں کو دکھانا اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت بھی ہو یا بندوں کو اور اللہ کو دکھانے کا ارادہ یکساں ہو یہ عبادت بھی غیر اللہ کو شریک بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

«أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ» (مسلم عن أبي هريرة/ الزهد/ ٤٦٦)

”میں تمام حصہ داروں میں حصے سے زیادہ غنی ہوں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی حصہ دار بنائے میں اس کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں۔“

ابن ماجہ میں یہ روایت ان الفاظ سے آئی ہے:

«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ» (صحیح ابن ماجہ/ الزهد/ ٢١/ ٣٣٨٧)

”میں تمام حصہ داروں میں حصے سے زیادہ مستغنی ہوں سو جو شخص میرے لئے کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے غیر کو حصہ دار بنائے تو میں اس سے بری ہوں اور وہ اسی کے لئے ہے جسے اس نے حصہ دار بنایا۔“

④ بعض اوقات آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، مگر لوگوں کو اس لئے دکھا کر کرتا ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں تو یہ جائز ہے بلکہ اس کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی وہ شریک ہو گا اگرچہ چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ریا کا امکان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (البقرة ۲/۲۷۱)

”اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بہت ہی اچھا ہے اور اگر انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔“

⑤ بعض اوقات آدمی خالص اللہ کے لئے کوئی عمل کرتا ہے، مگر کسی بزرگ مثلاً استاد، والد یا کسی نیک آدمی کے سامنے اس لئے کرتا ہے کہ وہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس لئے کہ ان کے خوش ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو گا۔ خود ان سے نہ کسی صلے کی نیت ہو نہ کسی دنیاوی فائدے کی تو یہ ریا نہیں بلکہ انہیں خوش کرنے میں بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِتَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيَذَلِّلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة ۹/۹۹)

”بعض اعرابی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی خرچ کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ہاں قریب ہونے کا اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو یقیناً یہ ان کے لئے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خوب مزین کر کے قرآن پڑھنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریا قرار نہیں دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بہت ہی اچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ یقیناً تمہیں آل داود کے مزامیر میں سے ایک مزار دیا گیا ہے یعنی تمہیں داود علیہ السلام جیسی خوبصورت اور سریلی آواز دی گئی ہے جس کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ (بخاری فضائل القرآن ۵۰۴۸)

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کاش تم مجھے اس وقت دیکھتے جب گزشتہ رات کان لگا کر میں تمہاری قراءت سن رہا تھا یقیناً تمہیں آل داود کے مزامیر میں سے ایک مزار دیا گیا ہے۔

ابو یعلیٰ نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مزید مفصل بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے دونوں کھڑے ہو کر ان کی قراءت کان لگا کر سننے لگے۔ پھر چلے گئے صبح ہوئی تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا ”اے ابو موسیٰ کل رات میں تمہارے پاس سے گزرا اور میرے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں تم اس وقت اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے ہم نے کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

«أَمَّا إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحِيْرًا»

”یا رسول اللہ! اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کی خاطر قرآن کو بہت ہی مزین کر کے پڑھتا۔“ (مسند ابو یعلیٰ ۴۰۱/۶ حدیث ۷۲۴۲)

ابن سعد نے انس رضی اللہ عنہ سے ایسی سند کے ساتھ جو مسلم کی شرط پر ہے روایت کیا ہے کہ ایک رات ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان کی آواز سنی۔ ان کی آواز بہت میٹھی تھی۔ تو وہ کھڑی ہو گئیں اور کان لگا کر سننے لگیں۔ جب صبح ہوئی تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہنے لگے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو ان کے

لئے اسے خوب مزین کر کے پڑھتا۔

رویانی نے یہی روایت مالک بن مغول عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ کی سند سے سعید بن ابی بردۃ (یعنی ابو یعلیٰ والی روایت) کی طرح بیان کی ہے اس میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا:

«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا»
 ”اگر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ میری قراءت پر کان لگائے ہوئے ہیں تو میں اسے خوب مزین کر کے پڑھتا۔“

اس روایت کا اصل احمد کے ہاں موجود ہے۔ (فتح الباری شرح حدیث ۵۰۳۸)

6] بعض اوقات آدمی نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر زیادہ خوش دلی سے عبادت کر لیتا ہے اسے خیال گزرتا ہے کہ یہ تو ریا ہے۔ ممکن ہے کبھی ایسا بھی ہو جب اس کی نیت خراب ہو جائے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں نیکی کی رغبت ہوتی ہے، مگر مختلف مصروفیات، دنیاوی خواہشات اور غفلتوں کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا جب دوسروں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شوق بھڑک اٹھتا ہے، غفلت کا پردہ اترتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

جب وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لئے نیکی کر رہا ہے تو اسے ریا نہیں کہا جاسکتا۔ جماعت کے ساتھ مل کر رہنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں دوسرے فوائد کے علاوہ یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے نیکیوں میں مقابلے کا جذبہ برقرار رہتا ہے اور آدمی ست نہیں ہوتا۔ «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (البقرہ: ۱۳۸) ”پس تم نیکیوں میں سبقت کرو۔“

7] اگر کوئی شخص خالص اللہ کے لئے عمل کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے وہ اس کی تعریف کریں تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اگر اس پر اسے خوشی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے لئے نیک عمل کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟

آپ نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ”یہ مومن کو جلدی مل جانے والی بشارت ہے۔“ (مسلم حدیث نمبر ۲۶۳۲، ص: ۲۰۳۳)

منافق کی علامات

۱۴۰۰/۶۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّعَمَنَ خَانَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے اور جب اس کو امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔“ (بخاری و مسلم)

”اور ان دونوں

کے لئے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے اور جب جھگڑے تو بدزبانی کرے۔“
تخریج: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری (۳۳) مسلم (الایمان/۵۹) وغیرہما عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث بخاری (۳۳) مسلم (الایمان/۵۸) وغیرہما صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اس طرح ہے:

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ»
”منافق کی نشانیاں تین ہیں خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلم ہے۔“

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ صحیح بخاری میں اس طرح ہیں:

«أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا اتَّيَمَنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»

”چار چیزیں ہیں جس شخص میں وہ ہوں خالص منافق ہوتا ہے اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے جب اسے امانتدار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے اور جب جھگڑے تو بدزبانی کرے۔“

مفردات: مُنَافِقٌ نَافِقَاءُ سے مشتق ہے جو جنگلی چوہے (یربوع) کے بل کا ایک منہ ہوتا ہے اور وہ اسے اس طرح بناتا ہے کہ اس جگہ مٹی کی صرف اتنی تہ رہنے دیتا ہے کہ سرمارے تو کھل جائے۔ اس منہ کو وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ دوسرا منہ ظاہر کر دیتا ہے۔ منافق بھی چونکہ اپنا کفر چھپاتا اور ایمان ظاہر کرتا ہے اس لئے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ (توضیح آیتہ اصل میں آیتہ تھابث متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یاء کو الف سے بدل دیا۔

أُتِيمَنَ باب افعال سے ماضی مجہول ہے۔ اِتَّيَمَنَ اس نے اس کو امین سمجھا۔

فوائد: ① نفاق کا اصل یہ ہے کہ منافق کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے دل میں کفر کے باوجود ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

”اور اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔“ (المنافقون: ۱) معلوم ہوا کہ نفاق کی اصل بنیاد جھوٹ ہے۔

② اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ﴾ (النحل: ۱۰۵/۱۰۶)

”جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی

لوگ اصل جھوٹے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔

③ ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما دونوں کی روایت کو جمع کریں تو منافق کی پانچ علامتیں بنتی ہیں۔

① بات کرے تو جھوٹ بولے۔

② وعدے کرے تو اس کا خلاف کرے۔

③ عہد کرے تو توڑ ڈالے۔

④ امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔

⑤ جھگڑے تو بد زبانی کرے۔

اگر غور کریں تو جھگڑتے وقت بد زبانی کرنا پہلی علامت یعنی ”بات کرے تو جھوٹ بولے“ میں شامل ہے اور اس کی ہی ایک خاص صورت ہے کیونکہ عموماً جھوٹ باندھنے کے بغیر بد زبانی مشکل ہے۔ عہد کرے تو توڑ ڈالے دوسری علامت یعنی وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے میں شامل ہے۔“ اگرچہ عہد وعدہ کی بہ نسبت زیادہ پختہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں قسم بھی ہوتی ہے، مگر بنیادی طور پر دونوں ملتے جلتے ہیں۔

اب اصل علامتیں تین ہی رہ گئی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ان تینوں علامتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیانت ہر طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ دیانت تین طرح کی ہوتی ہے۔ قول میں دیانت فعل میں دیانت اور نیت میں دیانت۔

① ”جب بات کرے تو جھوٹ بولے“ یہ زبان کی بددیانتی ہے لڑتے وقت بد زبانی بھی زبان کی بددیانتی ہے۔

② ”جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے۔“ یہ نیت کی بددیانتی کا اور جھوٹی نیت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ آدمی گناہ گار اس وقت ہے جب وعدہ یا عہد کرتے وقت اس کی نیت ہی وفا کی نہ ہو یا بعد میں وفا کی نیت پر قائم نہ رہے۔ اگر نیت وعدہ وفا کرنے کی

ہے، مگر حالات کے ہاتھوں بے اختیار ہونے کی وجہ سے وعدہ وفانہ کر سکا تو اس پر مواخذہ نہیں۔ ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔“ (بقرہ: ۲۸۶)

③ ”جب اسے امین سمجھا جائے تو خیانت کرے۔“ یہ فعل کی بددیانتی اور عملی جھوٹ ہے۔ گو اس کے ساتھ زبان اور نیت کی بددیانتی بھی شامل ہو جاتی ہے۔

④ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علامتیں تو بعض اوقات مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو کیا اسے منافق قرار دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب کئی طریقے سے دیا گیا ہے۔

پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک اعتقادی نفاق یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر اس کا ایمان ہی نہیں صرف زبانی کلمہ پڑھا ہے۔ لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں۔ یہ نفاق اکبر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اسی نفاق والوں کو کافر قرار دیا گیا اور انہیں آگ کے درک اسفل میں ہونے کی وعید سنائی گئی۔ اب بھی کئی کیونٹ، سیکولر، ڈیموکریٹ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے صرف مسلمان معاشرے میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔

دوسرا عملی نفاق کہ انسان ظاہر یہ کرے کہ وہ اچھے عمل کا مالک ہے مگر حقیقت میں اچھے عمل والا نہ ہو۔ اس نفاق کی بنیادی چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ جب یہ تمام جمع ہو جائیں تو عمل سرے سے ہی فاسد ہو جاتا ہے یعنی بات کرتے وقت ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے حالانکہ اس کا باطن اس کے خلاف ہے اور وہ خلاف واقع بات کر رہا ہے۔

ظاہر اس کا یہ ہے کہ لوگ اسے امین سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ امین نہیں وعدہ کرتے ہوئے اسے پورا کرنے کا تاثر دے رہا ہے، مگر نیت پورا کرنے کی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ فرمایا جس میں ایک علامت ہوگی اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی اور سب

ہوں گی تو خالص منافق ہو گا۔ اعتقادی نفاق والے میں یہ درجہ بندی نہیں ہوتی وہ تو اللہ کے ہاں سرے سے ہی کافر ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی دفعہ ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو آدمی منافق ہو جاتا ہے کیونکہ مومن سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ اس کی عادت بن جائیں روز مرہ کا وطیرہ ہی یہ ہو تو وہ منافق ہے۔ جب یہ علامتیں پوری جمع ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان ہو۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اس کی عادت ہر بات میں جھوٹ کی ہو جائے کوئی وعدہ پورا نہ کرے کسی امانت میں امین نہ رہے تو صرف عملی ہی نہیں اعتقادی منافق بھی ہو گا کیونکہ بات کرنے اور وعدہ کرنے میں ایمان کا اقرار بھی شامل ہے اس میں بھی جھوٹ بولے تو یہ صرف عملی منافق کیسے رہا۔ جھوٹ تو اہل ایمان کا شیوہ ہی نہیں سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ (النحل ۱۱۶/۱۰۵)

”جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔“

اور ہر بات، ہر عمل اور نیت میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ﴾ (البخاری ۶۰۹۴)

”جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق سے ہٹ جانے کی طرف لے جاتا ہے اور حق سے ہٹ جانا آگ کی طرف لے جاتا ہے۔“

مسلمان کو گالی دینے اور اس سے لڑنے پر وعید

٧/١٤٠١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ
كُفْرٌ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
”مسلمان کو گالی دینا فسوق (نافرمانی) ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔“
(متفق علیہ)

تخریج: بخاری (٦٠٣٣) مسلم (الایمان ٧) وغیرہما۔ دیکھئے تحفۃ الاشراف (٣٥/٤)
(٥٥/٤) (٣٩/٤) (١٣٠/٤) (١٥٣٤/٤) (١٢٩/٤) (٣١٣/٤) (٣٢٩/٤)

مفردت: سبَاب - سَبَّ يَسُبُّ (نَصَرَ يَنْصُرُ) کا مصدر سَبَّ اور سِبَابٌ دونوں طرح آتا
ہے گالی دینا بعض نے فرمایا یہاں سبَاب باب مفاہلہ میں سے ہے یعنی دونوں جانب سے گالی
گلوچ کرنا۔ اَلشَّبَّةُ جسے گالی دی جائے دیر کو بھی سَبَّةُ کہا جاتا ہے کیونکہ گالی دیتے وقت اسی
کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ابراہیم حربی نے فرمایا سبَاب سب سے زیادہ سخت اور تکلیف
دہ گالی کو کہتے ہیں کیونکہ سبَاب کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے ان عیوب کا ذکر کیا جائے جو
اس میں ہیں اور ان کا بھی جو اس میں نہیں ہیں۔

قِتَال - باب مفاہلہ کا مصدر ہے ایک دوسرے سے لڑنا۔

فُسُوقٌ - نَصَرَ يَنْصُرُ کا مصدر ہے۔ فَسَقَ يَفْسُقُ فَسَقًا وَفُسُوقًا۔ لغت میں اس کا معنی
”نکلنا ہے“ اور شرع میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم سے نکلنا مراد ہے۔ شرع
میں یہ عصیان سے سخت ہے۔ ﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ (المحجرات -
٤/٣٩) اور اس نے کفر فسوق اور عصیان کو تمہارے لئے ناپسند بنا دیا۔ (فتح)

① فوائد: ① مسلمان کو گالی دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ مقابلے میں بھی گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ مقابلے میں بھی زیادتی سے بچنا مشکل ہے۔

② اگر کوئی ابتداءً گالی دے تو اس سے بدلہ لینا جائز ہے اگرچہ بہتر صبر ہے ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (الشوری: ۴۱) ”جو شخص ظلم کئے جانے کے بعد بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر کوئی گرفت نہیں۔“ ﴿وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشوری: ۴۲) ”اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ہمت کا کام ہے۔“

③ بدلہ لینے میں شرط یہ ہے کہ صرف اتنی گالی دے جتنی اسے دی گئی ہے زیادتی نہ کرے اور نہ وہ بات کرے جو جھوٹ ہو۔ اس صورت میں دونوں کا گناہ گالی کی ابتداء کرنے والے پر ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمَظْلُومُ)) (مسلم عن ابی ہریرہ - ۲۵۸۷) ”دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔“

اگر دونوں ہی ایک دوسرے پر جھوٹ باندھیں تو دونوں گناہ گار ہیں اگرچہ پہل کرنے والا پہل کا مجرم بھی ہے۔ عیاض بن حمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ((الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَذَّبَانِ)) (صحیح ابن حبان - ۵۶۹۶) ”آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بدزبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں۔“

④ ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے“ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو گالی دے سکتا ہے خصوصاً جب وہ محارب (حالت جنگ میں) ہو اس وقت اسے ذلیل کرنے کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کہ آپ کے اردگرد ادھر ادھر کے لوگ جمع ہیں جب جنگ ہوئی تو یہ سب بھاگ جائیں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ ((امْضُ بِنَظَرِ اللَّاتِ أَنْحُنْ نَفْرُؤُا

عَنْهُ)) (بخاری، الشروط / ۱۵) ”(جاؤ جا کر لات کی شرم گاہ کو چوسو کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟“

⑤ ”اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے“ لڑائی کرنا گالی دینے سے سخت ہے اس لئے اس پر حکم بھی سخت ہے۔

⑥ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان مومن نہیں رہتا بلکہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمان سے لڑائی کو کفر قرار دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ﴿لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَنْضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ﴾ (بخاری۔ العلم / ۳۳) میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خارجی لوگوں کا یہی موقف ہے اور اسی بنا پر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی لوگوں کو بزم خویش کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بنا پر کافر قرار دیا، مگر ان احادیث سے یہ مطلب نکالنا درست نہیں، بلکہ شریعت کے قواعد اور قرآن و حدیث کی صریح نصوص کے خلاف ہے۔

⑦ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کفر و معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک وہ کفر جس سے مراد خروج عن الاسلام ہے اور جس کا مرتکب اسلام سے خارج اور ابدی جہنمی ہے یہ کفر جحد اور بڑا کفر ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دینا۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات واقعی اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول ﷺ نے فرمائی ہے اور اس انکار کو درست سمجھنا۔

کفر کی دوسری قسم کو امام بخاری رضی اللہ عنہ اور دوسرے ائمہ نے کَفْرٌ ذُوْنٌ كَفْرٍ (بڑے کفر سے کم تر کفر قرار دیا ہے) یعنی اسلام میں رہ کر کفر کے کسی کام کا ارتکاب کرنا۔ اس کفر کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (صحیح مسلم۔ الایمان / ۱۲)

ایمان کی ان تمام شاخوں کی ضد جتنے کام ہیں سب کفر کے کام ہیں۔ مگر کفر کے ہر کام

کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لینے، توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے تابع فرمان ہو جانے کے بعد کسی گناہ مثل قتل، زنا، چوری وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، مگر ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو یہ شخص گناہ گار مسلم ہے یہ نہ اسلام سے خارج ہے نہ ابدی جہنمی ہاں اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کفر اور جاہلیت کا کام ہے اس لئے اس کے متعلق اگر کہیں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی بھی کفر کے کام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ملت اسلام سے خارج ہے اور نہ یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔

اس تفصیل کی دلیل کے لئے چند آیات و احادیث پر غور کریں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء ۴۸/۴۸)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ چیزیں جسے چاہے گا بخش دے گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مشرک جو شرک پر فوت ہو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہاں مومن کے گناہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ چاہے تو سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا۔ (ب) شفاعت کی تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ملت اسلام کا فرد ہے اور اسے اللہ چاہے گا تو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکال دے گا اور چاہے گا تو محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی کی شفاعت کے جہنم سے نکال دے گا۔ (ج) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اٰفْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا﴾ (الحجرات ۹/۴۹)

”اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروادو۔“ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا:

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اٰخْوَتِكُمْ﴾ (الحجرات ۱۰/۴۹)

”مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلاح کروادو۔“
اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑائی کے باوجود مومن ہیں ان کی ایمانی
اخوت ختم نہیں ہوئی کہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اسی طرح قصاص کی آیات
میں قاتل کو اور مقتول کے وارثوں کو بھائی قرار دیا۔ فرمایا:

﴿فَمَنْ عَفَى لَّهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْسَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

(البقرة ۱۷۸/۲)

”تو جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو پیچھا کرنا ہے
اچھے طریقے سے اور اس کی طرف ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ۔“

معلوم ہوا کہ قتل کے باوجود قاتل مسلمان ہے اور مقتول کے وارثوں کا دینی اور ایمانی
بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یا طلحہ و زبیر و عائشہ
رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان حتی کہ علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان جو جنگیں
ہوئیں، اپنے بالقابل لڑنے والے کسی شخص کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کافر قرار نہیں دیا نہ
ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا نہ ان کے مال کو مال غنیمت بنایا۔ اگر وہ انہیں
کافر قرار دیتے تو مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کی طرح ان کے اموال کو مال غنیمت بناتے
اور ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی غلام بناتے۔

ان آیات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے ثابت ہوا کہ حدیث میں مسلمان سے
لڑنے کو جو کفر قرار دیا گیا ہے اور آپس میں لڑنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اس سے مراد
یہ ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر کا کام ہے ایمان کا نہیں اور اس کا ارتکاب کرنے والا کفر کے
کام کا ارتکاب کرنے والا ہے یہ نہیں کہ مسلمان سے لڑنا اسلام سے خارج ہونا ہے اور نہ
یہ کہ مسلمان سے لڑنے والا ملت اسلام سے خارج ہے۔

⑧ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی صحابہ سے قتل، زنا، چوری، بہتان، شراب نوشی اور
دوسرے گناہوں کا صدور ہوا آپ نے ان پر اللہ کی مقرر کردہ حدیں لگائیں مگر نہ کسی کو
کافر قرار دیا نہ ملت اسلام سے خارج قرار دیا نہ ہی کسی کو مرتد قرار دے کر اس پر ارتداد

کی حد (قتل) لگائی۔

⑨ مسلمان کو گالی دینے کو فسق اور اس سے لڑنے کو کفر قرار دینے سے ان گناہوں کی قباحت اور شاعت صاف ظاہر ہے اہل ایمان کو فسق اور کفر کا ارتکاب کسی طور پر زیب نہیں دیتا۔

⑩ بعض علماء نے ”مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے“ کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اسے مجازاً کفر قرار دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت اس کے احسان کی ناشکری اور اخوة اسلامی کی بے قدری ہے۔ یہ وہ کفر نہیں جو ایمان سے انکار پر لازم آتا ہے۔ اسے کفر اس لئے قرار دیا گیا کہ اس گناہ میں بڑھتے بڑھتے دل پر زنگ لگ جانے کی وجہ سے بعض اوقات انسان بڑے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اعازنا اللہ منہ

بدگمانی سے بچو

٨ / ١٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ
أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج : بخاری (٦٠٦٦) مسلم (البر والصلة / ٣٨) وغیرہما دیکھئے تحفۃ الاشراف (١٤٢/١٠)

صحیح بخاری میں پوری حدیث اس طرح ہے :

«وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»
”اور نہ ٹوہ لگاؤ نہ جاسوسی کرو نہ دھوکے سے (خرید و فروخت میں) بولی بڑھاؤ نہ

ایک دوسرے پر حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔

فوائد: ① قرطبی نے فرمایا کہ اس جگہ ظن سے مراد ایسی تمہمت ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو مثلاً ایک آدمی کے بدکار یا شرابی ہونے کا خیال دل میں جمالینا حالانکہ اس سے ایسی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی کہ اسے ایسا سمجھا جائے۔ اس لئے اس کے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا جاسوسی مت کرو۔ کیونکہ جب کسی شخص کے برے ہونے کا خیال دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو آدمی وہ بات ثابت کرنے کے لئے جاسوسی کرتا ہے توہ لگاتا ہے کان لگاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا۔ یہ حدیث اس آیت سے بہت ملتی جلتی ہے۔

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبَسُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات ۱۲/۴۹)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے بعض دوسرے کی غیبت کرے۔“

آیت میں مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنے کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ پہلے تو کسی بھی مسلم بھائی کے معاملے میں خواہ مخواہ کے گمان سے منع فرمایا جس کا کوئی باعث اور کوئی سبب نہ ہو اگر گمان کرنے والا کہے کہ میں اس گمان کی تحقیق کے لئے جستجو کرتا ہوں تو اسے کہا گیا ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ جاسوسی مت کرو۔ اگر وہ کہے جاسوسی کے بغیر ہی مجھے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو کہا گیا ﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ ایک دوسرے کی غیبت (دوسرے بھائی کی عدم موجودگی میں وہ بات جو اسے ناپسند ہو خواہ اس میں وہ موجود ہی ہو) مت کرو۔ (فتح الباری)

② ظن کی دو حالتیں ہیں۔ ایک ظن غالب جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے اس پر عمل کرنا درست ہے شریعت کے اکثر احکام اسی پر مبنی ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں۔ مثلاً عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی، باہمی تجارت، ٹیلی

فون اور خطوط کے ذریعے اطلاعات اور خبر واحد کے راویوں کی روایت وغیرہ ان سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال اور پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم بھی ظن غالب ہے اور اس پر عمل واجب ہے اسے ظن اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جانب مخالف کا ادنیٰ سا امکان رہتا ہے مثلاً ہو سکتا ہے گواہ کی گواہی درست نہ ہو اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو۔ راوی کو غلطی لگی ہو وغیرہ لیکن اس امکان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اگر اس امکان پر جائیں تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہ سکے۔ اس لئے اپنی پوری کوشش کے بعد دلائل سے جو علم حاصل ہو ظن غالب ہونے کے باوجود اس پر عمل واجب ہے۔

دوسرا ظن وہ ہے جو دل میں آجاتا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بات برابر ہوتی ہے اسے شک بھی کہتے ہیں یا اس کے ہونے کا امکان اس کے نہ ہونے سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ وہم کہلاتا ہے۔ ظن کی یہ صورتیں مذموم ہیں اور ان سے اجتناب واجب ہے۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ”بے شک بعض گمان گناہ ہیں“ سے یہی مراد ہے اور اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (یونس: ۳۶) ”بے شک گمان حق کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دیتا“ اور اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ (النجم: ۲۳) ”یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔“ میں اسی ظن کا ذکر ہے۔

③ جیسا کہ اوپر گزرا حدیث میں ایسے ظن (گمان) سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو مثلاً ایک آدمی جو ظاہر میں صالح ہے اس کے عیوب پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے عام مشاہدہ میں وہ عیوب اور امانت دار ہے اس کی بددیانتی یا گناہ گار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت نہیں اس کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر گمان کرنے کی کوئی واقعی دلیل یا علامت موجود ہو تو اس وقت گمان منع نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے منع نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ﴾ ”زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں فرمایا ﴿مَا يَجُوْزُ مِنَ الظَّنِّ﴾ جو گمان جائز ہیں۔ اور اس

میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا «مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا» ”میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں۔“ لیٹھ نے فرمایا یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ انتھی۔ اس جازم گمان سے وہ گمان مراد ہے جس کی علامات اور دلیلیں واضح ہوں۔

④ اگر دل میں کسی شخص کے برا ہونے کا خیال آئے مگر آدمی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے نہ ہی اس کا پیچھا کرے نہ اس کی غیبت کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ» (مسلم/الإيمان ۵۸)

”اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو وہ اپنے دل سے کریں جب تک ان پر عمل نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں۔“

⑤ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے چونکہ حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں ہوتا اس لئے اس کے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا اور بدترین اس لئے کہ اس نے بغیر کسی قرینے یا سبب کے محض نفس اور شیطان کے کہنے پر اسے برا قرار دے لیا۔ جب کہ اس کے برے ہونے کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں۔

اپنی رعیت کو دھوکا دینے والے پر جنت حرام ہے

۱۴۰۳/۹۔ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم بنا دے اسے جس دن موت آئے وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کو دھوکا دینے والا ہو تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۷۱۵۰) مسلم (الایمان / ۱۳۲) وغیرہما دیکھئے تحفۃ الاشراف (۸/۳۶۳) ((۸/۳۶۱))

فوائد: ① بخاری رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے اس میں ایک قصہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیاز پرسی کرنے کے لئے آئے یہ اس بیماری کا واقعہ ہے جس میں معقل رضی اللہ عنہ فوت ہوئے: عبید اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے یزید کے زمانے میں بصرے کے عامل تھے تو اس موقع پر معقل رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔

بلوغ المرام میں مذکور الفاظ مسلم کی ایک روایت کے ہیں۔ مسلم کی دوسری روایت یہ ہے کہ فرمایا:

«مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلْبِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةُ» (مسلم / الإیمان ۶۳)

”جو کوئی امیر مسلمانوں کی حکومت کا والی بنے، ان کے ساتھ نہ پوری کوشش کرے نہ ان کی خیر خواہی کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

② اس حدیث میں ان حکمرانوں کے لئے سخت وعید آئی ہے جو اپنی رعایا کی بہتری کے لئے پوری کوشش نہیں کرتے، نہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں بلکہ انہیں دھوکا دیتے ہیں اور توبہ کئے بغیر اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لئے جنت حرام ہے۔ کیونکہ اتنے بندوں کے حق وہ قیامت کے دن کہاں سے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے بندوں کو راضی نہیں کرے گا کہ ان کے حقوق اپنے پاس سے ادا کرے اور ان کو

دھوکا دینے والے اور ظالم حکمرانوں کو جنت میں بھیج دے بلکہ انہیں ضرور ہی ان حقوق کے بدلے جہنم میں پھینکے گا۔

جنت حرام ہونے کا مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بغیر شروع میں ہی جنت میں داخل ہو جانا ان پر حرام ہے۔ یہ مطلب اس لئے کیا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لئے جنت صرف کفار کے لئے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾

(المائدة / ۵ / ۷۲)

”یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے۔“

اور جنت کے پانی اور رزق کے متعلق فرمایا:

﴿ إِنَّكَ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (الأعراف / ۷ / ۵۰)

”اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔“

اس لئے کسی مسلمان کے متعلق اگر یہ الفاظ آئیں کہ اس پر جنت حرام ہے تو اس سے مراد یہی ہو گا کہ جنت میں شروع میں داخلہ اس پر حرام ہے۔

زیر بحث حدیث میں مسلم کی دوسری روایت اس مطلب کی تائید کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا ((لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)) ”اپنی رعیت کی خیر خواہی نہ کرنے والا ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔“ البتہ اپنے گناہوں اور زیادتیوں کی سزا پانے کے بعد کسی وقت جنت میں چلا جائے تو الگ بات ہے۔

③ رعایا کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے کرتا ہے ان کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ان کی عقل برباد کرنے کی ہر کوشش کو ناکام کرے اس مقصد کے لئے قتل، ڈاکے، چوری، زنا، بہتان، شراب نوشی پر اللہ کی بتائی ہوئی حدیں نافذ کرے، بے حیائی کو پھیلنے سے روکے مظلوم کی فریاد سنے۔ رعایا سے علیحدگی اور فاصلہ اختیار نہ کرے۔ فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرے

اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے جہاد جاری رکھے۔ ان کی تربیت کے لئے قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام کرے اور ان کے تمام معاملات پر صرف ان لوگوں کو ذمہ دار مقرر کرے جو اس کی پوری محنت، کوشش اور جستجو کے بعد اسے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ اس کام کے اہل معلوم ہوئے ہیں۔ اموال اور دوسرے فوائد کی تقسیم میں عدل کرے ایسا حکمران اللہ کے ہاں بہت ہی بلند درجے والا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو آپ نے شمار فرمایا امام عادل ہے۔ (بخاری - الاذان / ۳۶)

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي الْحُكْمِ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» (مسلم/الإمارة ۱۸)

”انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عزوجل کے دائیں ہاتھ نور کے منبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے میں عدل کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں اور جس کے بھی ذمہ دار ہیں عدل کرتے ہیں۔“

4 خیر خواہی کے مقابلے میں دھوکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھے۔ رعایا کی جان مال اور آبرو برباد کرے۔ حدود اور جہاد کو باطل کرے۔ مسلمانوں کے مال میں اپنی مرضی سے ناحق تصرف کرے ان پر ظلم کاہداوانہ کرے ناجائز ٹیکس لگا کر ان کی زندگی تلخ کر دے۔ مفسدوں کو رعایا پر ظلم کی کھلی چھٹی دے دے۔ حکومت کی ذمہ داریوں پر اہل لوگوں کی بجائے اپنی خوشامد کرنے والے، جاویجا حمایت کرنے والے نااہل اور مفسد لوگوں کو مقرر کرے۔ مسلمانوں کے دشمنوں سے سازباز کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ایسے حکمرانوں کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جنت حرام ہونے کی وعید سنائی ہے۔

امت محمدیہ پر مشقت ڈالنے والے حاکم کیلئے رسول اللہ ﷺ کی بددعا

۱۴۰۴/۱۰۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي

شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ جو

شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنا پھر اس نے ان

پر مشقت ڈالی تو تو اس پر مشقت ڈال۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا۔)

تخریج: مسلم (الامارة / ۱۹) دیکھئے تحفة الاشراف (۱۱/۷۷۷)

صحیح مسلم میں مکمل حدیث اس طرح ہے کہ عبدالرحمن بن شماسہ فرماتے ہیں کہ میں

عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات پوچھنے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا ”تم کن

لوگوں سے ہو؟“ میں نے کہا ”میں ایک مصری آدمی ہوں۔“ فرمانے لگیں ”تمہاری اس

لڑائی میں تمہارا ساتھی (امیر) تمہارے لئے کیسا رہا؟“ اس نے کہا ”ہم نے اس کی کسی بات

کو ناپسند نہیں کیا۔ اگر کسی آدمی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے اونٹ دے دیتا تھا، غلام فوت ہو

جاتا تو غلام دے دیتا تھا اور خرچے کی ضرورت ہوتی تو خرچہ دے دیتا تھا۔“ فرمانے لگیں

”اس نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے متعلق جو کچھ کیا وہ مجھے تم سے وہ حدیث بیان

کرنے سے مانع نہیں ہو سکتا جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے اس گھر میں بیان کرتے

ہوئے سنی:

«اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ

وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِ» (مسلم / الامارة / ۱۹)

”اے اللہ جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنا پھر ان پر

مشقت ڈالی تو تو اس پر مشقت ڈال اور جو شخص میری امت کے کام میں کسی چیز کا ذمہ دار بنا پھر ان کے ساتھ نرمی کی تو تو اس کے ساتھ نرمی کر۔“

فوائد: [1] اس حدیث میں مسلمانوں کے بادشاہوں، وزیروں، افسروں، ججوں، فوجی کمانڈروں، اساتذہ کرام اور کسی بھی قسم کی ذمہ داری رکھنے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان پر سختی کرنے اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت پر مشقت ڈالنے والے کے حق میں بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے اور نرمی کرنے والے کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کرے۔

امت مسلمہ پر حکمرانوں کی ڈالی ہوئی چند مشقتیں: حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں نے اپنی رعایا پر بے شمار مشقتیں ڈال رکھی ہیں۔ وہ اپنی رعایا کو ملاقات کا موقعہ ہی نہیں دیتے لوگ روزانہ آکر کھڑے رہ رہ کر ملاقات سے محروم واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی درخواستیں مہینوں بلکہ سالوں تک فائلوں میں ہی دبی رہتی ہیں۔ افسر اور کلرک اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں اور کام کے لئے آنے والوں کو ہر روز کل آنے کے لئے کہہ کر ناکام واپس بھیج دیتے ہیں۔ خواہ کوئی کتنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو افسر صاحب میٹنگ یا ہاتھ سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔

بہر سزاقتدار لوگ اپنی رعایا کو روزگار میں سہولت میسر کرنے کی بجائے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کوئی صنعت لگانا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے تو لائسنس کی پابندی ہے، لائسنس حاصل کرنے کے لئے بے شمار محکموں کے دفاتروں میں در بدر پھرنا اور افسروں کے نخرے اٹھانا پڑتا ہے، اگر کاروبار شروع کر بیٹھیں تو مختلف ٹیکس اور اتنے ظالمانہ اور حد سے بڑھے ہوئے کہ یا وہ جھوٹ بول کر اپنی اصل آمدنی چھپا کر یا رشوت دے کر جان چھڑائیں اور اگر رشوت نہ دیں یا سچ کہیں تو اپنا تمام سرمایہ ٹیکس میں دینے اور کاروبار ختم کرنے کے باوجود گورنمنٹ کے نادھندہ اور پولیس کو مطلوب رہیں۔ حکومت کو صرف

پیسے کھینچنے اور اپنا اقتدار مضبوط کرنے سے غرض ہے ڈاکے مارنے والوں، دہشت گردوں، قاتلوں، عزتیں لوٹنے والوں کو کھلی چھٹی ہے وہ بے شک جدید ترین اسلحہ استعمال کریں، مگر اپنی حفاظت کے لئے اسلحہ رکھنے والوں پر لائسنس کی پابندی ہے۔ اگر لائسنس نہ لے سکیں تو صرف گھر رکھنے پر ہی لمبی قید یا پھانسی کے لئے تیار رہیں۔

اگر کسی پر ظلم کیا جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے اور وہ انصاف کے لئے عدالت میں جانا چاہے تو حکمرانوں نے اس کے لئے اتنی مشقتیں تیار کر رکھیں ہیں کہ اگر وہ سمجھدار ہو تو عدالت کی مشقتیں برداشت کرنے کی بجائے اپنی پہلی مظلومیت پر ہی صبر شکر کر لے۔

سب سے پہلے تو وہ جس عدالت میں جا رہا ہے اس میں اللہ کے قانون جو کہ سراسر آسانی اور رحمت ہے، کی بجائے کفار کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو گا جو کہ سراسر مشقت ہے اور فطرت کے خلاف ہے پھر اس عدالت میں وہ اپنی زبان میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عدالت کی زبان انگریزی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وکیل کرے اور جس کا گھر پہلے ہی لٹ چکا ہو وہ وکیل کی فیس کہاں سے لائے گا۔

پھر عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لئے اسے پیسے دینے پڑیں گے انصاف خریدنا پڑے گا اگر عدالت کی فیس نہیں دے سکتا تو یہ شخص انصاف کا حقدار نہیں۔

عدالت کی فیس، وکیل کی فیس اور دوسرے واجبات ادا کرنے کے بعد درخواست دے کر اب اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کے مقدمے کی سماعت کب شروع ہوتی ہے کبھی جج گریموں کی چھٹیوں پر ہے کبھی ہفتہ وار چھٹی ہے۔ کبھی وکیل فارغ نہیں۔ کبھی جج دوسرے مقدموں میں مصروف ہے۔ لمبی مدتیں انتظار کرنے کے بعد اگر سماعت شروع ہوئی تو تاریخیں ملنی شروع ہو گئیں۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر ہائی کورٹ میں نئے سرے سے وہی چکر شروع ہو گیا اس کے بعد سپریم کورٹ کا مرحلہ باقی ہے اور ہر عدالت کے لئے نئی فیس نیا وکیل اور انتظار کا نیا حوصلہ چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس انتظار میں زندگی سے گزر جاتے ہیں۔

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک

کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک

اگر کوئی بے گناہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو اسے اپنی صفائی کے لئے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا یا واقعی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ فوراً اس کی تحقیق کر کے اسے سزا دے کر فارغ کر دیا جاتا وہ اپنی سزا سننے کے لئے سالوں تک جیل میں سڑتا رہتا ہے اور پولیس کے وہ کارندے اور عدالت کے وہ جج جن کی غفلت یا تغافل سے وہ اس عذاب میں بلاوجہ مبتلا رہا کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔

پھر صرف ملزم ہی پر مشقت کے یہ پہاڑ نہیں توڑے جاتے بلکہ اصل مشقت اس کے گھر والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اگر اسلام پر عمل ہوتا تو جلد از جلد فیصلہ کر کے حد لگا کر یا تعزیر لگا کر گھر بھیج دیا جاتا اب ہر جرم کے لئے چوری ہو یا کوئی اور جیل یا جرمانے کی سزا ہے۔ جو حقیقت میں اس کے لئے کم ہے اور اس کے وارثوں کے لئے زیادہ ہے ماں باپ بوڑھے ہیں کما نہیں سکتے، بچے کمائی کے قابل نہیں، بیوی کو ضرورت ہے کہ خاوند اس کے پاس رہے، مگر گھر کا یہ کفیل اپنی سزا سننے کے لئے جیل میں ہے یا سزا بھگتنے کے لئے نہ ماں کی خدمت کر سکتا ہے نہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے نہ انہیں کما کر دے سکتا ہے۔ اگر اللہ کے دین پر عمل کرتے تو ہر ایک کے لئے بے حد آسانی تھی جرم کی سزا دے کر اسے گھر بھیج دیا جاتا۔ مگر کفار کی تقلید میں ان سزاؤں کو وحیاً نہ قرار دیا جو صرف مجرم کے لئے ہیں اور جن سے گناہ رکتے ہیں اور ایسی سزائیں نافذ کیں جن سے مجرم کا کچھ نہیں بگڑتا جیل میں رہ کر اس کا ذوق جرم مزید بدھتا ہے اور وہ تربیت یافتہ اور علوی مجرم بن جاتا ہے ماں باپ، بیوی بچوں اور صالح معاشرے سے کٹنے اور جیل میں ہونے والے ذلت آمیز سلوک کی وجہ سے وہ چڑچڑا وحشی اور خونخوار بن جاتا ہے اور اصل سزا اس کے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کو ملتی ہے۔

امت مسلمہ پر نرمی کرنے کی برکات: اگر امت اسلامیہ کے حکمران اپنی رعایا کے

لئے آسانیاں پیدا کرتے۔ اپنے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی نہ کرتے ان پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کرتے انہیں چوروں، ڈاکوؤں سے بچاتے انہیں اسلحہ کی تربیت دے کر اور اسلحہ رکھنے کی اجازت بلکہ حکم دے کر چوروں، ڈاکوؤں اور کفار کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے۔ کاروبار میں سہولت دیتے، انہیں کفار کی یلغار سے بچانے کے لئے جماد کرتے ہر قسم کا ٹیکس ختم کر کے معیشت کی بنیاد زکوٰۃ، خراج اور غنیمت پر رکھتے کفار کا نظام عدل جو حقیقت میں سراسر ظلم ہے ختم کر کے اسلام کا نظام عدل جو سراسر رحمت ہے نافذ کرتے تو اللہ بھی ان کے لئے بے شمار آسانیاں مہیا فرما دیتا ان کے لئے زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ کھول دیئے جاتے مجرموں کو جیلوں میں سڑنے کے لئے چھوڑ دینے کی بجائے اگر ان پر اللہ کی حدود نافذ کرتے تو ایک ایک حد پر اللہ کی طرف سے رزق کی وہ فراوانی اور کشادگی ہوتی جو چالیس چالیس دن تک مسلسل ہونے والی رحمت کی بارش سے بھی نہ ہوتی۔ (نسائی، ابن ماجہ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ۱/۴۰۹)

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَنَحْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الاعراف ۷/۹۶)

”اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑ لیا۔“

مسلم رعایا پر مشقت ڈالنے کے وبال: مسلم ممالک کے حکمرانوں نے جب اللہ کے حکم کے برعکس اپنی رعایا پر بے حد مشقتیں ڈالیں (جن کی تھوڑی سی تفصیل اوپر گزر چکی ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی بددعا کے مطابق ان پر بے شمار مشقتیں ڈال دیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔

(الف) وہ اپنی بد اعمالیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے ہر وقت حکومت چھن جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور حکومت قائم رکھنے کے لئے اپنوں پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے

یہود و نصاریٰ اور دوسرے کفار پر بھروسہ کرتے اور ان کی مدد کے محتاج رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی ہر جائز، ناجائز فرمائش پوری کرنے پر مجبور ہیں۔

(ب) وہ جس قدر لوگوں کے مقدمات کو طول دے کر جیلوں میں بند رکھتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق انہیں شکنجوں میں کس کر اور بے شمار قسم کی دفعات لگا کر ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں اسی قدر قتل خونریزی ڈاکے اور دہشت گردی میں اضافہ ہوتا اور حکمرانوں کی نااہلی اور بے بسی نمایاں ہوتی ہے۔

(ج) وہ جس قدر ملت اسلامیہ پر ٹیکسوں اور تادانوں کی مشقت بڑھاتے ہیں اور سود کے خونی پنچے میں جکڑتے ہیں اسی قدر دنیا بھر کے کفار کے مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انہیں تنخواہیں ادا کرنے کے لئے بھی یہودیوں کے بنکوں سے سود پر روپیہ لینا پڑتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست گرفت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ قرض لی ہوئی رقموں کا سود ادا کرنے کے لئے مزید سود پر قرض لیتے ہیں اور زمینی اور آسانی برکات کی بجائے نیچے اوپر سے آفات کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔

کاش یہ حکمران امت پر آسانی اور اس کے ساتھ نرمی کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لئے آسانی مہیا فرماتا اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا۔

حدیث میں مذکور امیر اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے بھائی سے اسکا سلوک: اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبدالرحمن بن شماسہ سے جس امیر کے متعلق پوچھا تھا وہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ صحابی تھے جن کی امارت میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بلاد مغرب میں کفار سے کئی جنگیں لڑی گئیں اور ان جنگوں میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا۔ (اعلام النبلاء ۳/ ۳۷-۳۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے مصر چھیننے کے لئے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوج بھیجی تھی۔ انہوں نے معاویہ بن حدیج کو محمد بن ابی بکر سے لڑنے کے لئے بھیجا۔

محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا، مگر ان کے ساتھی انہیں چھوڑ کر بکھر گئے محمد اکیلے ایک کھنڈر میں چھپ گئے، مگر آخر کار پکڑے گئے اور معاویہ بن حدادیج نے انہیں قتل کر دیا۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے البدایہ والنہایہ ۷/۳۲۶)

عائشہ رضی اللہ عنہا کا انصاف اور حدیث پہنچانے کا جذبہ: اس حدیث سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمال تقویٰ اور انصاف بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے قاتل کی اچھی صفت سن کر اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھپایا نہیں بلکہ اپنی دلی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت تک پہنچا دیا۔ علاوہ ازیں اس سے ام المومنین کا حدیث رسول کو امت تک پہنچانے کا زبردست جذبہ اور اس کا اہتمام بھی صاف ظاہر ہے۔

مسلمان کو چہرے پر مارنا منع ہے

۱۴۰۵/۱۱ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ
الْوَجْهَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لڑے تو چہرے سے بچے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۲۵۵۹) مسلم (البر والصلۃ / ۱۱۳) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۲۰۳/۱۰)

فوائد: ① چہرے پر مارنے کی ممانعت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے چہرے پر کوئی بھی چیز مارنا منع ہے حتیٰ کہ اپنے غلام، خادم یا شاگرد کو ادب سکھانے کے لئے یا سزا دیتے وقت بھی منہ پر کوئی چیز مارنا حرام ہے۔

شَرْحُ كِتَابِ الْجَامِعِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ بَابُ التَّزْهِيبِ مِنْ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں یہ لفظ آئے ہیں: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ» (صحیح الادب المفرد حدیث نمبر ۱۳۰) "جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے تو چہرے سے بچے۔" آپس میں لڑائی ہو جائے غصہ اور جذبات کتنے ہی مشتعل کیوں نہ ہوں مسلمان کے منہ پر ہتھیار چھوڑ کر تھپڑ بھی نہ مارے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْطَمَنَّ الْوَجْهَ» (مسلم/ البر والصلۃ ۱۱۴)

"جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو منہ پر تھپڑ نہ مارے۔"

① سزا دیتے وقت بھی منہ پر نہ مارے: ایک روایت میں قَاتَلَ کی جگہ «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ» کے لفظ ہیں۔ (مسلم۔ البر والصلۃ ۱۱۴) یعنی صرف لڑائی ہی نہیں کسی وجہ سے بھی مارے تو چہرے پر مارنے سے بچے۔

② باکنگ: باکنگ میں چونکہ ایک دوسرے کے چہرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس لئے اس حدیث کی رو سے یہ وحیثانہ کھیل حرام ہے۔

③ چہرے پر مارنا کیوں منع ہے؟: چہرے پر مارنے کی حرمت کی ایک وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی حسن و جمال کا مظہر ہے اور آدمی کے اکثر حواس مثلاً دیکھنا، سننا، چکھنا اور سونگھنا چہرے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ چہرے پر مارنے کی صورت میں ان تمام حواس کا یا ان میں سے کسی ایک کا ختم ہو جانا یا خراب ہو جانا عین ممکن ہے اور شکل بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے۔ کسی مسلم بھائی کے ساتھ اتنی زیادتی کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دی جا سکتی۔

دوسری وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى

صُورَتِهِ» (البر والصلۃ ۱۱۵)

”جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے بچے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔“

اس حدیث میں مارنے سے ممانعت کی وجہ سے انسانی چہرے کی تکریم قرار دی گئی ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس (آدم) کی صورت پر پیدا فرمایا، مگر ابن ابی عاصم نے ”کتاب السنۃ“ میں ابو یونس عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما کے طریق سے یہی روایت ان الفاظ میں بیان کی ہے ((مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ ضَوْزَةَ وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى ضَوْزَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ)) ”جو شخص لڑے وہ چہرے سے بچے کیونکہ انسان کے چہرے کی صورت رحمان کے چہرے کی صورت پر ہے۔“ (فتح الباری میں اس مضمون کی اور روایات بھی لکھی ہیں دیکھئے جلد ۵، حدیث ۲۵۵۹)

اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جس میں ہے کہ اللہ نے آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ (فتح الباری، حوالہ مذکورہ) البتہ یہ بات خاص طور پر مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوری: ۱۱) ”اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔“

اسی طرح اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا مگر اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

⑤ کافر کو چہرے پر مارنے کا حکم: بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاد میں بھی چہرے پر مارنا جائز نہیں، مگر یہ بات درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے شرف انسانی سے محروم ہیں ان کی کوئی تکریم نہیں ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ (الاعراف: ۱۷۹) ”یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ“

قیامت کے دن اس حقیقت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا چہرہ

انسان کی بجائے بھوکا کر دیا جائے گا۔ (بخاری۔ کتاب احادیث الانبیاء ۸/)

عزت و تکریم صرف مومن کے لئے ہے۔ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِیَسْئُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (المنافقون: ۸) ”عزت صرف اللہ کے لئے، اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا۔ ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الانفال - ۱۲) ”ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر پورے پر مارو۔“

اب ظاہر ہے گردنوں سے اوپر کھوپڑی اور چہرہ ہی ہے۔ اور اتنی نفاست سے مارنا کہ صرف کھوپڑی پر لگے اور چہرے پر نہ لگے۔ ممکن ہی نہیں اور فرمایا کہ فرشتے کفار کو فوت کرتے وقت یَضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَذْبَابَهُمْ (محمد: ۳) ”ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔“

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں جب کفار نے رسول اللہ ﷺ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنے فخر سے اتر پڑے پھر آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اسے ان کے چہروں کی طرف پھینک کر فرمایا ﴿شَاهَتِ الْوُجُوهُ﴾ ”چہرے بگڑ جائیں۔“ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں کو مٹی سے بھر دیا، وہ پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں شکست دے دی۔ (مسلم۔ کتاب الجہاد والسیر ۸۱/)

- دیکھئے آپ ﷺ نے ان کے چہروں کو نشانہ بنایا اور ان کے چہروں کے بگڑنے کے لئے خاص بددعا کی۔

① بدلے کی صورت میں چہرے پر مارنا جائز ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة ۱۹۴/۲)

”جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر اس کی مثل زیادتی کرو جو اس نے کی۔“

اور فرمایا:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ

بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالْأَذُنِ وَاللِّسَنِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ﴿

(المائدة/۴۵)

”ہم نے ان پر اس (توراة) میں لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ہے۔“

غصہ سے اجتناب کا حکم

۱۴۰۶/۱۲۔ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ
مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبُ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا ”غصہ مت کر“ اس نے کئی مرتبہ (سوال) دہرایا آپ نے (یہی) فرمایا ”غصہ مت کر“ (اسے بخاری نے روایت کیا ہے)

تخریج: (بخاری ۶۱۱۶)

فوائد: (1) یہ سوال کرنے والا کون تھا؟
دقتوں میں کئی صحابہ نے کیا اور آپ

نے انہیں یہی جواب دیا فتح الباری میں جاریہ بن قدامہ، سفیان بن عبد اللہ ثقفی، ابوالدرداء اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے یہ سوال اور نبی کریم ﷺ کا یہی جواب مذکور ہے۔ ان میں سے بعض نے یہ کہہ کر سوال کیا کہ آپ مجھے تھوڑی سی بات بتا دیجئے جس سے مجھے نفع ہو اور بعض نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے یہی جواب دیا کہ غصہ مت کر۔ تمام روایات کی تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری (حدیث ۶۱۱۶)

(2) طالب وصیت کو آپ ﷺ کا جواب

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس درخواست کے جواب میں

اور وصیتیں بھی فرمائی ہیں۔ بعض سے فرمایا «قُلْ زَيِّنِي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمَّ» "تو کہہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہ" (صحیح الترمذی - الزهد / ۴۷) بعض سے فرمایا «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَظْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» "تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔" (ترمذی / ۵ / ۳۵۸ اور صحیح ابن ماجہ / ۲ / ۳۱۷)

www.KitaboSunnat.com

اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ماہر طبیب ہر مریض کے مزاج اور بیماری کو مد نظر رکھ کر علاج اور غذا تجویز کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ جو سب سے بڑے روحانی معالج تھے ہر شخص کو اسی عمل کی وصیت فرماتے جو اس کے لئے ضروری اور اس کے حالات کے مطابق ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے ان حضرات میں غصہ زیادہ تھا اس لئے آپ نے انہیں بار بار سوال کے باوجود غصہ سے اجتناب کی ہی وصیت فرمائی۔ چونکہ تقریباً تمام لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ غصے میں آکر اعتدال سے نکل جاتے ہیں اس لئے آپ کی وصیت تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔

(3) غصہ کے نقصانات

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں غصے سے بچنے کا حکم دے کر بے شمار قباحتوں سے بچانے کا اہتمام فرمایا کیونکہ غصے کی آگ

سے انسان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں بلکہ شکل ہی بدل جاتی ہے غصے کے ساتھ ہی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے آدمی وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے مارنے کو دوڑتا ہے قتل تک سے دریغ نہیں کرتا بس نہ چلے تو اپنے ہی کپڑے پھاڑ دیتا ہے اپنے آپ کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے زبان سے وہی تباہی بکنے لگتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی بے گناہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ غرض ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اگر ہوش کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو شرمندہ ہو جائے۔ یہ تو ظاہری نقصان تھا دل کا نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے دل بغض، کینے، حسد اور آتش انتقام سے بھرا رہتا ہے سکون اور اطمینان رخصت ہو جاتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے

اور دوستوں، رشتہ داروں اور اہل ایمان بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اب آپ رسول ﷺ کی اس حکیمانہ وصیت پر غور فرمائیں کہ آپ نے اس چھوٹے سے جملے میں کتنی حکمت کی باتیں سمودی ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے انسان کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وہ کتنے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔

(4) ”غصہ مت کرو“ کا مطلب؟ | ظاہر ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے بلکہ اللہ کے دین کی

خاطر غصے ہونا قابل تعریف ہے اور اسی سے جذبہ جماد پروان چڑھتا ہے۔ اس لئے ”غصہ مت کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں غصے ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہاں غصہ مت کرو۔ ایسے مقامات پر ”غصہ مت کرو“ کی دو حالتیں ہیں۔ ایک غصہ آنے سے پہلے دوسرے غصہ آنے کے بعد۔

غصہ آنے سے پہلے «لَا تَغْضَبْ» کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو غصہ نہ آئے حتیٰ کہ غصہ نہ کرنے کی عادت بن جائے۔ اس کے لئے وہ اسباب اختیار کرنا ہوں گے جن سے آدمی حسن اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ مثلاً بردباری، حیا، سوچ سمجھ کر کام کرنا، زیادتی برداشت کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، عفو، درگزر، غصہ کو پی جانا اور ہر ایک کو کھلے چہرے اور خندہ پیشانی سے ملنا۔ جب ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی تو غصے کے موقع پر آدمی اس عادت کی وجہ سے غصے میں آنے سے بچ جائے گا۔ غصہ آجانے کے بعد «لَا تَغْضَبْ» کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے کہنے پر عمل مت کرو۔

ابن حبان نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا کہ ”غصے میں آنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے“ مطلب یہ ہے کہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو اور اس کے کہنے میں اگر اللہ کی نافرمانی مت کرو کیونکہ اصل پہلو ان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا۔

جب غصہ آجائے تو اسے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے دیکھئے اسی باب کی حدیث ۱۳۹۶/۲ کی تشریح۔

اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کا انجام

۱۴۰۷/۱۳۔ وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي
مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کچھ
لوگ اللہ کے مال میں حق کے بغیر دخل اندازی کرتے ہیں تو ان کے
لئے قیامت کے دن آگ ہے۔ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج: بخاری (۳۱۱۸) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۰۰/۱۱)

مفردات: يَتَخَوَّضُونَ - خَاصَّ يَخْوُضُ كَاَصْلِ مَعْنَى پانی میں داخل ہونا ہے پھر یہ لفظ
کسی بھی کام میں دخل دینے اور اس میں اپنی مرضی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
فوائد: اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کی صورتیں: اللہ کے مال سے مراد مال
نعیمت ہے بیت المال کے دوسرے اموال مثلاً زکوٰۃ خراج وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔
ان میں نہ امیر کو ناحق دخل اندازی جائز ہے نہ رعایا کو۔ امیر کی ناحق دخل اندازی کا
مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کا مال سمجھ کر اللہ ہی کی بتائی جگہوں پر عدل و انصاف کیساتھ
خرچ کرنے کی بجائے اپنا ذاتی مال سمجھ کر اپنی مرضی اور خواہش نفس کے مطابق خرچ
کرے یا اپنی جائیداد بتائی شروع کر دے مال نعیمت کے پانچ حصوں میں چار حصے مجاہدین
میں تقسیم نہ کرے۔ خمس کو اللہ اور اسکے رسول کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ نہ کرے زکوٰۃ
کو اس کی مدوں میں صرف نہ کرے۔ حقداروں میں تقسیم کرنے کی بجائے خویش پروری
اور اقرباء نوازی کرے۔ ایسا کرنے والے کیلئے آگ کی وعید ہے۔ رعایا کی ناحق دخل

اندازی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی چیز لے لے یا مسلمانوں کے مال سے کوئی چیز امیر کی اجازت کے بغیر لے لے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو ایک غلام جس کا نام مدغم تھا بطور ہدیہ دیا۔ ایک دفعہ مدغم رسول اللہ ﷺ کے اونٹ کا پالان اتار رہا تھا کہ اچانک ایک نامعلوم تیر آیا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگ کہنے لگے ”اسے جنت مبارک ہو۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہرگز نہیں“ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چادر جو اس نے خیر کے دن غنیمت کی اشیاء میں سے تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی آگ بن کر اس پر شعلے مار رہی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا تو ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا ”یہ ایک یا دو تسمے آگ کے ہیں۔“ (متفق علیہ مشکوٰۃ باب قسمة الغنائم)

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو مال دیا ہے وہ بھی درحقیقت اللہ کا مال ہے انسان اس کا امین ہے اور صرف ان جگہوں سے لینے کا اور انہی جگہوں پر خرچ کرنے کا پابند ہے جہاں اللہ کا حکم ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (التوبة/۹/۱۱۱)

”اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لئے ہیں۔“ اب اگر وہ مال کمانے یا اسے خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرے گا تو اس کا انجام بھی آگ ہے۔

ایک دوسرے پر ظلم مت کرو

۱۴/۱۴۰۸۔ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ

الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے آپ کی ان احادیث میں سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو آپ ﷺ اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا ”اے میرے بندو! یقیناً میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (البر والصیۃ / ۵۵) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۶۹/۹)

فوائد: ① اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے کہ کسی پر ظلم کروں قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (الكهف ۱۸/۴۹)

”اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (ق ۲۹/۵۰)

”اور میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔“

② کیا اللہ تعالیٰ (نعوذ باللہ) تھوڑا ظلم کر لیتا ہے؟: بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندوں پر ظلام یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ تھوڑا بہت ظلم وہ کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ۳/۱۰۸)

”اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔“

ظلام کی نفی میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معمولی سے ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ چہ جائیکہ وہ ظلام ہو؟ ظلم کی تعریف اور مزید تشریح کے لئے دیکھئے اسی باب کی حدیث (۱۳۹۷/۳)

غیبت کیا ہے؟

۱۴۰۹/۱۵۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ: قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَيْبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے عرض کیا گیا آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں (تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟) آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (البر والصلة/۷۰) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۰/۲۲۳)

① غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا يَنْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات ۱۲/۴۹)

”تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اسے برا جانتے ہو۔“
مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردہ کا گوشت کھایا جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اسی طرح وہ شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہو پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے کو حرام قرار دیا ہے اور اگر وہ مردہ انسان کا گوشت ہو اور انسان بھی وہ جو بھائی ہے تو اس کی حرمت کس قدر زیادہ ہوگی؟

② نبی ﷺ نے غیبت کا مفہوم خود بتانے کی بجائے صحابہ سے کیوں پوچھا؟
رسول اللہ ﷺ نہایت دانا اور حکیم معلم تھے اس لئے آپ تعلیم دیتے وقت صحابہ کو کسی نہ کسی طرح متوجہ کر کے ان میں علم کی طلب پیدا کر لیتے تھے تاکہ بات اچھی طرح ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اگر ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔
ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ بتاؤں گا۔ جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی نے ہاتھ پکڑ کر وعدہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ (بخاری: ۳۳۷۷، ۳۳۷۸)
معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یقیناً اے معاذ! مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ تعلق جتانے کے بعد فرمایا کہ کسی نماز میں یہ دعامت چھوڑنا:

«رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»
(صحيح النسائي ۱۲۳۶ - السهوي ۶۰)

اگر غور کریں تو طریق تعلیم پر جدید ماہرین کے لکھے ہوئے ہزاروں صفحات اس ایک نکتے کی معمولی سی تشریح ہیں جو رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔

① غیبت کیا ہے؟: رسول اللہ ﷺ نے غیبت کی ایسی واضح اور جامع تعریف فرمائی ہے کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا۔ ((ذِكْرُكَ أَخِيكَ بِمَا يَكُونُ)) ”تمہارا اپنے بھائی کو اس چیز کے ساتھ ذکر کرنا جس (کے ساتھ ذکر کئے جانے) کو وہ ناپسند کرتا ہے۔“ امام نووی نے الاذکار میں اس کی کچھ تفصیل فرمائی ہے خلاصہ یہ ہے کہ:

”خواہ وہ چیز اس کے بدن سے تعلق رکھتی ہو یا دین سے یا دنیا سے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو یا اخلاق کے، اس کے مال، اولاد، والدین، بیوی بچوں کے متعلق ہو یا اس کے لباس، چال ڈھال، بول چال، خندہ پیشانی یا ترش روئی کے متعلق غرض اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے۔ پھر خواہ یہ ذکر زبان سے کیا جائے یا تحریر سے، اشارے سے ہو یا کٹائے سے، تمام صورتوں میں غیبت ہے۔ اشارہ خواہ آنکھ سے ہو، یا ہاتھ سے، سر کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ غیبت میں شامل ہے۔“

بدن کی غیبت مثلاً: اس کی تنقیص کے لئے اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، ٹھگنا، لمبوتر، کالا، کبڑا یا اس قسم کا کوئی اور لفظ استعمال کرے۔ دین کے بارے میں غیبت یہ ہے کہ: اسے فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں ست، پلید، ماں باپ کا نافرمان، بد معاش وغیرہ کہے۔ دنیا کے بارے میں مثلاً: اسے نکما، باتونی، پیڑ وغیرہ کہے۔ اخلاق کے متعلق مثلاً: اسے بد خلق، متکبر، ریاکار، جلدباز، بزدل، سزمل قرار دے۔ اس کے والد کے متعلق مثلاً: جولہا، موچی، کالا جہشی وغیرہ کہہ کر اس کی تنقیص کرے۔ پھر زبان ہاتھ، جسم کے ساتھ غیبت کی ایک صورت اس کی نقل اتارنا ہے۔ مثلاً: اس کے انک انک کر بات کرنے یا ناک میں بولنے کی، لنگڑا کر چلنے کی، کبڑا ہونے کی یا چھوٹے قد کا ہونے کی نقل اتارے۔ غرض قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت جس کا مقصد کسی مسلم بھائی کی تنقیص ہو غیبت ہے اور حرام ہے۔

② کیا غیبت کسی صورت میں جائز بھی ہوتی ہے؟: بعض اوقات مسلم بھائی کی غیبت جائز بھی ہو جاتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جاسکتا ہے۔

قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب دین کا کوئی ضروری مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت یہ جائز ہے۔ نووی نے اور ان سے پہلے غزالی نے غیبت کے جواز کے چھ موقعے گنائے ہیں:

① ظلم پر فریاد: مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْمِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ (النساء، ۴۸/۱)

”اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» ”حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے“ (بخاری، ج: ۲۳۹۰) ہتر یہ ہے کہ بادشاہ یا قاضی یا ایسے شخص کے پاس اپنی مظلومیت کا تذکرہ کرے جو اس کی مدد کر سکتا ہو۔

② کسی گناہ یا برے کام کو روکنے کے لئے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکیں۔ اگر مقصد صرف اس کام کرنے والے کی تذلیل ہو تو یہ جائز نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیات و احادیث اس کی دلیل ہیں۔

③ فتویٰ لینے کے لئے مفتی کے سامنے کسی کے نقص کا ذکر کرے تو یہ جائز ہے مثلاً ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو کیا میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے لے لیا کروں؟ آپ نے فرمایا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے جتنا کافی ہو معروف طریقے کے ساتھ لے لیا کرو۔ (بخاری: ۲۲۱۱، البیوع ۹۳/۱)

رسول اللہ ﷺ نے ہند رضی اللہ عنہا کو اپنے خاوند کا عیب بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا کیونکہ اس کا مقصد مسئلہ پوچھنا تھا۔

④ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے اور انہیں شر سے بچانے کے لئے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک

شخص تھا آپ نے فرمایا:

«إِنِّدُنُوا لَهُ بِنَسَبِ أَخُو الْعَشِيرَةِ» (البخاری - ۶۰۵۴)

”اسے اجازت دے دو یہ خاندان کا بہت برا آدمی ہے۔“ (حدیث لمبی ہے)

رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری خیال فرمایا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی میں اور انہیں شر سے بچانے میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں:

(الف) حدیث کے راویوں پر اور مقدمے کے گواہوں پر جرح جائز بلکہ واجب ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔

(ب) جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے یا امانت رکھنے یا مشارکت کرنے یا ہمسائیگی اختیار کرنے، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنے کے متعلق مشورہ پوچھے تو صحیح صحیح بات بتا دے۔

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ”معاویہ تو کنگال ہے اس کے پاس کچھ نہیں اور ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے تم اسامہ سے نکاح کر لو۔“ (صحیح مسلم: ۱۳۸۰، الحلاق ۶/)

اور یہ مومن کا حق ہے ((وَإِذَا سْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ)) ”جب وہ تم سے مشورہ مانگے تو اس کی خیر خواہی کر۔“ (صحیح مسلم: ۲۱۲۳، الادب ۳/)

۵ جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، علانیہ شراب پیتا ہو تو اس کے ان گناہوں کا ذکر جائز ہے جن کو چھپانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور جن کا ذکر کیا جائے تو اسے برا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہے جسے وہ ناپسند کرے۔

۶ کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ اسے برا بھی نہ جانتا ہو تو اسے اس لقب سے ذکر کرنا جائز ہے خواہ اس میں اس کا کوئی نقص ہی بیان ہو رہا ہو۔ مثلاً: أَعْمَشُ (جس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوں) (لتکثر) أَصَمُّ (بہرا) أَعْمَى (ناہینا) وغیرہ شرط یہ ہے کہ مقصد اس کی تنقیص نہ ہو۔

⑤ کیا غیر مسلم کی غیبت جائز ہے: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا يَغْتَابِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح ﴿ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ﴾ سے بھی ظاہر ہے کہ صرف مسلمان کی غیبت ناجائز ہے۔ کیونکہ کافر ہمارا دینی بھائی نہیں۔

اخوت ایملی کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت

۱۶/۱۴۱۰- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. اتَّقَوِي هَاهُنَا» "وَيُسَيِّرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرِيءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ" (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں ارادہ خرید کے بغیر بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے دلی دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان، مسلمان کا بھائی

ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے تقویٰ یہاں ہے اور آپ اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرماتے تھے۔ آدمی کو برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (البر والصلۃ / ۳۲) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۰/۳۵۶)

مفردات: بِحَسْبِ اَعْرَبٍ مِیْنِ بَاءِ زَائِدَةٍ هِيَ اَوْ حَسْبِ اَمْرٍ مُّبْتَدِئَةٍ هِيَ اَوْ اَنْ يَحْفَرُ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ جَمَلُهُ بِنِ كَرْمِصِدْرِ كِي تَاوِيلِ مِیْنِ هُوَ كَرِاسِ كِي خَبْرٍ هِيَ۔

فوائد: ① ((لَا تَحَاسَدُوا))۔ یہ باب تقاضی ہے جو دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ کوئی حسد کرے تو اس کے جواب میں بھی اس پر حسد نہ کرو۔ حالانکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی اجازت ہے:

﴿ وَحَزَنُوا سِتْنَةً سِتْنَةً مِثْلَهَا ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔“

مگر مسلمان پر حسد کے جواب میں بھی حسد جائز نہیں تو جو تم پر حسد نہیں کرتا اس پر حسد تو بطریق اولیٰ حرام ہے۔ حسد کی تفصیل اور علاج کے لئے دیکھئے اسی باب کی پہلی حدیث۔

② ((وَلَا تَنَاجِسُوا)) یہ بھی باب تقاضی ہے۔ لغت میں نجس کا معنی شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا اور نکالنا ہے تاکہ پھر اسے شکار کیا جاسکے یہاں مراد یہ ہے کہ جب کوئی سامان فروخت ہو رہا ہو بولی میں اس کی قیمت لگائی جا رہی ہو تو کوئی شخص دوسرے سے بڑھ کر اس کی قیمت لگا دے جب کہ اس کا ارادہ اسے خریدنے کا نہ ہو تاکہ دھوکے میں آکر کوئی دوسرا شخص اس سے بڑھ کر قیمت لگا کر پھنس جائے یہ دھوکا ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس شخص کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ حرام ہے جو آپ سے یہ معاملہ

نہیں کرتا۔

③ «وَلَا تَبَاغَضُوا» یہ بھی تحاسدوا کی طرح باب تفاعل ہے۔ اور اس میں بھی وہی نکتہ موجود ہے کہ جو مسلمان تم سے بغض رکھے تم مقابلے میں بھی اس سے بغض مت رکھو اور اگر کوئی تم سے بغض نہیں رکھتا اس سے بغض رکھنا تو اور زیادہ برا ہے۔ اس حکم کی رو سے وہ کام بھی حرام ٹھہرے جن سے آپس میں دلی عداوت پیدا ہوتی ہے۔

④ «وَلَا تَدَابَرُوا» یہ دُبر یعنی پیٹھ سے باب تفاعل ہے۔ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت کرو مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو کیونکہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں یہ حالت تین دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے۔ دیکھئے اسی کتاب کی حدیث نمبر (۱۳۷۷)

⑤ ایک دوسرے کی بیع پر بیع مت کرو: جب دو مسلمانوں کی آپس میں بیع ہو چکے تو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ بیچنے والے سے کہے کہ تم یہ چیز میرے ہاتھ میں فروخت کرو میں تمہیں زیادہ قیمت دیتا ہوں نہ خریدنے والے سے یہ کہنا جائز ہے کہ تم یہ چیز مجھ سے خریدو میں تمہیں سستی دیتا ہوں پہلی بیع فسخ کر دو اس سے آپس میں شدید عداوت پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر دو فریقوں میں نکاح کی بات طے ہو چکی ہے صرف عقد باقی ہے تو کسی تیسرے کو ان کی بات ختم کروا کر اپنا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ ہاں اگر بیع طے نہیں ہوئی اور اسی طرح ابھی رشتہ طے نہیں ہوا تو ہر شخص خریدنے کے لئے کہہ سکتا ہے کہ میں اتنی قیمت پر خریدتا ہوں اسی طرح ہر شخص نکاح کا پیغام بھی دے سکتا ہے۔

⑥ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ: یعنی اللہ کے بندے ہو تو اس کا حکم مانو۔ بندے کا کیا کام ہے کہ اپنی بات چلائے۔ پانچ چیزوں سے منع کرنے کے بعد حکم یہ دیا کہ نسبی بھائیوں کی طرح آپس میں بھائی بن جاؤ۔ تمہارے درمیان گئے بھائیوں کی طرح باہمی

شفقت رحمت، محبت غمخواری، معاونت اور خیر خواہی ہونا چاہیے۔

⑤ وہ چیزیں جن سے اسلامی اخوت کا اظہار ہوتا ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر اس اخوت کو ظاہر کرنے والی تین چیزیں بیان فرمائیں۔ ① وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ نہ اس کی جان پر نہ مال پر نہ عزت پر۔ ② وہ اس کی مدد نہیں چھوڑتا، اگر وہ مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچاتا ہے اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ اسے ظلم سے روکتا ہے۔ ③ اسے حقیر نہیں جانتا۔ کیونکہ مسلمان کو حقیر جاننے کی ابتداء تکبر سے ہوتی ہے اور تکبر ایمان کے منافی ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ» (صحیح مسلم ج: ۹۱، الإیمان ۳۹)

”تکبر حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔“

متکبر آدمی دوسرے کو حقیر جاننے کی وجہ سے انہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا اس پر فرض ہے۔

⑧ تقویٰ کیا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟: تقویٰ کا لفظی معنی ڈرنا اور بچنا ہے۔ اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لئے اس کی تمام منع کردہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے اور اس کا اثر تمام اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔

① مسلمان کو حقیر جاننے کا گناہ: فرمایا ”آدی کو برا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے“ کیونکہ اسے حقیر جاننے کی وجہ تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

«الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا،

قَدَفْتُهُ فِي النَّارِ» (صحیح ابی داؤد، خ: ۳۴۴۶، اللباس ۲۸)

”کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے جس شخص نے ان دونوں میں

سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔“

اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» (مسلم)

”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو گا۔“

⑩ كُلُّ مُسْلِمٍ اور كُلُّ الْمُسْلِمِ میں فرق: كُلُّ مُسْلِمٍ کا معنی ہے ہر ایک مسلمان اور كُلُّ الْمُسْلِمِ کا معنی ہے مسلمان کا کل، مسلمان کا ہر حصہ، مسلمان کی ہر چیز، رسول اللہ ﷺ نے خود ہی وضاحت فرمادی کہ مسلمان کی ہر ایک چیز اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔

چار بری چیزوں سے بچنے کی دعا

۱۴۱۱/۱۷- وَعَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَذْوَاءِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاللَّفْظُ لَهُ)

”قطیبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے اے اللہ! مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری پیاریوں سے بچا۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا اور یہ لفظ حاکم کے ہیں)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۳۵۹۱) حاکم (۵۳۲) البانی نے اسے صحیح کہا ہے دیکھئے صحیح الترمذی (۲۸۴۰)

مفردات: جَنَّبَ باب تفعیل کا مصدر ہے تجنیب کا معنی دور رکھنا ہے۔ أَخْلَاقٌ - خُلُقٌ کی جمع ہے۔ أَهْوَاءٌ هَوَى کی جمع ہے اور اَدْوَاءٌ - دَاءٌ کی جمع ہے۔

فوائد: برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے کیا مراد ہے؟ آدمی کی وہ عادتیں جو اس کی پیدائشی عادتوں کی طرح پختہ ہو جائیں اخلاق کہلاتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

كَذَلِكَ أُدْبِتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي
إِنِّي وَجَدْتُ مِلَاكَ الشَّيْمَةِ الْأَدْبَا

”مجھے اسی طرح ادب سکھایا گیا، یہاں تک کہ وہ میری طبعی عادت بن گیا ہے میں نے تمام خصلتوں کا اصل ادب کو پایا ہے۔“

برے اخلاق وہ ہیں جو شریعت کی نظر میں برے ہیں اور جنہیں انسانی عقل اور فطرت بھی برا جانتی ہے مثلاً حسد، کینہ، جھوٹ، خیانت، دھوکا، سنگدلی، بخل، بزدلی، بے صبری وغیرہ اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق ہیں مثلاً بردباری، عفو، سخاوت، صبر، رحم، لوگوں کے کام آنا، ان کی تکالیف اٹھانا اور ان سے احسان وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے برے اخلاق سے پناہ مانگی اور اچھے اخلاق کے حصول کے لئے دعائی چنانچہ نماز کے افتتاح کی دعائیں ہے:

«وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ»
(صحیح مسلم صلاة المسافرين ۲۶)

”اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے (کیونکہ) سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے (کیونکہ) مجھ سے برے اخلاق کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔“

برے اعمال سے مراد وہ تمام کام ہیں جو شریعت کی نظر میں برے ہیں اور فطرت انسانی بھی اگر مسخ نہ ہو گئی ہو تو انہیں برا جانتی ہے۔ مثلاً قتل ناحق، زنا، چوری، بہتان وغیرہ۔

بری خواہشات وہ ہیں جن کے پیچھے اگر انسان لگ جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کا انجام برا ہو۔ بری بیماریاں جو انسان کو ذہنی یا جسمانی طور پر بے کار کر دیں، لوگوں کو اس سے نفرت دلانے کا باعث ہوں جیسے برص، جذام، عشق، جنون، قلع و غیرہ۔

جھگڑے، مذاق اور وعدہ خلافی کی ممانعت

۱۴۱۲/۱۸۔ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِزْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا. فَتُخْلِفَهُ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، نہ اس کے ساتھ مذاق کر اور نہ اس سے ایسا وعدہ کر کہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ (اسے ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا)

تخریج: [ضعیف] (اسے ترمذی (۱۹۹۵) نے روایت کر کے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے اسی سند سے جانتے ہیں۔ البانی نے اسے "ضعیف الترمذی" (۳۳۱) اور "ضعیف الجامع" (۶۲۷۳) میں ضعیف قرار دیا ہے۔)

مفردات: لا تُمَارِ - مَارَى يُمَارَى مُمَارَاةً و مِرَاءً بَاب مَفَاعَلَةٌ سے نہی کا صیغہ ہے مادہ "م ر ی" جھگڑا مت کر۔

فَتُخْلِفُهُ بَابِ اِنْفِعَالٍ سے فعل مضارع ہے اس پر نصب اس لئے ہے کہ یہ ((لَا تَعِدْهُ)) نہی کے جواب میں ہے اور اس پر فاء داخل ہوئی ہے۔ اس فاء کے بعد اُن نامہ مقرر ہوتا ہے۔

فوائد: ① اس حدیث کی سند کیسی ہے؟: اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی یسٹ بن ابی سلیم ہیں۔ تقریب میں ہے «صدوق اختلط اخیراً ولم یتمیز حدیثہ فترک» سچا ہے اخیر میں اسے اختلاط ہو گیا اور اس کی حدیث کی تمیز نہیں ہو سکی اس لئے اسے ترک کر دیا گیا۔

② ترمذی نے اسے حسن غریب کیوں فرمایا ہے؟: غریب تو اس لئے کہا کہ اس کی سند صرف ایک ہے اور راوی کمزور ہونے کے باوجود حسن اس لئے کہہ دیا ہے کہ اس کے مفہوم کی تائید دوسری آیات و احادیث سے ہوتی ہے۔

③ کیا ضعیف حدیث بیان کرنا درست ہے؟: ضعیف حدیث بیان کرنا درست نہیں ہاں اگر ساتھ کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے جیسا کہ یہاں مصنف نے واضح کر دیا ہے۔ تو درست ہے کیونکہ کسی حدیث کے ضعف کا علم بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ ہاں اگر اس کی تائید دوسری احادیث سے یا قرآن مجید سے ہوتی ہو تو پھر بطور استدلال بھی بیان کی جاسکتی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ اس کا ضعف واضح کر دیا جائے تاکہ اصل استدلال مجموعی مفہوم سے ہو صرف ضعیف حدیث کے کسی لفظ کو استدلال کی بنیاد نہ بنایا جائے۔

④ مسلمان سے جھگڑا کرنا منع ہے: ناجائز ”مراء“ کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی دوسرے شخص کی بات پر کسی ضرورت اور مقصد کے بغیر اعتراض کرتے رہو اور اس کی خرابی نکالتے رہو مقصد صرف اسے نیچا دکھانا، ذلیل کرنا اور اس پر اپنی برتری ثابت کرنا ہو۔ (سبل السلام) خواہ مخواہ، جھگڑنے کی مذمت صحیح احادیث سے رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا:

«إِنَّ أَنْغَصَ الرَّجَالَ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِيمُ» (صحیح مسلم، العلم، ۲)

”اللہ کو آدمیوں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم سخت جھگڑالو ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ مَا صَرَبْتُمْ لَهُ إِلَّا جَذَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (الزخرف ۵۸/۴۳)

”انہوں نے اس (ابن مریم) کو آپ کے لئے صرف جھگڑے کے لئے بطور مثال بیان کیا ہے۔ بلکہ وہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں۔“

۵] کیا ہر قسم کا جھگڑا حرام ہے: وہ جھگڑا جس کا مقصد حق معلوم کرنا یا حق کو دلیل سے ثابت کرنا ہو اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو جائز بلکہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا:

﴿ وَحَدِّثْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل ۱۶/۱۲۵)

”ان کے ساتھ اس طریقے سے جھگڑا کر جو سب سے اچھا ہے۔“

مناظرہ، مجادلہ اچھے طریقے سے ہو تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سید المناظرین تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح نمود کے خدائی کے دعویٰ کو باطل کر کے اسے مہسوت کر دیا۔ ستارہ، چاند اور سورج پوجنے والوں کو ((لَا أُحِبُّ الْفٰلِیْنَ)) کی دلیل سے لاجواب کر دیا۔ بت پرستوں کو یہ کہہ دیا کہ ”ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو یہ سب انکے اس بڑے کا کام ہے۔“ انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اصل قصور خود تمہارا ہے۔ ہاں اس میں ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ طریقہ شائستہ ہو بات حسن ہی نہیں احسن ہو اہل کتاب سے بحث کرتے وقت بھی اس کی تاکید فرمائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

(العنکبوت ۲۹/۴۶)

”اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا مت کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔“

تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بحث کے لئے تو اور بھی اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

۶] مزاح کی کون سی صورت حرام ہے؟: وہ مزاح جس کا مقصد کسی مسلم بھائی کی تحقیر، اسے ذلیل کرنا اور اس کا خاکہ اڑانا ہو حرام ہے اس کی تمہ میں خود بینی، تکبر اور اپنی برتری ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس سے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ
مِن سِئَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ (الحجرات ۴۹/۱۱)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ہی عورتوں سے مذاق کریں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔“

7] مزاح کی جائز صورت کیا ہے؟: جب مزاح صرف خوش طبعی کی حد تک ہو اس میں کوئی غلط یا خلاف واقع بات نہ کی گئی ہو۔ جس شخص سے مذاق کیا گیا ہے اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے بلکہ وہ خود بھی لطف محسوس کرے اور اسے خوشی حاصل ہو تو ایسا مذاق جائز ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے، مگر اس کے لئے بہت تیز ذہانت کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی دوست کی دل شکنی نہ ہو جائے۔

خیال خاطر احباب چاہئے ہر دم
انہیں ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! إِنَّكَ تَدَاعِبُنَا أَپ ہم سے مزاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا: ((إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا)) میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ (صحیح الترمذی ۲۴۱)

کتب حدیث میں آپ ﷺ کی خوش طبعی کے کئی واقعات مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے سواری دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں سواری کیلئے اونٹنی کا بچہ دیں گے وہ کہنے لگا اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا آپ نے فرمایا اونٹ اونٹنیوں کے بچے ہی تو ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد ماجاء فی المزاح اور دیکھئے صحیح ابی داؤد (۳۹۹۸))

8] وعدہ خلافی: وعدہ خلافی کے متعلق تفصیل کے لئے دیکھئے اس باب کی حدیث

بد خلقی اور بخل کی مذمت

۱۹/۱۴۱۳۔ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسَوْءُ الْخُلُقِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ)

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوتیں۔ بخل اور بد خلقی۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے)

تخریج: [اس کی سند میں کچھ ضعف ہے] (ترمذی (۲۶۸۳) الادب المفرد للبخاری (۲۸۲) وغیرہما۔ سند اس طرح ہے عن صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن ابي سعيد مرفوعاً ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صدقہ بن موسیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں جانتے۔ ”شیخ البانی نے فرمایا ”وہ اپنے سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہے۔“ مناوی نے فیض القدر میں فرمایا کہ ذہبی نے کہا ہے ”صدقہ“ ضعیف ہے اسے ابن معین وغیرہ نے ضعیف کہا ہے اور منذری نے فرمایا ہے وہ ضعیف ہے اور حافظ نے تقریب میں فرمایا صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ ثَمَلِيٌّ دِكَيْمِيٌّ تَحْتَهُ الْأَشْرَافُ (۳/۴۷۸)

فوائد: حدیث کی سند میں اگرچہ کچھ ضعف ہے مگر بخل اور بد خلقی کی مذمت میں کئی آیات و احادیث آئی ہیں اور انہیں کفار کے اوصاف میں شمار کیا گیا ہے۔ بخل کی مذمت میں آیات:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ الَّذِينَ يَسْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾ (النساء ٤٠٤-٣٧)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا فخر کرنے والا ہو۔ وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبِّ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾﴾ (الماعون ١٠٧/١-٣)

”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور (خود کھانا تو دور ہے) مسکین کو کھلانے پر رغبت (بھی) نہیں دلاتا۔“

اور جہنمیوں کے بیان میں جس میں انہوں نے اپنے جہنمی ہونے کے اسباب بیان کئے ذکر فرمایا:

﴿قَالُوا لَئِنْ نَكَّ مِنَ الْمَصَلِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَئِنْ نَكَّ نَطَعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾﴾ (المدثر ٧٤/٤٣-٤٤)

”وہ کہیں گے ہم نمازیوں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے۔“

اور فرمایا:

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْمَسْرَى ﴿١٠﴾﴾

(اللیل ٨٢/٨-١٠)

”اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی کی اور جنت کو جھٹلایا ہم اسے مشکل کی طرف جانے کی آسانی دیں گے۔“

آپ دیکھیں ان تمام آیات میں بخل کی صفت کفار کے ضمن میں ہی بیان ہو رہی ہے۔

بد خلقی کی مذمت: ایسی خصلتیں جو طبیعت میں پختہ ہو جائیں اور اس طرح عادت بن جائیں کہ بغیر سوچے سمجھے خود بخود سرزد ہوتی رہیں خلق کھلاتی ہیں۔ خصوصاً جن عادات کا

تعلق ایک دوسرے سے برتاؤ کے ساتھ ہو۔ اچھی ہوں تو حسن الخلق اور بری ہوں سوء الخلق۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے متعلق فرمایا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم ۶۸/۴)
 ”آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔“

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ((كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ)) آپ کا خلق قرآن تھا۔ (مسند احمد ۹۱/۶) یعنی قرآن مجید میں مذکور تمام اوصاف و خصال آپ کی عادت اور طبیعت بن چکے تھے۔

اسی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اخلاق سینہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان برے اخلاق والے لوگوں کی پیروی آپ ہرگز نہ کریں۔ فرمایا:

﴿وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ﴾ ﴿۱۰﴾ هَمَّازٍ مَشْلَمٍ بِنَسِيمٍ ﴿۱۱﴾ مَنَاجٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 أَنِيْمٍ ﴿۱۲﴾ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ ﴿۱۳﴾ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ ﴿۱۴﴾ إِذَا تَتَلَّىٰ عَلَيْهِ
 ءَايَاتُنَا قَالَكُ اسْطَبِرْ الْآوْلِيَاءَ ﴿۱۵﴾ (القلم ۶۸/۱۰-۱۵)

”اور تو کسی ایسے شخص کا کنا بھی نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، سرکش پھر ساتھ ہی مشہور و بدنام ہو اس کی سرکشی صرف اس لئے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔“

حق یہ ہے کہ یہ اخلاق سینہ کفار ہی کا حصہ ہیں ایمان مؤمن کو کبھی اتنی پستی میں نہیں گرنے دیتا۔

گالی میں پہل کرنے والے کے لئے وعید

۱۴۱۴/۲۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَى
الْبَادِيءِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک
دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص جو کچھ کہیں (اس کا گناہ) پہل
کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔“ (اسے مسلم نے
روایت کیا)

تخریج: مسلم (البر والصلة / ۶۸) وغیرہ دیکھئے تحفة الاشراف (۱۰/۲۳۲)

فوائد: گالی کا بدلہ لینے کا جواز: اس حدیث میں اس شخص سے بدلہ لینے کو جائز
رکھا گیا ہے جو گالی دینے میں پہل کرے بشرطیکہ بدلہ لینے والا صرف اتنی گالی پر صبر کرے
جتنی اسے دی گئی ہے زیادتی نہ کرے۔ اس صورت میں دونوں کا گناہ پہل کرنے والے کی
گردن پر ہو گا۔ کیونکہ گالی گلوچے کے اس سلسلے کا اصل باعث وہ بنا ہے۔

﴿مَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة / ۱۹۴)

”تو جو شخص تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔“

جواب میں گالی دینے سے پرہیز کی فضیلت: لیکن اگر یہ صبر کرے اور برداشت کرے تو
یہ افضل ہے اور باعث ثواب ہے کیونکہ جواب شروع ہو جائے تو اکثر اوقات زیادتی ہو
جاتی ہے اور شیطان کو دخل دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَحَرِّزُوا سِنْتَهُ سِنْتَهُ مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

(الشوری / ۴۲/۴۰)

”اور برائی کی جزا اس کی مثل برائی ہے پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح
کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی نبی ﷺ وہاں
بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے جب اس نے زیادہ ہی برا بھلا

کہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ نبی ﷺ غصے میں آگئے اور (وہاں سے) اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے جا کر آپ سے ملے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے سے اٹھ گئے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو شیطان آگھسا سو میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ (مسند احمد ۲/۴۳۶)

اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں (بیہقی) البانی نے اسے حسن کہا۔ دیکھئے صحیح ابی داؤد (۳۸۹۷)

مسلمان کو نقصان پہنچانے اور اس کی مخالفت کرنے کا وبال

۱۴۱۵/۲۱ - وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ،
وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ)

”ابو صرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلم کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا اور جو شخص کسی مسلم کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا۔“

(اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن کہا۔)

تخریج: [سند میں کچھ ضعف ہے حدیث حسن لغیرہ ہے] (ابو داؤد (۳۶۳۵) ترمذی (۱۹۳۰) ترمذی میں ”مسلم“ کا لفظ نہیں ہے۔ مشہور حدیث لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (نہ ابتدا تکلیف دینا جائز ہے نہ ضد میں مقابلے پر آکر) اس کی مؤید ہے۔ مزید شواہد کے لئے دیکھئے

ارواء الغلیل (۸۹۶) اور ملاحظہ فرمائیں تحفۃ الاشراف ۲۲۸/۹

مفردات: صَدَّابُ مَفَاعِلَةٍ مِمَّنْ سَعَى. جو شخص ارادے اور قصد سے کسی کو تکلیف پہنچائے اسے مضار کہتے ہیں۔ اگر کوئی حق وصول کرنے کے لئے یا حد یا تعزیر کے لئے تکلیف پہنچائے یا اس سے بلا ارادہ دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو یہ مضار نہیں۔ شَاقٌّ يَهْتَقُ فِي سَبَابِ مَفَاعِلَةٍ هِيَ لِعَيْنِ كَسِيٍّ كَمَا مَقَابِلَةٌ فِي مَخَالَفَتِهَا عَلَى مَا كَانَتْ تَرْتَابُهَا وَهِيَ وَهِيَ شِقٌّ (طرف) میں ہو اور یہ اس کے بالمقابل دوسری شق میں۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْهُ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ كَبِيرٌ عَسَلٌ مِمَّنْ سَعَى. یعنی کسی کے مقابلے میں مخالفت پر اتر آنا کہ وہ ایک شق (طرف) میں ہو اور یہ اس کے بالمقابل دوسری شق میں۔

فوائد: مسلمان اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ اس کا دوست ہوتا ہے ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور فرمایا ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ اب ظاہر ہے جو شخص اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے کس طرح گوارا فرمائے گا اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس قسم کا عمل ہو اسی قسم کی جزاء ہوتی ہے اس لئے مسلمان کو جان مال عزت کسی بھی چیز میں قصداً تکلیف پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے گا اور جو شخص خواہ مخواہ کسی مسلمان کی مخالفت پر اتر آئے اور اس سے عناد رکھے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا۔

۲- ابو صرمہ رضی اللہ عنہ صحابی اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں نام میں بہت اختلاف ہے بنو مازن بن نجار سے ہیں بدر اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ (سبل)

بد زبانی کرنے والے بے ہودہ بننے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے

۱۴۱۶/۲۲ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقیناً اللہ

تعالیٰ بد زبان (گالیاں بکنے والے) یہودہ گندی باتیں کرنے والے سے

بغض رکھتا ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے)

تخریج: (اس کی سند میں کچھ ضعف ہے حدیث [صحیح لغیرہ] ہے۔ ترمذی (۲۰۰۲) میں مکمل روایت اس طرح ہے:

«عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ»

”نبی ﷺ نے فرمایا: مومن کی میزان میں کوئی چیز ایسے خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان (گالیاں بکنے والے) بے ہودہ گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔“

شیخ البانی نے فرمایا یعلیٰ بن مالک کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں کہا اور اس سے ابن ابی ملیکہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی اس لئے حافظؒ نے فرمایا ”مقبول“ یعنی متابعت کے وقت۔ شیخ البانی فرماتے ہیں اس کے آخری حصے:

«وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ»

کے دو شاہد بھی ہیں تفصیل کے لئے دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۸۷۶) اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۲۳۶/۸)

مفردات: يَبْغِضُ بَغْضًا، محبت کی ضد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اچھا بدل دے گا اسے عزت عطا فرمائے گا اور اس کے بغض کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا دے گا اسے ذلیل کرے گا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ محبت اور بغض کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے مگر محبت اور بغض کا مطلب یہ ہرگز نہیں محبت اور بغض کا مطلب ہر شخص جانتا ہے دوستی اور دشمنی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آئی ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جو لوگ ان کا کوئی

اور مطلب بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ ماننے سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق آتا ہے کیونکہ یہ جذبات تو انسانوں میں پائے جاتے ہیں اور انسان محبت اور دشمنی کے جذبے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے اللہ کی صفات کی تاویل کی جو درحقیقت اصل صفت حب و بغض کی نفی ہے کیونکہ بدلہ دینا، عزت کرنا یہ الگ صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ میں یہ بھی پائی جاتی ہیں اور محبت اور بغض اس کی الگ مستقل صفات ہیں۔

رہی یہ بات کہ حب و بغض کو اللہ کی صفات مانیں تو انسانوں کی مشابہت لازم آتی ہے جب کہ اللہ کی مثل تو کوئی چیز نہیں اس لئے ہم اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے بلکہ ان کا مطلب دوسرا کرتے ہیں تو اس میں قاتل غور یہ بات ہے کہ اگر محبت اور بغض انسانوں میں پائے جاتے ہیں تو اچھا یا برا بدلہ دینا، عزت کرنا یا بے عزتی کرنا بھی تو انسانوں میں پایا جاتا ہے پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں ہونا چاہیے اور ان کا مطلب بھی کچھ اور نکالنا چاہیے اور آخر کہاں تک مطلب نکالتے جائیں گے صاف کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ صفات سے خالی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان فرما دیا ہے۔ فرمایا:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى ۴۲/۱۱)

”یعنی اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

یعنی تم سننے اور دیکھتے ہو اور اللہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے مگر اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں تمہارا سننا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا ایک جیسا نہیں۔ بلکہ اللہ کا سننا اور دیکھنا اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ معلوم ہوا انسانوں کی مشابہت سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کا ہی انکار کر دینا درست نہیں بلکہ یہ دراصل قرآن کا انکار ہے۔

اسی طرح حب و بغض یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مگر جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں۔ مخلوق کی طرح نہیں اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح محبت و بغض کے ہاتھوں بے بس ہے۔

الْفَاحِشُ فُحْشٌ، فَاحِشٌ، فُحْشَاءٌ سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو بہت ہی قبیح ہو زنا کو اسی لئے فاحشہ کہتے ہیں۔ شدید بخل کو فحشاء کہتے ہیں۔ ﴿السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ (البقرة: ۲۶۸) میں یہی مراد ہے۔ گالی بکنا بے حیائی کی بات کرنا بھی فحش ہے۔ اس حدیث میں یہی مراد ہے۔ البذیٰ - بذاء سے فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ بے ہودہ اور گندی باتوں کو بذاء کہتے ہیں۔

فحش گوئی، بدکلامی اور لعن طعن کرنا مومن کی شان نہیں

۱۴۱۷/۲۳ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» (وَحَسَنُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَتَفَهُ)

”ترمذی نے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے یہ روایت اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ مومن بہت طعنے دینے والا، بہت لعنت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے ہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔“ (اور اسے حسن کہا ہے۔ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور دارقطنی نے اس کے موقوف (صحابی کا قول) ہونے کو راجح قرار دیا ہے)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۱۹۷۷) حاکم (۱۲/۱) بیہقی (۱۰/۱۹۳) شیخ البانی نے الصحیحۃ (۳۲۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ مقام قابل مطالعہ ہے کہ کس طرح جرح غیر مفسر رد کی جاتی ہے اور ایسی جرح کا حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۰۳/۷) فوائد: ① مومن پر لعن طعن حرام ہے: طعان اور لعان مبالغے کے صیغے ہیں۔ بہت زیادہ طعنے دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا۔

”مومن بہت زیادہ طعنے دینے والا بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا“ کا مطلب یہ نہیں کہ مومن تھوڑا بہت یہ کام کرتا رہتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اسے طعنہ دینا بالکل ہی حرام ہے۔

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (الحجرات ۱۱/۴۹)

”ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔“

ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔۔ حدیث لمبی ہے۔۔ اس کا ایک فقرہ یہ ہے:

«وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فهُوَ كَقَتْلِهِ» (بخاری ۶۰۴۸)

”جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔“

مومن کو تو جانور پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے قافلے میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی۔۔ رسول اللہ ﷺ نے سن لیا۔۔ فرمایا اس اونٹنی سے اس کا سامان اور پالان سب اتار دو یہ ملعون ہو چکی چنانچہ اس کا سامان اتار دیا گیا اور وہ اونٹنی چھوڑ دی گئی۔ (صحیح ابی داؤد: الجہاد/۵۵) آپ کی اتنی پر حکمت اور زبردست سرزنش کے بعد جانوروں پر لعنت کی جرأت کسے ہوگی؟

② مبالغہ کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ ”مومن لعان طعان نہیں ہوتا“ دراصل کفار پر تعریض اور چوٹ ہے کہ مومن نہیں بلکہ کافر لعان طعان ہوتے ہیں جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر چوٹ کرتے ہوئے کہے کہ میرا باپ نامی گرامی چور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معمولی چور تھا بلکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صفات مبالغہ کے صیغے کے ساتھ ہی استعمال فرمائی ہیں:

﴿وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ (الہمزہ: ۱/۱۰۴)

”ویل ہے ہر بہت زیادہ طعنہ دینے والے بہت زیادہ عیب لگانے والے کے لئے۔“

(سورت کے آخر تک)

سورة القلم میں کفار کی بدخصلتوں میں سے یہ بھی شمار فرمائی ﴿هَمَزَاتٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾

(القلم: ۱۱) بہت طعنے دینے والا۔ بہت زیادہ چغل خور۔

③ وہ لوگ جن پر لعنت جائز ہے: جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے ان پر لعنت جائز ہے۔ مثلاً:

﴿ فَلَمَنَّا اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴾ (البقرة: ۲/۸۹)

”پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر“

اور فرمایا:

﴿ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴾ (ہود: ۱۱/۱۸)

”خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَعَنَ اللهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا» (صحیح ابی داؤد/ الأشربة/ ۲)

”اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے اور پلانے والے پر۔“

اور فرمایا:

«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ

فَتَقْطَعُ يَدُهُ» (بخاری حدود: ۷، ۱۳)

”اللہ تعالیٰ لعنت کرے چور پر انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور رسی

چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے (جب انڈے یا رسیاں دینار کے چوتھے حصے

کی قیمت کو پہنچ جائیں۔)“

④ کسی متعین شخص پر لعنت جائز نہیں: اس موقع پر ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ کفر

پر فوت ہونے والے کافر تو بلاشبہ اللہ، اس کے رسولوں، فرشتوں وغیرہم کی زبان پر ملعون

ہیں، مگر کسی زندہ شخص کے معاملے میں اگر لعنت کا لفظ آئے تو صرف اس فعل پر ہو گا مثلاً

چور پر اللہ کی لعنت ہو، شرابی پر اللہ کی لعنت ہو، ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، کفار پر اللہ کی

لعنت ہو، مگر کسی شخص کو متعین کر کے کہنا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو یہ جائز نہیں کیونکہ

اگر وہ مسلمان ہے تو لعنت والا کام کرنے کے باوجود وہ ملت سے خارج نہیں۔ اور مسلم بھائی کے لئے بدوعا کی بجائے دعا کرنی چاہیے جب کہ لعنت بددعا ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں عبد اللہ نامی ایک آدمی تھا جسے لوگوں نے حمار (گدھے) کا لقب دے رکھا تھا اور وہ رسول اللہ ﷺ کو ہنسایا کرتا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے شراب کی وجہ سے کوڑے مارے تھے ایک دن اسے لایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے (اسے کوڑے مارنے کا) حکم دیا اور اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر اسے کس قدر زیادہ مرتبہ (شراب پینے کی وجہ سے) لایا جاتا ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا: اسے لعنت مت کرو کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ (بخاری: الحدود/باب: ۵)

دیکھئے آپ ﷺ نے شرابی پر لعنت کرنے کے باوجود عبد اللہ حمار رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے سے منع فرمادیا۔ کیونکہ وہ مسلمان تھا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا تھا۔ اگر لعنت کا کام کرنے والا شخص کافر ہے تب بھی اسے متعین کر کے اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمادے اور اسے توبہ کی توفیق دے دے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جب آپ فجر کی آخری رکعت کے رکوع سے اٹھے تو یہ کہہ رہے تھے:

«اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا»

”اے اللہ فلاں، فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔“

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

(آل عمران ۳/۱۲۸)

”نہیں ہے آپ کے اختیار میں اس معاملے سے کچھ، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں عذاب کرے پس بے شک وہ ظالم ہیں۔“ (دیکھئے بخاری حدیث

(۳۰۶۹-۳۰۷۰)

سالم بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے حق میں بددعا کیا کرتے تھے تو یہ آیت اتری:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَنْهُمْ ظَالِمُونَ﴾

(آل عمران ۱۲۸/۳)

یہ لوگ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو ستانے میں بہت بڑھ گئے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام لے کر لعنت اور بددعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اپنے اختیار سے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخش دی یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔

فوت شدہ لوگوں کو گالی مت دو

۱۴۱۸/۲۴ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ
أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو کیونکہ یقیناً وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے جو انہوں نے آگے بھیجی۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج: بخاری (۶۵۱۶) دیکھئے تحفة الاشراف (۲۹۳۶۲)

مفردات: لَا تَسُبُّوا سَبَّ يَسُبُّ (نصرینصر) سے نہی کا صیغہ ہے یہ دراصل سَبَّ سے مشتق ہے جس کا معنی (است) دبر ہوتا ہے۔ سَبَّ أَيْ طَعَنَهُ فِي اسْتِهْ لِعِنِي اس نے اسے دبر میں پکڑ کا لگایا۔ اسی طرح یہ قبیح گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی مخفی اعضاء کا تذکرہ صاف لفظوں میں یا کنائے کے ساتھ کر کے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔

فوائد: ① مُردوں کو گالی دینا کیوں منع ہے؟: رسول اللہ ﷺ نے فوت شدہ لوگوں کو گالی دینے سے منع فرمایا خواہ مسلمان ہوں یا کافر اور اس کی دو وجہیں بیان فرمائیں۔ ایک تو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے پاس پہنچ چکے اب انہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ انہیں گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا مالک خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔

دوسری وجہ ترمذی میں مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”مردوں کو گالی مت دو کیونکہ ایسا کرنے سے تم زندوں کو ایذا دے دو گے۔“ (ترمذی: ۱۹۸۲) البانی نے اسے صحیح کہا ہے، دیکھئے السلسلۃ الصحیحۃ (۲۳۹۷) کیونکہ کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے عزیزوں کو گالی دی جائے خواہ وہ کافر ہی ہوں۔

② قرآن و حدیث میں کفار کی برائیاں کیوں بیان کی گئی ہیں: مُردوں کو گالی دینے کی حرمت کے باوجود قرآن و حدیث میں بہت سے فوت شدہ کفار کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے ”اسے مُردوں کو گالی مت دو“ کے منافی سمجھ کر اس کی توجیہ کی ہے کہ یہ اس حکم سے مستثنیٰ صورت ہے جیسا کہ غیبت کی بعض صورتیں حرمت سے مستثنیٰ ہیں۔

مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کافر کی غیبت سے منع کیا ہی نہیں گیا نہ ہی اس کی برائی بیان کرنا منع ہے بلکہ اگر مقصد کسی کو کسی شخص کے شر سے بچانا ہو یا شہادت ادا کرنا ہو تو مسلمان کی برائی بھی بیان کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ سب و شتم ہے۔ گندی گالی دینا۔ مُردوں کو گالی دینا حرام ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، کیونکہ انہیں گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص زندہ ہے اور وہ گالی دینے میں پہل کرتا ہے تو اسے جواب میں اتنی ہی گالی دینا جائز ہے گو صبر افضل ہے۔ اسی طرح زندہ کافر کو ذلیل کرنے کے لئے گالی دینا ضرورت کے وقت جائز ہے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا:

«أَمْصَصْ بَطْرَ اللَّاتِ أَنْحَنْ نَفْرًا عَنْهُ؟» (بخاری/ الشروط ۱۵)

”جاؤلات کی شرمگاہ کو چوسو کیا ہم رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟“

اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اُحد کے دن سباع کو کہا تھا:

«يَا بَنِي أُمَّ أَنْمَارٍ مُقَطَّعَةَ الْبَطُّورِ» (بخاری/المغازي ۲۵)
 ”اے عورتوں کی شرمگاہوں کا خنڈہ کرنے والی ام انمار کے بیٹے۔“

سخن چیں جنت میں نہیں جائے گا

۱۴۱۹/۲۵۔ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سخن چیں

(عیب جو لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا) جنت میں نہیں جائے گا۔“

تخصیج: بخاری (۲۰۵۶) مسلم (الایمان ۱۶۹/۱۷۰) دیکھیے تحفۃ الاشراف (۵۳/۳)

مفردات: قَتَاتٌ بعض علمائے نے فرمایا کہ قات اور نام ایک ہی ہیں۔ یعنی چغل خور۔

چنانچہ یہ حدیث ان الفاظ میں بھی آئی ہے «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ» (مسلم: الایمان ۱۲۸)

”چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔“

بعض نے ان کا فرق بیان کیا ہے کہ نام (چغل خور) وہ ہے جو کسی موقع میں موجود

ہوتا ہے اور اس میں ہونے والی باتیں کسی دوسرے تک آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے

پہنچاتا ہے کیونکہ نَمَامٌ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ کا معنی ہے کسی شخص تک بات پہنچانا اسے پھیلانے کے

لئے اور ان کے درمیان فساد ڈالنے کے لئے۔ (قاموس)

اور قَتَاتٌ وہ جو لوگوں کی عیب کی باتیں چھپ کر سنتا ہے یا ادھر ادھر سے سن کر جمع

کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بہر حال چغلی اور سخن چینی (عیب جوئی) دونوں ہی

نہایت قبیح افعال ہیں۔

فوائد: ① چغلی کی مذمت: مسلم کی حدیث میں نام (چغل خور) کے متعلق فرمایا کہ

وہ جنت میں نہیں جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ چغلی حرام ہے۔ قرآن مجید میں کفار کی

صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی: ﴿ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنَمِيمٍ ﴾ (القلم: ۱۱) ”بست طعنے دینے والا، بست زیادہ چغلی چلانے والا۔“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے (مشکل) کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا « فَكَانَ يَمْسِيهِ بِاللَّمِيمَةِ » ”چغلی چلاتا تھا“ (بخاری: ۲۱۸) حقیقت یہ ہے کہ چغلی سے باہمی محبت والفت کی جڑکٹ جاتی ہے اور چغل خور معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لئے اس سے بست ہی پرہیز کرنا چاہیے اور اگر کوئی چغلی لے کر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے وہ جس طرح دوسروں کی بات تمہارے پاس لے کر آ رہا ہے تمہاری باتیں دوسروں تک اسی طرح پہنچائے گا۔

خن چیننی اور عیب جوئی کی مذمت: قات اگر تمام (چغل خور) کے معنی میں ہی ہو تو اس کی مذمت اوپر گزر چکی لیکن اگر اس سے مراد لوگوں کی باتیں سننا انہیں جمع کرنا اور آگے پہنچانا ہو تو اس میں چغل خوری کے علاوہ ایک زائد چیز کی مذمت بھی کی گئی ہے یعنی لوگوں کی جاسوسی کرنا ان کے عیب تلاش کرنا اور دوسروں کو پہنچانا۔ یہ بھی حرام ہے اور اس گناہ کا مرتکب بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

صحیح بخاری میں ہمام سے روایت ہے کہ ہم حدیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص (لوگوں کی) باتیں عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچاتا ہے تو حدیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ» ”لوگوں کی باتیں تلاش کر کے آگے پہنچانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“

غصے پر قابو پانے کی فضیلت

۱۴۲۰/۲۶۔ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ» (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔“ (اسے طبرانی نے ”الاعظم“ میں روایت کیا) اور ابن ابی الدنیا کے ہاں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اس کا ایک شاہد بھی ہے۔

تخریج: طبرانی کی ”المعجم الاوسط“ کی فرست میں یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔ البتہ اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ مَتَرًا اللَّهُ عَوَزَتْهُ» جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ (المعجم الاوسط للطبرانی حدیث ۶۰۲۳۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ (۹۰۶) میں معجم کبیر کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا (یاد رہے اوسط اور کبیر دونوں کی سند ایک ہی ہے) یہ بہت ہی ضعیف سند ہے پھر اسکے ضعف کی تفصیل کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث اس سے بہتر سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔ چنانچہ ابن ابی الدنیا نے ”تفصیح الحوائج“ ص: ۸۰ رقم ۳۶ میں اور ابواسحاق مزکی نے ”الفوائد المستنجدہ“ (۱/۱۳۷/۴) میں (اس کا کچھ حصہ) اور ابن عساکر (۱/۱۱/۳۳۳) نے کئی سندوں کے ساتھ بکر بن خنیس سے انہوں نے عبد اللہ بن دینار سے انہوں نے نبی ﷺ کے بعض صحابہ سے (ابن ابی الدنیا میں اسی طرح ہے) اور باقی دونوں کتابوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت

بیان کی ہے۔

میں (البانی) کہتا ہوں اور یہ اسناد حسن ہے کیونکہ بکر بن خنیس صدوق ہے جس کی کچھ غلطیاں (بھی) ہیں جیسا کہ حافظ نے فرمایا اور عبد اللہ بن دینار ثقہ ہیں بخاری مسلم کے روای ہیں چنانچہ حدیث ثابت ہو گئی۔ والحمد للہ۔ دیکھئے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث (۹۰۶) یہ پوری حدیث چونکہ بہت سے آداب کی جامع ہے اس لئے یہاں نقل کی جاتی ہے:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُذْخِلُهُ الرَّجُلُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا وَلَا أَنْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ) شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ أَنْتَبَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَرِلُّ الْأَقْدَامُ»

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب شخص کون ہے اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آدمی کسی مسلم کو پہنچائے یا اس سے کوئی تکلیف دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس سے بھوک کو دور کرے اور کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لئے جانا مجھے اس مسجد (مسجد نبوی) میں مہینہ بھر اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے اور جو

شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور جو شخص اپنے غصے کو ایسی حالت میں پی جائے کہ اگر وہ غصہ پورا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کے سلسلے میں چلے یہاں تک کہ وہ اس کے لئے مہیا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس دن قدم پھسل جائیں گے۔“
(انتہی)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں اس مقام پر انس رضی اللہ عنہ سے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں: ((مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ)) کنز العمال (۷۱۶۳) میں اس کا حوالہ یہ لکھا ہے (ابن ابی الدنیا فی ذم الغضب، ابو یعلیٰ فی مسندہ و ابن شاپین والخرائطی فی مساوی الاخلاق و سعید بن منصور فی سننہ عن انس رضی اللہ عنہ اور اس کا شاہد یہ لکھا ہے: ((مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَهُ - ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ عَمْرِو)) کنز العمال (۷۱۶۵) غصے کے متعلق اس سے پہلے تفصیل گفتگو ہو چکی ہے دیکھئے اس کتاب کی حدیث (۱۳۹۶) اور (۱۳۰۶)

دھوکے باز، بخیل اور مالک ہونے کے لحاظ سے برا شخص
جنت میں نہیں جائے گا

۱۴۲۱/۲۷ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّءُ الْمَلَكَةِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ)

”ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں

دھوکے باز داخل نہیں ہوگا نہ بخیل اور نہ ہی وہ جو مالک ہونے میں برا ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے دو علیحدہ علیحدہ حدیثوں میں بیان کیا ہے اور اس کی اسناد میں ضعف ہے۔)

فخر بیج: [ضعیف] (ترمذی ۱۹۲۳) میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا مَثَانٌ وَلَا بَخِيلٌ» جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا نہ احسان جملانے والا اور نہ ہی بخیل۔ دیکھئے ضعیف ترمذی للالبانی (۳۳۰) اور ترمذی (۱۹۲۶) میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيْئِي الْمَلِكَةِ» مالک ہونے میں برا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ (دیکھئے ضعیف ترمذی (۳۳۶) اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۰۴/۵) یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی دونوں روایتوں میں ایک راوی فرقد السبحی ہے جس کے متعلق حافظ نے فرمایا: «صَدُوْقٌ عَابِدٌ لِكِنَّةٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ كَمَثَرِ الْخَطِّطِ» (تقریب) البتہ ان اعمال کی برائی میں دوسری کئی احادیث موجود ہیں۔

مفردات: حَبٌّ خاء کے فتح کے ساتھ دھوکے باز سَيْئِي الْمَلِكَةِ - الْمَلِكَةُ - مَلِكٌ يَمْلِكُ کا مصدر ہے۔ وہ شخص جو مالک ہونے میں برا ہے یعنی جو غلام یا جانور اس کی ملکیت میں ہیں ان سے برا سلوک کرتا ہے ان کی استطاعت سے زیادہ کام لیتا ہے انہیں بے جا مارتا پھیلتا ہے اور ان کے آرام خوراک اور علاج کا خیال نہیں کرتا۔

ان لوگوں کی بات پر کان لگانے کی سزا جو اسے پسند نہیں کرتے

۱۴۲۲/۲۸ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

يَعْنِي الرَّصَاصَ «أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ»

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی باتوں پر کان لگائے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ (سکہ) ڈالا جائے گا۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا ہے)

تخریج: بخاری (۷۴۳) کتاب التعلییر باب من کذب فی حلمہ۔ بلوغ المرام کے نسخوں میں ”من تسمع“ کے لفظ ہیں جب کہ بخاری میں استمع کے لفظ ہیں۔ معنی تقریباً ایک ہی ہے۔

فوائد: کسی کی باہمی بات چیت پر کان لگانا ان کے ناپسند کرنے کی صورت میں حرام ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں اگر وہ کسی شخص کا سننا پسند نہیں کرتے تو اسے ان کی بات پر کان لگانا حرام ہے کیونکہ صرف مکروہ کام پر اتنی سخت سزا نہیں ہو سکتی کہ کانوں میں سکہ ڈالا جائے۔

اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ اس کا سننا پسند نہیں کرتے تو یہ قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو دو یا زیادہ آدمی کہیں علیحدہ ہو کر بیٹھے ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ بعض اوقات وہ اپنی ناگواری کا صاف اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اب قرآن سے یا صاف لفظوں میں ان کی ناگواری معلوم ہو جانے کے بعد کوئی شخص چھپ کر یا کسی طریقے سے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے کانوں میں سکہ ڈالا جائے گا۔ کیونکہ یہ گناہ کان کے ذریعے سرزد ہوا ہے۔

سعید مقبری فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا تو ان کے پاس ایک آدمی کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو ابن عمر نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا جب تم دیکھو کہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو اجازت لینے کے بغیر ان کے پاس کھڑے مت ہو۔ (مسند احمد و سندھ صحیح حدیث نمبر ۵۹۳۹ تحقیق احمد شاکر)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو کرنے والے لوگ اگر اس کے اجازت طلب کرنے پر اسے اجازت دے بھی دیں، مگر اس کو سمجھ آرہی ہو کہ انہوں نے یہ اجازت حیا کی وجہ سے یا بادل ناخواستہ دی ہے اور دل سے وہ اس کا سننا پسند نہیں کرتے تو اسے ان کی بات پر کان لگانا پھر بھی جائز نہیں۔

بعض لوگ ذرا دور بیٹھ کر ایک آدھ لفظ سن کر باقی خود بخود سمجھ جاتے ہیں اس طرح کرنے والے بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر جھانکنا، سو گھننا، ٹوہ لگانا بھی حرام ہے۔ بچوں سے گھر کی ایسی باتیں پوچھتے رہنا بھی حرام ہے جو اس گھر والے پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر کسی بچتہ ذریعے سے معلوم ہو کہ یہ لوگ کسی گناہ یا ظلم کے منصوبے بنا رہے ہیں تو نہی عن المنکر کے لئے بات سننا جائز ہے۔

دوسروں کی بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے

۱۴۲۳/۲۹ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْنُهُ عَنْ عِيُوبِ النَّاسِ» (أَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طوبیٰ ہے اس شخص کے لئے جسے اس کا اپنا عیب لوگوں کے عیب سے روک دے۔“
(اسے بزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

تخریج: مناوی نے فرمایا اسے عسکری نے انس رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے اور بزار نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے عراقی نے فرمایا اور یہ سب اسناد ضعیف ہیں۔ (توضیح الاحکام)

مفردات: طوبی - طیب سے مصدر ہے بروزن فعلی اصل میں طیبی تھا یا کا ماقبل

مضموم ہوا تو اسے واو سے بدل دیا۔ معنی بھلائی، پاکیزگی، اچھی زندگی اس کے علاوہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا»

(حدیث حسن مسند احمد وابن حبان - صحیح الجامع الصغیر ۳۹۱۸)

”طوبی جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ سو سال ہے اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔“

فوائد: دنیا اور آخرت میں بہترین اور خوشگوار زندگی کا اور جنت کے درخت طوبی کا حقدار وہ شخص ہے جو اپنے عیب دیکھنے، انہیں دور کرنے یا چھپانے میں اس قدر منہمک ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ لگانے کی اسے فرصت ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے عیبوں کو دیکھتے ہوئے نبی عن المنکر کا فریضہ ہی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ برائی سے منع کرنا تو فرض ہے مقصد یہ کہ وہ اپنی اصلاح میں اس قدر مشغول اور اپنے گناہوں سے اس قدر مجرب اور شرمندہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی نہ جستجو کرتا ہے نہ کسی کا عیب مجلسوں میں بیان کرتا ہے۔

بڑائی اور عظمت صرف اللہ کی صفت ہے

۱۴۲۴/۳۰ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ
فِي مَشِيئِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ» (أَخْرَجَهُ
الْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص

اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غصے سے بھرا ہوا ہو گا۔“ (اسے حاکم نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔)

تخریج: [صحیح] (حاکم (۶۰/۱) اور دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۵۲۳))

مفردات: تَعَاظَمَ باب تفاعل سے ہے۔ جو بمعنی فَعَلَ ہے جیسے تَوَانَيْتُ بمعنی وَنَيْتُ (میں تھک کر رہ گیا) آتا ہے باب تفاعل مبالغہ کے لئے ہے یعنی جو شخص اپنے آپ میں بہت بڑا بنے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تعظیم کا مستحق سمجھے یا تفاعل باب تفاعل کے معنی میں ہے تَعَاظَمَ بمعنی تَعَطَّمَ یعنی اپنی بڑائی کا عقیدہ رکھے جیسے تَكَبَّرَ اِخْتَالَ خِيَلًا سے باب افعال ہے تکبر۔ گھوڑوں کو خیل اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کی چال میں تکبر پایا جاتا ہے۔ متکبر کو مختال اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خیال میں دوسرے سے اونچا ہوتا ہے۔

غَضَبَانُ: مبالغے کا صیغہ ہے جس طرح رحمان ہے اس لئے اس کا ترجمہ غصے سے بھرا ہوا کیا ہے۔

فوائد: بڑائی اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مخلوق کا یہ حق ہی نہیں کیونکہ وہ تو اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں ان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں پھر بڑائی کیسی؟ اس لئے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النساء، ۳۶)

”اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں رکھتا جو اکڑنے والا فخر کرنے والا ہو۔“

اب جو شخص عجز اختیار کرے وہ اللہ کے رحم کا مستحق ہے جو تکبر کرے وہ اللہ کے شدید غضب کا نشانہ بنے گا اور اسے اس کی بڑائی کی خواہش کے برعکس انتہائی حقارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرَّجَالِ»

(صحیح الترمذی - ۲۰۲۵)

”تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔“

تکبر کی قسمیں: تکبر ایک تو دل میں ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا جاننا لوگوں کو حقیر خیال کرنا اور حق کا انکار کر دینا اور ایک ظاہر کا تکبر ہے۔ مثلاً منہ پھلا کر رکھنا، کسی کو پوری نظر سے دیکھنے کی بجائے گوشہ چشم سے دیکھنا، چال میں تکبر اختیار کرنا لباس میں تکبر یعنی اسے نئے سے نیچے لگانا یہ سب چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ فرمایا:

﴿وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ (لقمان ۱۸/۳۱)

”اور اپنا گال لوگوں کے لئے نہ پھلا اور نہ زمین میں تکبر سے چل۔“

جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے

۱۴۲۵/۳۱ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ)

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حسن ہے۔)

تخریج: [ضعیف] (ترمذی (۲۰۱۳) شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے دیکھئے ضعیف الترمذی (۲۰۹۸) بلوغ المرام میں ترمذی سے اس کا حسن ہونا نقل فرمایا ہے۔ میرے پاس ترمذی کے تمام نسخوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور بعض اہل الحدیث نے (اس کے راوی) عبدالمصعب بن عباس بن سہل کے بارے میں کلام کیا ہے اور اسے

حافظ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے: «الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» ٹھہر کر کام کرنا اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔

فوائد: ① آہستہ روی اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کی فضیلت: یہ حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے، مگر آہستہ روی اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کی فضیلت میں دوسری صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبدالقیس کے اٹھ (سرदार) سے فرمایا:

«إِنَّ فَيْنَكَ خَصَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ» (مسلم الإیمان ۶)
 ”یقیناً تم میں دو خصلتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ بردباری اور ٹھہر کر
 سوچ سمجھ کر کام کرنا۔“

عبداللہ بن سرجس المزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَدُّةُ وَالْإِفْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
 جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ - هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (ترمذی ۲۰۱۰)
 ”اچھی وضع قطع اور ٹھہر کر کام کرنا اور میانہ روی نبوت کے چوبیس حصوں میں سے
 ایک حصہ ہے۔“

② جلدی سے پرہیز میں اور آہستہ روی اختیار کرنے میں کیا حکمت ہے: انسان کو زندگی میں جو اہم معاملات پیش آتے ہیں انہیں سلجھانے اور درست طریقے سے چلانے کے لئے تین چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و فراست کے ساتھ خود ان میں غور کرنا ان کے فائدے اور نقصان کا موازنہ کرنا ان کے نتائج پر غور کرنا غرض اپنی پوری کوشش کے ساتھ صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے۔ دوسری چیز مشورہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران ۱۵۹)
 ”ان کے ساتھ معاملے میں مشورہ کر۔“

اور فرمایا:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشوریٰ ۳۸/۴۲)

”ان کے کام آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔“

اکیلے آدمی کی سوچ اتنی جامع نہیں ہو سکتی جتنی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جامع بنتی ہے انسان کو مشورے سے اس کام میں پوری بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔

تیسری چیز استخارہ ہے یعنی اپنے پورے غور و فکر اور مشورے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ پکا ہو جائے تو اسے اللہ کے سپرد کرنے کے لئے استخارہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کو استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورۃ سکھاتے تھے آپ نے ہر کام کے ارادے کے وقت دو رکعت پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ (بخاری: ۱۱۶۳) درحقیقت استخارہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے اور یہی مراد ہے اللہ کے اس فرمان میں:

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾﴾ (آل عمران ۱۵۹)

”پس تو ان سے درگزر کر اور ان کے لئے بخشش مانگ اور کام میں ان سے مشورہ کر پس جب تو عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اب جو شخص ہر اہم کام میں ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھے گا اس سے غلطی بہت کم صادر ہوگی اور شیطان کو واؤ لگانے کا موقعہ نہیں مل سکے گا۔ اسے ساتھیوں کا تعاون اور اللہ کی مدد ہمیشہ حاصل رہے گی اور کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔

اور اگر جلدی کرے گا تو شیطان کو موقعہ مل جائے گا۔ جتنی جلد بازی زیادہ ہوگی اتنا ہی شیطان کا دخل زیادہ ہوگا اگر استخارہ، مشورہ اور غور و فکر تینوں ہی نہ ہوئے تو شیطان کو پورا موقعہ ملے گا اور اگر کوئی ایک چیز رہ گئی تو اس کے مطابق اسے دخل اندازی کا موقعہ ملے گا۔

⑤ اللہ اور اسکے رسول ﷺ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے: واضح رہے کہ وہ کام جن کے کرنے کا واضح حکم موجود ہے ان میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان میں دیر کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ اگر ایسے کاموں میں دیر کرے گا تو خطرہ ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق نہ چھین لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

(الأنفال/ ۸/ ۲۴)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے (یعنی جہاد۔ اشرف الموحثی) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور یہ کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی تاکید بہت سی آیات و احادیث میں آئی ہے۔ مثلاً فرمایا:

﴿فَاسْتَيْقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (المائدة/ ۵/ ۴۸)

”نیکیوں کی طرف آگے بڑھو“

اور فرمایا:

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ﴾ (آل عمران/ ۳/ ۱۳۳)

”اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں کے اور زمین کے برابر ہے۔“

ان کاموں میں نہ غورو فکر کی ضرورت ہے نہ مشورے کی نہ ہی استخارے کی۔

درکار: خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست

اصل نحوست بد خلقی ہے

۱۴۲۶/۳۲۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ»
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اصل نحوست بد خلقی ہے۔“ (اسے احمد نے روایت کیا اور اس کی سند میں کمزوری ہے)

تخریج: [ضعیف] (مسند احمد ۶/۸۵) مفصل تخریج اور تصنیف کے لئے دیکھئے
سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (۷۹۳)

مفردات: الشُّؤْمُ بے برکتی نحوست یہ الیمن کی ضد ہے جس کا معنی بابرکت ہونا ہے۔
فوائد: اصل نحوست بد خلقی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے کسی بھی چیز میں شوم (نحوست) کی نفی فرمائی بعض احادیث میں ہے کہ اگر کسی چیز میں (شوم) نحوست ہو تو عورت، گھوڑے اور مکان میں ہے۔
(بخاری-الجماد ۱/۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز ذاتی طور پر منحوس نہیں صرف برے اوصاف کی وجہ سے اس میں نحوست ہوتی ہے۔ مثلاً عورت بد زبان ہو، گھوڑا اڑیل ہو یا مکان تنگ اور غیر صحت مند ہو۔ زیر بحث حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ اصل نحوست برا خلق ہے۔ بد زبانی، بخل، حسد، بے رحمی وغیرہ ایسے اوصاف ہیں کہ جس شخص میں یہ پائے جائیں وہ سعادت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ بلکہ ان اخلاق سینہ کی وجہ سے اس کا وجود اپنے لئے اور دوسروں کے لئے بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے اخلاق درست کرے تو یہ نحوست ختم بھی ہو سکتی ہے۔

بہت لعنت کرنے والے شفاعت اور شہادت سے محروم رہیں گے

۱۴۲۷/۳۳۔ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ
شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
شک بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے
ہوں گے نہ شہادت دینے والے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (البر والصلة/۸۶) وغیرہ۔

فوائد: بہت لعنت کرنے والوں کی شفاعت اور شہادت کیوں قبول نہیں ہوگی۔ بہت
لعنت کرنا مومن کا وصف ہی نہیں اس پر مفصل کلام حدیث (۱۳۱۷) میں گزر چکا ہے اور
دنیا میں بھی شہادت کے لئے شاہد کا پسندیدہ اور عدل ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق/۶۵/۲)

”اور اپنے آپ میں دو عدل والوں کو گواہ بناؤ“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة/۲۸۲)

”ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔“

ظاہر ہے کہ بہت لعنت کرنے والا شخص جس کی عادت ہی لعن طعن کی ہو نہ پسندیدہ
ہوتا ہے نہ سچا نہ صاحب عدل، بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں نہایت ناپسندیدہ، فاسق، ظالم اور
غلط بیانی کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ لعنت کے مستحق نہیں ان پر لعنت کرتا ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کی شہادت صرف دنیا میں رد نہیں کی جائے گی۔

بلکہ آخرت میں بھی نہ شہادت دینے کی جرأت کر سکیں گے نہ انہیں وہ عزت و وجاہت حاصل ہوگی کہ کسی کی سفارش کر سکیں جبکہ اللہ کے صاوق و عادل اہل ایمان بندے سفارش بھی کریں گے اور حق کی دوسری شہادتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی شہادت بھی دیں گے کہ انبیاء کرام نے تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔

بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر بھی فرمائی ہے کہ بہت لعنت کرنا ایسا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب شہادت یعنی قتل فی سبیل اللہ کی سعادت سے محروم رہے گا۔

گناہ کا عار دلانا

۱۴۲۸/۳۴ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ»
(أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ)

”معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ کا عار دلائے وہ فوت نہیں ہو گا یہاں تک کہ وہ گناہ کر لے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا اور اس کی سند منقطع ہے)

تخریج: [موضوع] (ترمذی (۲۵۰۵) شیخ البانی نے اس حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے اور کئی محدثین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اسے موضوع کہا ہے اس لئے ترمذی کے حسن کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ (دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (۱۷۸) اس میں ایک راوی محمد بن حسن بن ابی یزید ہمدانی ہے جسے ابوداؤد اور ابن معین نے کذاب قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ترمذی نے اس کو اس کے شواہد کی وجہ سے حسن کہا

ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی شاہد بھی نہیں جس میں یہ ہو کہ گناہ کا عار دلانے والا مرنے سے پہلے پہلے وہ گناہ ضرور کرے گا۔

فوائد: موضوع حدیث بیان کرنے سے اجتناب لازم ہے: اس میں شبہ نہیں کہ کسی مسلمان کو اس کے گناہ کے ساتھ عار دلانا منع ہے خصوصاً جب وہ تائب ہو چکا ہو، مگر یہ بات کہ جو شخص عار دلانے کا وہ مرنے سے پہلے اس گناہ کا ارتکاب ضرور ہی کرے گا۔ سند کے لحاظ سے بالکل ہی پایہ اعتبار سے گری ہوئی ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ذمے گھڑ کر لگائی گئی ہے اور واقع کے بھی خلاف ہے اس لئے ایسی روایات بیان نہیں کرنی چاہئیں ہاں ان کی حقیقت واضح کرنے کے لئے بیان کر دے تو الگ بات ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی کہ اس کی سند منقطع ہے۔

لوگوں کو ہنسائے کیلئے جھوٹ بولنا بھی ہلاکت کا باعث ہے۔

۱۴۲۹/۳۵ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلُّ لَهُ، ثُمَّ وَيَلُّ لَهُ» (أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ)

”بہز بن حکیم اپنے باپ سے وہ اس (بہز) کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ویل ہے اس شخص کے لئے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے ویل ہے اس کے لئے پھر ویل ہے اس کے لئے۔“ (اسے تینوں نے روایت کیا اور اس کی اسناد قوی ہے)

تخریج: [صحیح] (ابوداؤد (۳۹۹۰) ترمذی (۲۳۱۵) السنن الکبریٰ للنسائی التفسیر ۱/۳۱۰۔

ترمذی اور البانی نے اسے صحیح کہا دیکھئے صحیح الترمذی ۱۸۸۵۔ غایۃ ۳۷۶۔ مشکوٰۃ ۳۸۳۸ (۳۸۳۸) فوائد: ① ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنا بھی باعث ہلاکت ہے: جھوٹ بولنے سے ممانعت کے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں دیکھئے اسی کتاب کی حدیث (۱۳۰۰) اور (۱۳۳۲) کی تشریح زیر بحث حدیث میں جھوٹ کی ایک خاص صورت کو حرام قرار دیا گیا ہے جسے معمولی سمجھا جاتا ہے یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنا۔ فرمایا ایسا کرنے والے کے لئے بار بار ہلاکت ہے۔

② ہنسانے کے لئے جھوٹ سننا بھی منع ہے: جب لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹی باتیں کرنا باعث ہلاکت ہے تو اس گناہ پر خاموش رہنا بلکہ سن کر لطف اٹھانا بھی اس گناہ میں شریک ہونا ہے اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب کسی شخص سے اس قسم کی بات سنے تو اسے منع کر دے اگر وہ باز نہ آئے اور یہ اسے بزور بازو بھی نہ روک سکتا ہو تو اس کی مجلس سے اٹھ جائے۔

﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾ (الانعام ۶۸/۶۷)

”یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں“

③ وہ صورتیں جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے: ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور اچھی بات کہے اور اچھی بات پہنچائے۔ (مسلم البر والصلة / باب ۲۷)

اور فرماتی ہیں کہ لوگ جو کچھ (جھوٹ) کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنا کہ اس میں سے کسی چیز کی رخصت دیتے ہوں سوائے تین چیزوں کے۔ لڑائی میں لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں اور خاوند کی پیوی کے ساتھ بات چیت اور پیوی کی خاوند کے ساتھ بات چیت میں۔ (مسلم البر والصلة / باب ۲۷)

④ چغلی اور اصلاح کا موازنہ: اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی باہمی محبت اور دلی الفت کس

قدر عزیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس سچ کو حرام فرما دیا جو چغلی کی صورت میں ہو اور باہمی بگاڑ کا باعث بنے اور اس جھوٹ کی اجازت دے دی جس سے لوگوں کے درمیان صلح ہوتی ہو یا میاں بیوی کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہوں۔

⑤ لڑائی میں جھوٹ بولنا کیوں جائز ہے؟: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا کسی جان کے بغیر یا زمین میں کسی فساد کے بغیر تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے اسے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ (المائدہ: ۳۲)

اب جنگ میں اگر دشمن کو اپنی تمام باتیں صحیح صحیح بتا دی جائیں تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہو گا اور اس سچ کا نقصان ناقابل تلافی ہو گا۔ اسی طرح دشمن پر جنگی چالیں استعمال نہ کی جائیں تو اس کا نتیجہ بھی اہل اسلام کی شکست ہو سکتا ہے۔

اہل علم اس حدیث کو مد نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم کسی شخص کی جان یا مال کے درپے ہو اور ہمیں علم ہو کہ وہ کہاں ہے یا اس کا مال کہاں ہے اور سچ بولنے سے اس کے قتل کا یا مال کے لٹنے کا خطرہ ہو تو اس موقع پر جھوٹ بول کر اس کی جان اور مال بچانا فرض ہے۔

اس قسم کے تمام موقعوں پر اگر ممکن ہو کہ انسان صاف جھوٹ سے بچے اور زو معنی بات کہہ کر کام نکال لے کہ سننے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھتا رہے اور کہنے والے کی مراد کچھ اور ہو تو یہ سب سے بہتر ہے رسول اللہ ﷺ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور دوسرے انبیاء اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں پر بظاہر خلاف واقعہ جو بات کی ان کی نیت میں ان کا وہ مطلب تھا جو بالکل درست تھا۔

اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت کے سفر میں کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے تو فرمایا ((هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ)) ”یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے“ (بخاری، مناقب

اس قسم کے الفاظ کو معاریض کہتے ہیں اور ان کے ذریعے آدمی صریح جھوٹ سے بچ جاتا ہے: **إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْذُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ** ”معارِض میں جھوٹ سے بچنے کی بہت گنجائش ہے۔“ لیکن اگر صاف جھوٹ کے بغیر حالت جنگ میں گزارا نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔

غیبت کا کفارہ

۱۴۳۰/۳۶۔ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةٌ مَنْ اغْتَابَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ»
(رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

”انس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کی تم نے غیبت کی ہو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرو۔“ (اسے حارث بن ابی اسامہ نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

تخریج: [ضعیف] (اسے حارث بن ابی اسامہ نے زوائد المسند (۲۶۱) میں روایت کیا ہے۔ سند اس طرح ہے: **عَنْ عُنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدِ الْيَمَامِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا عَنْ عُنْبَسَةَ** کے متعلق بخاری نے فرمایا: **ذَاهَبَ الْحَدِيثُ أَبُو حَاتِمٍ** نے فرمایا، حدیث گھڑا تھا۔ ابن حبان نے فرمایا کئی موضوع چیزیں بیان کرنے والا ہے اس کے ساتھ حجت پکڑنا جائز نہیں اور خالد بن یزید غیر معروف ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری تمام سندیں بھی ضعیف ہیں پوری تفصیل کے لئے دیکھئے سلسلہ الاحادیث الضعیفة للالبانی (۱۵۱۹)

فوائد: کیا استغفار غیبت کا کفارہ ہو سکتا ہے؟: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر

آدی کسی کی غیبت کر بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لئے استغفار کرے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بعض اوقات معافی مانگنے سے اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے برعکس صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيُحْلَلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (صحیح البخاری/المظالم ۱۰)

”جس شخص سے اپنے بھائی پر کوئی ظلم ہوا ہو اس کی عزت کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق تو وہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کروالے جب اس کے پاس نہ دینار ہو گا نہ درہم اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو تو اس میں سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کی برائیاں لے کر اس پر لا دی جائیں گی۔“

غیبت بھی اپنے بھائی پر ظلم ہے اس لئے اگر ہو سکے تو اس سے معافی ضرور مانگ لے اگر یہ اس کی استطاعت میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اپنے عمل پر نادم ہو اور جن لوگوں کے پاس اس بھائی کی غیبت کی تھی انہی کے پاس اپنی مجلسوں میں اس کی تعریف کرے تاکہ اس کے جس حق میں کوتاہی ہوئی تھی اس کی کچھ تلافی ہو جائے اور اس کے لئے استغفار کرے کیونکہ استغفار سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہٹ دھرم جھگڑالو شخص ہے

۱۴۳۱/۳۷- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبْغَضُ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَكْذُ

الْخَصِمُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو ہٹ دھرم سخت جھگڑالو ہو۔“
(اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: بخاری (۷۱۸۸) مسلم (۱/۵) وغیرہما دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۱/۳۵۶) اس حدیث کی تشریح کے لئے دیکھئے اسی کتاب کی حدیث (۱۳۱۳)



بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

اتجھے اخلاق کی ترغیب کا بیان

سچ کی خوبی اور جھوٹ کی برائی

۱/۱۴۳۲۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالصُّدُقِ فَإِنَّ الصُّدُقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصُّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے اور آدمی سچ کتنا رہتا ہے اور سچ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے

اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف ہدایت کرتی ہے اور آدمی جھوٹ کھتا رہتا ہے اور جھوٹ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۰۹۳) مسلم (البر والصلۃ / ۱۰۵) یصحی والاجملہ بخاری میں نہیں۔ مفردات: الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ سچ اور جھوٹ۔ صدق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو اور کذب جو واقع کے خلاف ہو۔ یھدیٰ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا:

﴿وَإِنَّكَ لَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۱﴾﴾ (الشوریٰ ۵۲/۴۲)

”یقیناً آپ سیدھے راہ کی ہدایت دیتے ہیں۔“

اور ہدایت کا دوسرا معنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے اور اس آیت میں یہی مراد ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿۵۶﴾﴾ (الفصص ۲۸/۵۶)

”بلاشبہ آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“

سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے یعنی رہنمائی کرتا ہے اور پہنچا دیتا ہے اسی طرح جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور پہنچا دیتا ہے۔

فوائد: 1 سچ کس طرح نیکی کی طرف پہنچا دیتا ہے؟: (الف) جب انسان سچ بولنے کا عزم کر لے اور جھوٹ کو بالکل چھوڑ دے تو اس کے گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا اور اس سے پوچھا گیا تو اپنے آپ پر سچ لازم کرنے کی وجہ سے اسے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جس سے رسوائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی۔ لہذا یہ عزم کرنے کے بعد دل میں گناہ کی خواہش ابھرنے کے ساتھ ہی گناہ کے بعد ہونے والی رسوائی آنکھوں کے سامنے آکر آدمی کو گناہ سے روک دیتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ

بولنے والے کو جھوٹ بول کر اپنے گناہ چھپانے کے ارادے کی وجہ سے گناہ سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس لئے جھوٹ اسے مزید برائیوں کی طرف لئے جاتا ہے۔

(ب) جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے پیچھے رہنے کے عذر تراشے اور تین صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے صاف سچ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت فرمائی رسول اللہ ﷺ کو ان میں سے کسی کے مرنے پر اس کے جنازے سے اور اس کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع فرما دیا اور یہ لوگ جھوٹ کی وجہ سے نفاق اور کفر میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ ان کے برعکس اصحاب ثلاثہ کی نہایت سخت آزمائش کے بعد انہیں امتحان میں سرخرو فرمایا۔ ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا اور تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة ۱۱۹/۹)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔“

(ج) سچ ایک ایسی نیکی ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو عزت عطا کرتی ہے لوگوں میں اس کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام ﷺ میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ صدق و امانت کا خاص وصف انہیں نیکی میں آگے بڑھاتے بڑھاتے بلند ترین مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو فرمایا ان سے کہہ دو:

﴿فَتَكْدِبُ لَيْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

(یونس ۱۶/۱۰)

”میں اس (نبوت) سے پہلے ایک عورت میں رہا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟“

آدمی جب سچ بولتا ہے اور اس کی برکت سے حاصل ہونے والی عزت و تکریم کا مشاہدہ کرتا ہے تو سچ پر مزید قائم ہوتا چلا جاتا ہے اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کا نہ کوئی اعتبار ہوتا ہے نہ ہی اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ذلت کی پستی میں گرنے کے بعد اتنی ہمت ہی نہیں کرتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے پیش آنے والی آزمائش برداشت کر سکے نہ ہی اس نے سچ کی عزت کو دیکھا ہوتا ہے جو اسے سچ بولنے پر آمادہ

کرے نتیجتاً ہر جھوٹ کے بعد وہ مزید جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے جس طرح پہاڑ سے گرنے والا گرتا ہی چلا جاتا ہے۔

2] سچ کی عادت ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟: یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے اس کے لئے کوشش کرے اور اسے بار بار کرے تو آہستہ آہستہ وہ کام اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتا ہے اور خود بخود اس سے ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ» (بخاری - الرقاق ۲۰)

”جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا جو مستعنی بنے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دے گا۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق ایک تو آدمی ہر موقع پر سچ بولتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل موقع پر بھی جھوٹ سے بچے اور سچ ہی کہے تو اس کی عادت سچ کی ہو جاتی ہے خود بخود اس کے منہ سے سچ نکلتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہر موقع پر کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ تصنیف کر کے وقت گزار لے اس کی عادت ہی جھوٹ کی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دفتر میں بھی اسے کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔

گمان سے بچو

۲/۱۴۳۳- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

یہ حدیث بمع ترجمہ و تشریح اسی کتاب کی حدیث (۱۲۰۲) میں دیکھئے۔

راستے کے حقوق

۱۴۳۴/۳۔ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو صحابہ نے عرض کیا ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں کیونکہ ہم ان میں باہمی بات چیت کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جب تم نہیں مانتے تو راستے کو اس کا حق دو انہوں نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۲۲۹) مسلم (الباس ۳۲۷/۱) وغیرہا تحفۃ الاشراف (۱۲۵/۸)

مفردات: الطَّرِيقَاتِ - طُرُق کی جمع ہے جو کہ طریق کی جمع ہے۔ یعنی راستے۔

فوائد: ① صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حکم کے بعد عذر کیوں پیش کیا؟: بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے انہیں جو حکم دیا وہ وجوب کے لئے نہیں تھا مقصد صرف بہتر چیز اختیار کرنے کی ترغیب تھا کیونکہ اگر صحابہ اسے وجوب کے

لئے سمجھتے تو آپ سے دوبارہ اس طرح بات نہ کرتے۔ ممکن ہے وہ لوگ بھی جن کا کہنا ہے کہ حکم وجوب کے لئے نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کریں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے (انہوں نے وجوب کے لئے ہی سمجھا ہو) مگر اس امید سے اپنی درخواست پیش کی ہو کہ ممکن ہے ان کی ضرورت کے پیش نظر حکم منسوخ ہو جائے۔ (فتح) مطلب یہ ہے کہ حکم وجوب کے لئے ہی تھا مگر وہ تخفیف کی درخواست کر رہے تھے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو حرم قرار دیا تو اس کے خاردار درختوں اور گھاس کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اذخر (نامی گھاس) کو مستثنیٰ کر دیجئے کیونکہ وہ ہمارے گھروں اور کاریگروں کے لئے (ضروری) ہے تو آپ نے اذخر کو مستثنیٰ کر دیا۔ (بخاری: العلم ۳۹)

② آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟: راستوں میں بیٹھنے سے کئی فتنے پیش آسکتے ہیں کئی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے کئی ذمہ داریاں ادا کرنے میں غفلت ہو سکتی ہے۔ جب کہ گھر بیٹھنے سے ان میں سے کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ راستے سے جوان لڑکیوں اور عورتوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے اس سے نگاہ کے راستے دل کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

راستے میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے اور مسلمانوں کے کئی حقوق آدی پر واجب ہو جاتے ہیں اگر گھر میں بیٹھا ہوتا ان میں سے کوئی بھی اس کے ذمے واجب نہ ہوتا۔ مثلاً گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا فرض ہے ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کے گزرنے اور سلام کہنے سے یا اس کے اپنی کسی بات میں مشغول ہونے سے جواب دینے میں کوتاہی ہو جائے۔

راستے میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے گزرنے والوں کا راستہ تنگ ہو جائے یا عورتیں پاس سے گزرنے میں جھجک محسوس کریں جب کہ راستے کا حق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

اگر کوئی راستہ پوچھے تو راستہ بتانا فرض ہے کوئی نابینا یا معذور ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچانا لازم ہے کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی مدد کرنا ضروری ہے کوئی برا کام کر رہا ہو تو اسے روکنا واجب ہے اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو امر بالمعروف ضروری ہے اور ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اچھی بات کہنے کا اہتمام ایک مستقل فرض ہے۔ غرض بے شمار ایسی ذمہ داریاں راستے میں بیٹھنے سے عائد ہو جاتی ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوتا تو اس پر عائد ہی نہ ہوتیں۔ درج ذیل شعر میں شاعر نے زاہد پر گوشہ گیری کے لئے اللہ کے ڈر کا بہانہ بنانے کی پھبتی کسی ہے حالانکہ یہ بہانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔

زاہد نہ داشت تاب جمال پری زخاں
کنجے گرفت و ترس خدا را بہانہ ساخت

③ راستے کے حقوق کیا ہیں؟: جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی ضرورت بیان کی کہ راستوں پر بیٹھنے کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ بعض اوقات گھر میں جگہ کم ہوتی ہے کبھی دین یا دنیا سے تعلق رکھنے والے اجتماعی معاملات کے لئے مل بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایک دوسرے سے دل کی بات کہنے سننے کے لئے مجلس کی ضرورت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستے کے حقوق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ راستے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث میں پانچ حقوق بیان ہوئے ہیں:

① نگاہ نیچی رکھنا

② کسی کو تکلیف نہ دینا

③ سلام کا جواب دینا

④ نیکی کا حکم دینا

⑤ برائی سے منع کرنا

بعض دوسری احادیث میں بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، مظلوم کی مدد کرنا، چھینک مار کر الحمد للہ کہنے والے کو یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہنا، بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا بھی آیا ہے۔ (دیکھئے فتح

الباری حدیث (۶۲۲۹)

دین کی سمجھ کی فضیلت

۱۴۳۵/۴۔ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔“
(متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۷۱)، مسلم (الزکوٰۃ/۹۸-۱۰۰) وغیرہما۔ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۰۱/۸)؛ (۳۳۲/۸)؛ (۳۳۷/۸)؛ (۳۵۰/۸)

مفردات: مَنْ اِسْم شرط ہے۔ جو دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ اس حدیث میں یُرَدُّ فِعْلُ شرط اور یَفْقَهُ اس کے جواب دونوں پر مَنْ کی وجہ سے جزم آئی ہے۔

یَفْقَهُ۔ فِقْهُ یَفْقَهُ (کرم یکرم) جب فقہ (سمجھ) اس کی طبعی عادت بن جائے۔ فِقْهُ (علم یعلم) وہ بات سمجھ گیا۔ فِقْهُ (نصرینصر) باب مفاہلہ کے بعد غلبہ ظاہر کرنے کے لئے مثلاً فَاْفَقَهُ فَفَقَهُ۔ اس نے اس سے علم میں بحث کی تو اس پر غالب آگیا۔ یَفْقَهُ باب تَفْعِيل سے۔ یعنی اسے فقہ عطا فرما دیتا ہے فقہ کا لغوی معنی فہم (سمجھ) ہے۔

فوائد: ① دین کی سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے: اس حدیث سے ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ یہ صرف اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے خواہ تھوڑی بھلائی کرنا چاہے خواہ زیادہ۔ کیونکہ خیر اکو عمرہ لانے کا یہی مفہوم ہے (کوئی بھلائی) اور جسے دین کی سمجھ عطا نہ فرمائے اس کے ساتھ بھلائی

کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی نہیں کیا نہ تھوڑی بھلائی کا نہ زیادہ کا۔ بے شک اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں لیکن اگر دین کی سمجھ نہیں ملی تو اسے اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں ملی اور دنیا کی یہ تمام نعمتیں خیر ثابت ہونے کی بجائے دنیا میں اس کے لئے فتنے کا باعث اور آخرت میں باز پرس کا باعث بنیں گی۔

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثْنَهُمْ فِيهَا ﴾ (طہ ۲۰/۱۳۱)

”اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لئے دنیوی زندگی کی زینت کے طور پر دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان چیزوں میں فتنہ میں ڈالے رکھیں۔“

ہاں کوئی تاجر، صنعتکار، حاکم، عالم غرض دنیا کی کسی بھی نعمت سے ہسرہ ور کوئی شخص اگر دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے تو وہ نعمت اس کے لئے بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

② دین کی سمجھ صرف اللہ کی دین ہے: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ بندے کے اپنے اختیار کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے عالم دین کی سمجھ سے خالی بلکہ ایمان سے ہی خالی ہوتے ہیں۔ ان کے علم کا سارا زور دین میں شک پیدا کرنے اور کفر کی حمایت میں صرف ہوتا ہے۔ اس لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دین پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا فرماتے:

«يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ» (صحیح الترمذی ۱۷۳۹)

”اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ“

③ فقہ فی الدین سے کیا مراد ہے؟: بعض لوگوں نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے:

«الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرَعِيَّةِ عَنِ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ»

”شریعت کے فرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے استدلال کے ساتھ جاننا“ اس تعریف کی رو سے عقیدہ اور اصول دین فقہ میں شامل ہی نہیں ہوتے، مگر یہ بعض لوگوں کی اپنی اصطلاح ہے۔ قرآن و حدیث میں مذکور فقہ فی الدین میں دین کے اصول و فروع سب کو سمجھنا شامل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث جبریل میں رسول اللہ ﷺ نے اسلام، ایمان اور احسان سب کو دین قرار دیا۔ سلف صالحین کے ہاں صرف احکام کے علم کو فقہ قرار دینے کی اصطلاح کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کتاب فقہ اکبر میں بھی اصول دین اور عقائد کے متعلق بحث کی گئی ہے۔

ترازو میں اچھے خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں

۱۴۳۶/۵۔ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ
مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ترازو میں کوئی چیز خلق اچھا ہونے سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔“ (اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے)

تخریج: [صحیح] (ابو داؤد (۳۷۹۹) احمد (۴۳۸، ۴۳۶/۶) ترمذی نے یہ لفظ زیادہ کئے ہیں: (وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ)) ”اور اچھے خلق والا شخص اس کے ذریعے روزے اور نماز والے شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ (ترمذی/البر والصلوة ماجاء فی حسن الخلق) مکمل تخریج و تصحیح کے لئے سلسلہ صحیح (۸۷۶)۔

حسن خلق کے متعلق اس سے پہلے کئی احادیث میں تفصیل گزر چکی ہے۔

حیا ایمان سے ہے

۱۴۳۷/۶۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حیا ایمان سے ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج : بخاری (۲۳) مسلم (الایمان / ۳۷۳) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۸۸/۵)
(۳۷۳/۵) (۳۲۹/۹) (۳۲/۹) (۹/۱۱) (۱۶/۱۱) (۱۱/۱۱)

مفودات : الْحَيَاءُ شرم، طبیعت کا کسی کام سے اس لئے رک جانا کہ اسے کرنے سے مذمت کا یا عیب لگنے کا خطرہ ہو یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے ورنہ وہ بھی جانوروں کی طرح جو دل میں آتا کر گزرتا۔ شرع میں حیا ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جو آدمی کو قبیح کام سے بچنے اور حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے۔

فوائد : ① رسول اللہ ﷺ نے کس موقعہ پر یہ الفاظ کہے؟: صحیح بخاری میں مکمل حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا: «ذَعْبُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» ”اسے رہنے دو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔“

امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے «يُعَاتِبُ أَخَاهُ» اپنے بھائی پر ناراض ہو رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھائی حیا کی وجہ سے لوگوں سے اپنے حقوق بھی پوری طرح وصول نہیں کر سکتا تھا تو اس کے بھائی نے اسے نصیحت کی اور ناراض بھی ہوا کہ تم حیا کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہو تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے رہنے دو کیونکہ حیا ایمان سے ہے یعنی اگر حیا کی وجہ سے یہ اپنا کوئی حق وصول نہ کر سکا تو وہ حق اس کے لئے اجر کا

باعث ہوگا۔ خصوصاً اگر وہ شخص جسے چھوڑا جا رہا ہے مستحق ہو تو زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ بعض احادیث میں آیا ہے:

«الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ» (صحیح مسلم/ ۶۱)

”حیا ساری کی ساری خیر ہے“

اور:

«الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (صحیح مسلم/ ایمان ۱۲)

”حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی“

② حیا ایمان سے کس طرح ہے؟: بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ حیا آدمی کو برائی سے روک دیتی ہے جس طرح ایمان بندے کے لئے گناہ سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے اسے ایمان کہا گیا۔ لیکن اس تفسیر کی رو سے حیا ایمان کے مشابہ قرار پاتی ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ایمان سے ہے۔

اس لئے اس کا معنی دوسری حدیث کو مد نظر رکھ کر کریں تو بہتر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ»

(البخاری ج: ۹)

”ایمان ساٹھ سے زیادہ شاخوں کا نام ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کلمہ ’نماز‘ روزہ‘ اللہ کے رسول ﷺ سے محبت اور دوسری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح حیا بھی ایمان کے درخت کی ایک شاخ اور اس کا حصہ ہے۔

الحیاء من الایمان کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کی یہ حیا ایمان کا نتیجہ ہے اور اس میں یہ خوبی ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

③ حیا کی قسمیں: اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان سے رکنا حیا ہے۔ عقلاً جو

چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان سے رُکنا حیا ہے اور لوگ جن چیزوں کو برا جانتے ہوں ان سے رُکنا بھی حیا ہے، مگر اصل حیا اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب ہے۔ بعض لوگ کئی نیکی کے کام نہیں کرتے مثلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کہتے ہیں ہمیں حیا آتی ہے لیکن یہ حیا نہیں بزدلی ہے حیا ناپسندیدہ کام سے اجتناب ہے نیکی سے اجتناب حیا نہیں۔

ایک ایسی بات جو پہلی نبوتوں سے چلی آرہی ہے

۱۴۳۸/۷ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ
النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج: بخاری (۳۴۸۳) (۳۴۸۴) وغیرہ۔ ”الاولی“ کا لفظ بخاری میں نہیں بلکہ ابوداؤد میں ہے۔

فوائد: ① پہلی نبوتوں کے کلام سے کیا مراد ہے: مطلب یہ ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن پر تمام انبیاء علیہم السلام متفق تھے۔ کسی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئی عقل سلیم کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے سب لوگ حتیٰ کہ اہل جاہلیت بھی اسے جانتے اور مانتے آئے ہیں۔

② ”جب تو حیاء نہ کرے تو جو چاہے کر“ کا مطلب کیا ہے؟: اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میں حیاء نہ رہے تو اس کے دل میں جو آتا ہے کر گزرتا ہے، اسے برائی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ”بے حیاء باش و ہرچہ خواہی کن“ گویا یہاں امر بمعنی خبر ہے یعنی ”جو چاہے کر“ سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی حیاء نہ کرے تو جو چاہے کرتا ہے کسی گندے سے گندے کام سے بھی اسے حجاب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (بخاری - العلم ۳۸)

”جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنالے“ (یعنی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیتا ہے)

دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں امر دھمکی اور ڈانٹ کے لئے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں کجروی اختیار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (فصلت ۴۱/۴۰)

”جو چاہو کرو تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً وہ اسے دیکھنے والا ہے۔“ (یعنی جب حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو آخر کار اس کا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔“)

جدوجہد کی ترغیب اور نقصان پہنچنے پر تقدیر پر قناعت کی تلقین

۱۴۳۹/۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طاقتور مومن، کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں بھلائی موجود ہے جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو اور اگر تجھے کوئی (نقصان دہ) چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہو جاتا بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے قسمت میں (اسی طرح) لکھا اور جو اس نے چاہا کر دیا کیونکہ ”لو“ (اگر) کا لفظ شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (القدر/۳۳) وغیرہ۔ دیکھئے تحفة الاشراف (۱۵۹/۱۰) (۲۱۹/۱۰) (۲۱۳/۱۰) مفردات: اَحْرَضَ - حَرَضَ يَحْرَضُ (ضرب يضر) سے امر ہے۔ بعض اوقات باب صحیح سے بھی آتا ہے۔ وَلَا تَعْجِزْ جِيمَ كَيْ فَتَحِ اور کسرہ کے ساتھ۔

فوائد: ① قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے اگرچہ کمزور مومن بھی خیر سے خالی نہیں کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے اور ایمان بہت بڑی خیر ہے اس کے علاوہ اس میں امانت، علم، تقویٰ اور دوسرے وصف ہو سکتے ہیں۔ البتہ قوی مومن زیادہ قوت کے ساتھ دین پر عمل کر سکتا ہے۔

امریا المعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، صلوة، صیام، حج اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے دوسرے حقوق جس طرح قوی مومن ادا کر سکتا ہے کمزور ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کمزور کی کارکردگی بھی کمزور ہوگی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی میزبان لڑکی کا قول نقل فرمایا:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسَتْ جَرَّتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص ۲۸/۲۶)

”بہترین شخص جسے تم مزدور رکھو قوی اور امانت والا ہے“
اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی شریعت پر پوری طاقت سے عمل کیا جائے
بنی اسرائیل کو حکم دیا:

﴿ خُذُوا مَاءَ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ (البقرة: ۲/۶۳)

”ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔“

اور یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا:

﴿ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ﴾ (مریم: ۱۹/۱۲)

”اے یحییٰ! کتاب کو قوت سے پکڑ۔“

② قوت سے کیا مراد ہے؟: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قوت ہر کام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً جنگ میں قوت کا دار و مدار دل کی شجاعت اور جنگی تجربہ پر ہے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت قوت سے مراد یہ ہے کہ اسے کتب و سنت کا مضبوط علم حاصل ہو قوت فیصلہ مضبوط ہو اور اپنے احکام نافذ کرنے کی قدرت ہو۔

قوت کے ساتھ امانت کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر یہ دونوں وصف ایک جگہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ذمہ داری سونپتے وقت کسی شخص میں دونوں وصف مل جائیں تو کیا ہی کہنا ورنہ ذمہ داری کی نوعیت کے مطابق قوت یا امانت میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً جنگ کی امانت کے لئے قوت کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے گا اور مالی ذمہ داریوں کے لئے امانت کو۔ البتہ جب لوگوں سے زکوٰۃ اور دوسرے اموال وصول کرنے کا معاملہ ہو تو قوت و امانت دونوں ضروری ہیں۔

وقتی طور پر قوت و امانت میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ایک مجبوری ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے احوال کی اصلاح کی کوشش جاری رہنی چاہیے تاکہ صاحب قوت لوگ امانت کے وصف سے متصف ہو جائیں اور صاحب امانت لوگوں کا ضعف دور ہو جائے اور وہ قوی بن جائیں۔ (السیاسة الشرعية لابن تیمیہ)

③ نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی پہلی شرط ”حرص“: انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، مگر زندگی بسر کرنے کے لئے بھی بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں جو دنیا یا آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں یا جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں انہیں چھوڑ دینا ہی خوبی ہے:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ»

”آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ایک اس کا اُن چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے مقصد کی نہیں ہیں۔“ (تفصیل کے لئے دیکھئے اسی کتاب کی حدیث (۱۳۹۱))

رہ گئی وہ چیزیں جو اسے دنیا میں یا آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہیں تو نبی ﷺ نے ان کی حرص کا حکم دیا۔ کیونکہ اگر آدمی کسی چیز کی طرف رغبت ہی نہ رکھتا ہو نہ اسے اس کے حصول کی حرص ہو تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے کوئی جدوجہد کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ حرص ہی ہے جو اسے جدوجہد پر آمادہ کرتی ہے۔

نفع مند چیزوں کی حرص سب سے پہلے آدمی کو ان کے حاصل کرنے کے طریقے معلوم کرنے کا شوق دلاتی ہے۔ وہ دنیا کے علوم و فنون جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لئے نافع ہوں سیکھتا ہے اسی طرح آخرت کے نفع کے لئے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ پھر نفع بخش اشیاء کے حصول کے طریقے معلوم ہونے کے بعد وہ ان کے حصول کے اسباب و وسائل مہیا کرتا ہے اور اس کے لئے ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے۔

④ نافع چیزوں کے حصول کی دوسری شرط۔ استعانت باللہ: رسول اللہ ﷺ نے حرص کے بعد دوسری چیز جس کا حکم دیا ہے وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے اور یہی مومن اور کافر کا فرق ہے۔ کافر کی تمام تر نظر اسباب و وسائل اور اپنی جدوجہد پر ہوتی ہے جب کہ مومن بقدر استطاعت سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تمام اسباب و وسائل اور ہر قسم کی جدوجہد کے باوجود کام پورا نہیں ہوتا اور اگر اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو اسباب و وسائل کی کمی کے باوجود کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ

حرص کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔

اگر کوئی شخص اسباب و وسائل اختیار نہیں کرتا مثلاً بھوک مٹانے کے لئے روٹی حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتا دشمن کے مقابلے کے لئے قوت تیار نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا اور اگر وہ اسے اپنی جدوجہد پر ہی موقوف سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہی نہیں ہوتا تو وہ بھی ایمان کے تقاضوں سے نا آشنا ہے ایمان یہ ہے کہ اسباب بقدر استطاعت مہیا کرے مگر اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اونٹ کا گھٹنا باندھے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔

توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کرے اور اگر کبھی اسباب مہیا نہیں ہو سکے تب بھی اللہ سے مدد مانگنے میں کوتاہی نہ کرے۔ وہ اسباب بھی مہیا کر سکتا ہے اور چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مدد کر سکتا ہے۔

④ ہمت نہ ہارنا: تیسری شرط: تیسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَعْجِزْ عَاجِزٌ نَهْ هُوَ جَا' ہمت نہ ہار' ہمت ہارنے اور عاجز ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے کوشش ہی نہ کرے، غفلت اور سستی کی وجہ سے وقت اور موقع ضائع کر دے۔ بعض اوقات ایک لمحہ کی سستی منزل کو سینکڑوں سال دور کر دیتی ہے۔

رتقم کہ خار از پا کشم محمل نہں شد از نظر
یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ را ہم دور شد

”میں اپنے پاؤں سے کانٹا نکلنے لگا تھا کہ محمل (جس کا میں پیچھا کر رہا تھا) نگاہ سے اوجھل ہو گیا مجھ سے آنکھ جھپکنے کے برابر غفلت ہوئی اور میرا راستہ سو سال کے برابر دور ہو گیا۔“

اس لئے رسول اللہ ﷺ نے عاجزی اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگی:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ»

(صحیح مسلم، الذکر والدعاء، ۱۵)

”اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

ہمت ہارنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسباب مہیا نہ ہو سکیں تو ناامید ہو جائے۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر سکتا ہے، غیبی اسباب کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے اور چاہے تو اسباب کے بغیر محض ”کن“ کہنے کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قوم نوح کی غرقابی، بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات، ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا برد و سلام بن جانا، یوسف علیہ السلام کا قید اور غلامی سے نکل کر مصر کا صاحب اختیار بن جانا، اکیلے یوسف کی خاطر تمام علاقے کو سات سال کے لئے قحط میں مبتلا کر دینا، کئی سالوں کے بعد یوسف و یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کروا دینا، تجھی ہوئی بصارت کا چراغ دوبارہ روشن کر دینا، ہجرت کی رات اپنے نبی کو بحفاظت نکال لینا، غار ثور میں دشمنوں کو اندھا کر دینا، سراقہ کی گھوڑی کا زمین میں دھنس جانا، بدر میں چند بے سرو سامانوں کو غالب کر دینا، خندق میں ہوا کے لشکروں سے کفار کو بھگا دینا، غیبی اسباب کے ذریعے یا اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نصرت و رحمت کی چند مثالیں ہیں۔

ہاں مشو نومید چوں واقف نہ ای از سر غیب

باشد اندر پردہ باز سائے پناہ غم مخور

”خبردار ناامید مت ہو کیونکہ تو غیب کے راز سے واقف نہیں۔ پردے کے اندر رکھی

چھپے ہوئے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے غم نہ کر۔“

ہمت ہارنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں کوتاہی کرے۔ دعا میں سستی کرے کیونکہ انسان جتنے بھی اسباب و وسائل مہیا کر لے اگر اللہ کی مدد نہیں تو سب بیکار ہیں۔ آدمی اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب نہ ہوتے بھی مدد فرماتا ہے۔

﴿إِذَا تَسْتَعِينُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُبْدِكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مُرْسَلِينَ ﴿٩﴾ (الأنفال/ ۹)

”جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں

ایک ہزار پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔”
ہمت ہارنے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے یا اس طرح
نہ ہو جس طرح اس کی خواہش ہے تو تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ

لِي» (صحیح مسلم - الذکر والدعاء ۲۵)

”تم میں سے ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے کہ یہ کہنے لگے
کہ میں نے دعا کی تو میری دعا قبول نہیں کی گئی۔“
حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش طویل ہو جاتی ہے کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگ
طوفان کے تھپیڑوں کا رخ دیکھتے ہی بوریا بستر اٹھا کر کہیں اور چل دیتے ہیں۔ یہ الگ بات
ہے کہ وہاں جا کر اس سے بھی بڑے طوفان میں پھنس جائیں۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ
فِتْنَةٌ اَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ (الحج ۲۲/۱۱)

”اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے تو اگر
اسے بھلائی حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے آزمائش
آپنچے تو اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے۔ یہ شخص دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔“
اس کے برعکس اللہ کے مخلص بندے کئی سال کی آزمائش کے بعد بھی اللہ کے در پر
ہی دھرنادیتے رکھتے ہیں نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں نہ کسی اور دروازے پر جاتے ہیں۔

اللہ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی امید ساڑھے نو سو سال گزرنے کے باوجود بدستور قائم
رہی۔ ابراہیم علیہ السلام بے وطن ہو کر بھی اسی دروازے سے چٹے رہے۔ ایوب علیہ السلام اٹھارہ
سال بیمار رہے مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ (مسند ابی یعلیٰ: ۳۶۰۵)
یعقوب علیہ السلام آنکھیں سفید ہونے کے باوجود اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ کے
حضور پیش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ﴾

(الأحقاف/۴۶/۳۵)

”سو تو اس طرح صبر کر جس طرح اولوالعزم پیغمبروں نے کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کر۔“

④ تقدیر میں لکھا ہوا نقصان ہونے پر ”اگر“ کہہ کر افسوس نہ کرے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور اگر تجھے کوئی چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہو جاتا۔ الخ۔

مطلب یہ ہے کہ اگر پوری جدوجہد اور دعاؤں کے باوجود نتیجہ مرضی کے خلاف نکلے یعنی مقصد حاصل نہ ہو سکے یا کوئی ایسی مصیبت آپڑے جس کی توقع ہی نہ تھی تو پھر اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے اس پر مطمئن رہے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا تابع نہیں اس نے جو چاہا کر دیا اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق تقدیر میں جو لکھا تھا ہم کچھ بھی کر لیتے اس کا ملنا ممکن نہ تھا۔ پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اس ”اگر“ سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی اس طریقے سے وہ انسان کو غمگین کرتا ہے اور اسے اللہ کی تقدیر پر ایمان سے محروم کر کے کافر بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی حد سے زیادہ غمگین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۲﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۳﴾ ﴾

(الحديد/۵۷/۲۲-۲۳)

”کوئی مصیبت زمین میں اور تمہاری جانوں میں نہیں پہنچتی مگر ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے اور اس پر پھول نہ جاؤ جو وہ تمہیں دے اور اللہ تعالیٰ کسی

اگڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔“

⑦ نقصان پہنچنے پر کیا کہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ کہہ:

«قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» (مسلم ۴/۲۰۵۲)

اللہ نے تقدیر میں لکھا اور اس نے جو چاہا کیا۔

⑧ کیا کسی موقع پر ”اگر“ (لَوْ) کہنا جائز ہے؟: امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب التمنیٰ میں ایک باب ذکر فرمایا ہے: بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ (اگر) کہنے کی وہ صورتیں جو جائز ہیں۔ اس میں لوط علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ (ہود: ۸۰) ”کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی۔“

اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کا مختلف مواقع پر ”لو“ کا لفظ استعمال کرنا ذکر فرمایا ہے۔ جب کہ ہماری زیر بحث حدیث میں ”لو“ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی تدبیر سے اس نقصان کو ہٹا سکتا تھا تو ”لو“ (اگر) کا لفظ کہنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”لو“ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے شیطان کا عمل تقدیر میں دوسوہ پیدا کر کے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر راضی ہے اور اس کا تقدیر پر محکم ایمان ہے تو نیکی نہ کر سکتے پر اظہار افسوس کے لئے یا آئندہ کی تدبیر کے لئے یا اس قسم کے دوسرے مقاصد کے لئے ”لو“ (اگر) کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

تواضع اختیار کرنے کا حکم

۱۴۴۰/۹ - وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا

يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ نیچے رہو یہاں تک کہ کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے)

تخریج: مسلم / صفة الجنة / ۶۳ تحفة الاشراف (۲۵۱/۸) (۲۵۲/۸)

فوائد: ① تواضع کیا ہے: تواضع کا معنی ہے نیچا ہو جانا۔ یہ کبر کی ضد ہے۔ اللہ کے سامنے تواضع یہ ہے کہ اس کے احکام کے تابع ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے اونچا نہ سمجھے۔ کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ جانے۔ کیونکہ بڑائی صرف اللہ کا حق ہے اور انسان کو اپنے آپ کو اونچا سمجھنا زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَا تَرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم ۵۲/۳۲)

”اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متواضع تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں آپ کے صحابہ نے عرض کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیراطوں پر چرایا کرتا تھا۔ (صحیح ابن ماجہ، التجارات / ۵)

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ (بخاری۔ مشکوٰۃ حدیث ۵۸۰۹) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» (مسلم - البر ۱۹)

”جو شخص اللہ کے لئے نچا ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتا ہے۔“

② سرکشی کا انجام: تواضع اختیار نہ کرنے کا نتیجہ بغی یعنی (سرکشی) اور فخر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان ۳۱/۱۸)

”یقیناً اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔“

اور بغی (سرکشی) کے متعلق حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

www.KitaboSunnat.com

«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ لِمُصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» (صحيح الترمذي - صفة القيامة ۲۱)

”سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں ہی جلدی سزا دے اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کے لئے سزا محفوظ رکھے۔“

مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرنے کی فضیلت

۱۰/۱۴۴۱- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ رَدًّا اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ)

”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے گا اللہ

تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔“ (اسے

ترمذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۱۹۳۱) دیکھئے صحیح الترمذی للالبانی (۱۵۷۵) اور غایۃ المرَام

(۳۳۱)

اسماء بنت یزید کی حدیث

وَلَا أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوَهُ

اور احمد کے لئے اسماء بنت یزید کی حدیث اسی طرح ہے

تخریج: احمد (۳۳۹/۶)

فوائد: ① غیبت سے روکنا فرض ہے: جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سنا بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن جس طرح زبان کے اعمال پر باز پرس ہوگی اسی طرح کانوں کے عمل پر بھی باز پرس ہوگی۔

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

(بنی اسرائیل ۱۷/۳۶)

”یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔“

اگر کسی مجلس میں کوئی شخص کسی مسلم بھائی کی غیبت کر رہا ہو اس کی عزت کو خراب کر کے مجلس گرم کر رہا ہو تو دوسرے بھائیوں کا فرض ہے کہ اسے اس شنیع فعل سے روک دیں۔ اس دفاع کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا۔ غیبت سے روکنا ایک تو اس لئے فرض ہے کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد فرض ہے:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» (بخاری / المظالم ۳)

”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔“

دوسرا اس لئے کہ برائی سے منع کرنا ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرض ہے:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ... الْحَدِيثُ» (مسلم - الإيمان - ۲۰)

”تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے اگر یہ طاقت نہ رکھے تو زبان سے، اگر یہ بھی طاقت نہ رکھے تو دل سے اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔“

② مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع کی چند مثالیں: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے (حدیث لمبی ہے) آپ نے ان کے گھر نماز پڑھی ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا مالک بن وحشم کہاں ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے کوئی محبت نہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا ایسا مت کہو تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے ”لا الہ الا اللہ“ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ جو ”لا الہ الا اللہ“ پڑھے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ (مسلم: الساجد / ۴۷)

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے جنگ تبوک کے موقع پر ان کی آزمائش اور توبہ کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تبوک میں بیٹھے تھے تو آپ نے پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کا ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ! اسے اس کی دو چادروں (کی خوبصورتی) نے اور اپنے کندھوں کو دیکھنے نے یہاں آنے نہیں دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم نے جو کہا برا کہا۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ! ہم تو اس کے متعلق بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔

③ اگر غیبت سے نہ روک سکے تو کیا کرے: جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس میں بیٹھنے والا بھی انہی جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ﴾

(النساء/ ۱۴۰)

”اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کے متعلق سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں یقیناً تم اس وقت ان کی طرح ہی ہو گے۔“

اس لئے جس مجلس میں کسی مسلم بھائی کی غیبت ہو رہی ہو وہاں پر موجود ہر مسلم پر فرض ہے کہ اسے روک دے۔ اگر روک نہیں سکتا تو اس مجلس سے اٹھ جائے گناہ میں شریک نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور وہاں سے اٹھنا اس کی طاقت سے بالکل ہی باہر ہے تو دل سے غیبت کو برا سمجھے جیسے واقعی اس کے سامنے اس کے بھائی کا گوشت مردہ ہونے کی حالت میں کھایا جا رہا ہے، مگر وہ نہ منع کر سکتا ہے نہ اٹھ کر جا سکتا ہے۔

وہ تین چیزیں جن سے مال، عزت اور رفعت میں اضافہ ہوتا ہے

۱۱/ ۱۴۴۲۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا
زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا
رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بدولت بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور کوئی شخص اللہ کی خاطر نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے)

تخریج: مسلم (البر والصلة/ ۶۹) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۰/ ۲۳۳)

فوائد: ① صدقے سے مال کم نہیں ہوتا: اہل علم نے صدقے کے ساتھ مال کم نہ ہونے کے تین معنی لکھے ہیں۔

پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے شخص کے مال میں برکت کر دیتا ہے اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا تھوڑا مال اسے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ اگر وہ صدقہ نہ کرتا تو مال زیادہ ہونے کے باوجود نہ اس کے کام آسکتا نہ اتنی ضروریات پوری کر سکتا بلکہ ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں ضائع ہی ہو جاتا یا اس کے لئے کسی مزید مصیبت کا باعث بن جاتا۔

دوسرا یہ کہ صدقے سے اسے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ جو اس کے مال کی کمی پوری کر دیتا ہے گویا جس مال کے عوض اسے دس گنا، ستر گنا بلکہ اس سے بڑھ کر بعض اوقات بے حساب ثواب ملا وہ مال کم نہیں ہوا۔

تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی جگہ جو اس نے خرچ کیا اسے اور مال دیتا ہے بلکہ بعض اوقات اسے بڑھا دیتا ہے یہ بات تجربہ سے ثابت اور آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ (سبا ۳۹/۳)

”اور تم جو چیز بھی خرچ کرو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے“

② معاف کر دینے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے: جس شخص پر زیادتی کی گئی ہو اسے حق ہے کہ زیادتی کا بدلہ لے لے۔

﴿ وَكَلِمَٰنٍ أَنْصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (الشوریٰ ۴۱/۴۲)

”جو شخص مظلوم ہونے پر بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔“

اور فرمایا:

﴿ وَحَزْرًا ذَا سِنْتَةٍ سَبْتَهُ مِثْلَهَا ﴾ (الشوریٰ ۴۰/۴۲)

”برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے۔“

لیکن اگر کوئی شخص بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے تو یہ اونچے درجے کا کام ہے اور اللہ

کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”تو جو شخص معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۳)

”اور جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے“

معاف کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بدلہ لینے کی صورت میں دل ٹھنڈا ہوگا، آئندہ میرا رعب ہوگا، کوئی مجھ پر زیادتی نہیں کرے گا جب کہ معاف کرنے میں میری ذلت ہے، لوگ کیا کہیں گے بدلہ نہ لے سکا۔ آئندہ بھی اسی طرح مجھ پر زیادتی ہوتی رہے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کہ معاف کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا اس کی تدلیل ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی کہ لوگ معاف کر دینے والے کو جس اکرام و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں بدلہ لینے والے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتے علاوہ ازیں معاف کر دینے میں وہ لذت ہے جو انتقام لینے میں ہرگز نہیں ہے۔

③ اللہ کے لئے تواضع سے بلندی ملتی ہے: جو شخص اللہ کی خاطر نیچا ہو جاتا ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھتا ہے شہرت، ناموری اور سر بلندی کی بجائے اللہ کی رضا کے لئے گمنامی اور خاکساری کو اپنا شعار بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے وہ اپنی نظر میں چھوٹا مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے جب کہ تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے اور لوگوں کی نظر سے بھی۔

اس حدیث میں صدقہ، غنوا اور تواضع کی تعلیم دی گئی ہے اور اخلاقِ حسنہ میں یہ تینوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔

جنت میں داخلے کے اعمال

۱۲/۱۴۴۳- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَأْتِيهَا النَّاسُ، أَفْسُوا السَّلَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَأَطِعُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

”عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! سلام کو عام کرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے)

تخریج: [صحیح] (ترمذی ۲۳۸۵، ۳۲۵۱)

مفردات: أَفْسُوا- اِفْشَاء (افعال) سے امر ہے۔ ”پھیلانا عام کرنا۔“

وَصَلُّوا وَاذْ عَطْفِ كَلِّ لَيْسَ هُوَ اذْ صِلُّوا وَصَلَّ يَصِلُّ سَعْفِ اَمْرٍ هُوَ۔ ”ملانا۔“

نِيَامٌ نُونِ كَعَسْرِ كَعِ سَاثَمِ نَائِمٌ كِي جَمْعِ هُوَ۔ ”سونے والے۔“

فوائد: ① سلام کو عام کرنا: سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو سلام

کرے خواہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے

نبی ﷺ سے سوال کیا: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ اسلام کی کون سی چیزیں سب سے اچھی ہیں فرمایا:

یہ کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے اس کو جسے تو پچھاتا ہے اور جس کو تو نہیں پچھاتا۔

(بخاری: الایمان / ۲۰)

سلام اتنی آواز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جسے سلام کہا گیا ہے اسے سن لے۔ بخاری نے
الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ:

«إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ»

(صحیح الادب المفرد للالبانی ۷۶۹)

”جب سلام کہو تو سنا کر کہو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔“

اگر ایسی جگہ جائے جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے اور کچھ جاگتے ہوں تو اتنی آواز سے
سلام کہے کہ جاگنے والے سن لیں اور سوئے ہوئے جاگ نہ اٹھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ (مسلم۔ الاثرینہ / ۳۲، عن المقداد)

اگر کسی جماعت سے ملے تو سب کو سلام کہے کسی ایک کو خاص طور پر سلام نہ کہے
کیونکہ یہ سلام عام کرنے کے خلاف ہے اور ان لوگوں سے بے گانگی کا اظہار ہے جن کو
سلام نہیں کہا گیا جب کہ سلام عام کرنے کا مقصد تمام مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا
ہے اور یہ محبت ہی جنت میں لے جانے والی ہے۔ سلام کے مفصل مسائل کے لئے دیکھئے
اسی کتاب کی حدیث (۱۳۵۳) اور (۱۳۶۰، ۶۱، ۶۲)

② ناواقف کو سلام کہنے کے فوائد: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عام کہنے کا حکم دیا خواہ ناواقف
ہی ہو۔ اہل علم نے ناواقف کو سلام کہنے کے کئی فوائد بیان فرمائے ہیں:
(الف) یہ عمل خالص اللہ کے لئے ہوتا ہے۔

(ب) اس میں تواضع پائی جاتی ہے۔

(ج) اس سے امت مسلمہ کا شعاع (سلام) زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔

(د) ناواقف کو سلام کہنے سے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کی وجہ سے باہمی انس پیدا ہو جاتا ہے
بیگانگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت آسانی سے شروع ہو جاتی ہے۔

صلہ رحمی کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے دیکھئے اس کتاب کی حدیث (۱۳۷۱)

③ کھانا کھلانا: ”کھانا کھلاؤ“ میں ان لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے پہلے ہے جن کی کفالت آدمی کے ذمے ہو۔ چنانچہ فرمایا:

«وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (صحیح مسلم - الزکاة/ ۳۱)

”ابتدا ان کے ساتھ کرو جو تمہارے عیال ہیں۔“

اور فرمایا:

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُونَ»

(صحیح ابی داؤد الزکاة، باب: ۴۶)

”آدمی کو گناہ گار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کرے جن کی خوراک اس کے ذمے ہے۔“

اس کے ساتھ ساتھ مہمان، سائل، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا بھی آدمی کے ذمے ان لوگوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ قرابتداروں اور دوستوں کو کھانا کھلانا بھی باہمی محبت بردھانے کا باعث ہے۔

④ رات کو نماز پڑھنا: رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہوں۔ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے کیونکہ اس وقت یہود و نصاریٰ اور دوسرے غیر مسلم سو جاتے ہیں اور رات کے نوافل بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اس وقت عام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْآسْتِحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(الذاریات ۱۷/۱۸)

”وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقتوں میں وہ استغفار کرتے تھے۔“

اور فرمایا:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾

(السجدة ۳۲/۱۶)

”ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں۔“

⑤ جنت میں سلامتی سے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟: ظاہر ہے کہ یہ اعمال جنت میں داخلے کے اسباب میں سے چند اسباب ہیں ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں جنت میں داخلے کے لئے ضروری ہیں، مگر ان اعمال پر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال کرنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے دوسرے اعمال صالحہ کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اور اس کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتا ہے جس سے وہ عذاب سے محفوظ رہ کر شروع میں ہی جنت میں داخل ہونے کا حق دار بن جاتا ہے۔

دینِ نصیحت کا نام ہے

۱۳/۱۴۴۴- وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ثَلَاثًا
قُلْنَا: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ،
وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دین صرف نصیحت ہی ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور ان کے عام لوگوں کے لئے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (الایمان/۹۵) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۱۶/۲) (۳۳۶/۹)

(۳۹۳/۹) (۲۳۲/۹)

فوائد: ① نصیحت کیا ہے؟: نَصَحَ الشَّيْءُ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز خالص ہو۔ اس میں کھوٹ نہ ہو شمد یا کوئی اور چیز جب خالص ہو تو اسے «النَّاصِحُ» کہتے ہیں «النَّصِيحُ» (خالص ہونا) یہ «الْعَيْشُ» (کھوٹا ہونے) کا الٹ ہے۔ فعل «نَصَحَهُ» استعمال ہوتا ہے اور «نَصَحَ لَهُ» بھی۔ لام کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا «وَأَنْصَحْ لَكُمْ» اور کہا جاتا ہے «نَصَحْتُ لَهُ نَصِيحَتِي نُصُوْحًا أَيْ أَخْلَصْتُ وَصَدَقْتُ» میں نے دل میں اس کے لئے خلوص رکھا اور سچی بات کہہ دی۔ خلاصہ یہ کہ دل میں کسی کے لئے اچھا ارادہ رکھنا اس کے متعلق کھوٹ نہ رکھنا کسی کا بھلا چاہنا اس کا برا نہ چاہنا یہ نصیحت ہے فارسی میں اسے خیر خواہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ (التحریم ۸/۶۶)

”اللہ کی طرف توبہ نصوحاً کرو“

یعنی خالص توبہ جس کے ساتھ دل میں ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ (لسان العرب خلاصہ بقدر ضرورت)

② کیا دین صرف نصیحت کا نام ہے؟: الدین النصيحة میں الدین مبتدا ہے اور النصيحة خبر جب خبر پر الف لام آجائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی دین صرف نصیحت کا نام ہے۔ بے شک اسلام کے احکام بہت سے ہیں مگر ان سب کا دار و مدار نصیحت (خیر خواہی) یعنی دل کے خالص ہونے اور کھوٹ سے خالی ہونے پر ہے۔ اللہ اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے حکام اور عامۃ المسلمین کے متعلق اگر دل میں کھوٹ یا بد خواہی ہوئی تو سمجھ لیجئے اس دل میں دین نہیں ہے۔

③ اللہ، اسکی کتاب اور اسکے رسول کیلئے نصیحت سے کیا مراد ہے: اللہ تعالیٰ کے لئے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی کو رب اور معبود مانے اس کی تمام صفات کو مانے۔ خالص دل سے اس کا بندہ بن جائے اس بندگی میں کسی وقت بھی کسی دوسری ہستی کو

شریک نہ کرے اس کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ ساری دنیا کو صرف اسی کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ اس کے احکام ماننے کے لئے ہر وقت دل سے تیار رہے اس کا نام بلند کرنے کے لئے جہاد کرتا رہے پھر اگر کسی وقت بیماری یا ناداری کی وجہ سے حکم پر عمل نہ کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اصل نصیحت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾

(التوبة ۹/۹۱)

”کوئی حرج نہیں بیماروں، کمزوروں اور ایسے لوگوں پر جو وہ چیز پاتے ہی نہیں جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے خیر خواہی کریں، احسان کرنے والوں پر کوئی گرفت نہیں۔“

اللہ کی کتاب کے لئے نصیحت سے مراد اس پر ایمان رکھنا اس کی کسی بات میں شک نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اسے آگے پھیلانا اور یہ خواہش رکھنا کہ سب لوگ اس پر عامل بن جائیں۔

رسول کے لئے نصیحت سے مراد ان تمام چیزوں میں اسے دل سے سچا ماننا ہے جو وہ لے کر آیا ہے اسی طرح اس کا حکم ماننا۔ اس کے نقش قدم پر چلنا اس سے اور اس کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی، اس کی سنت سے محبت، سنت کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو، اس کی نشر و شاعت۔ سب لوگوں کو سنت کا عامل بنانے کا شوق اور اس کے لئے جدوجہد، بدعت کی تردید اور اسے ختم کرنے کی جدوجہد بھی رسول ﷺ کے لئے خیر خواہی میں شامل ہے۔

④ مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کیلئے نصیحت کیا ہے؟: مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے نصیحت (خیر خواہی) یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لئے سوچے۔ دل میں ان کے لئے کھوٹ نہ رکھے اچھے کاموں میں ان کی اطاعت اور مدد کرے ان کے خلاف

بغاوت نہ کرے ان کی کوتاہیوں کے باوجود صلاۃ، جہاد اور دوسرے نیکی کے اجتماعی کاموں میں ان کے ساتھ رہے۔ ان کی اصلاح کے لئے حق بات کہتا رہے اور ان کے حق میں دعا کرتا رہے۔

عامۃ المسلمین کے لئے نصیحت (خیر خواہی) یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لئے سوچے۔ کسی کے متعلق دل میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھے۔ ان کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔ ان کے چھوٹوں پر رحم، ان کے بڑوں کی توقیر کرے۔ ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لئے کوشش کرے انہیں نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے۔

جنت میں لے جانے والے عمل

۱۴/۱۴۴۵- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ
وَحُسْنُ الْخُلُقِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا خلق ہے۔“
(اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۲۰۰۴) البانی نے اسے صحیح کہا۔ الصحیحۃ (۹۷۷) پوری حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی تو فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا خلق اور اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں لے جائے گی تو فرمایا: «الْفَمُّ وَالْفَرْجُ» منہ اور شرمگاہ۔

مفردات: تَقْوَى اللَّهِ اس کا مادہ و۔ ق۔ ی ہے۔ وَقَى يَقِي (ضرب يضر) کسی کو

نقصان دہ، خطرناک چیز سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم ۶/۶۶)

”اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“

اس سے اسم ”تقویٰ“ ہے جو اصل میں وَفِي (فعلی) تھا۔ واؤ کو تاء سے اور یاء کو واؤ سے بدل دیا۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جن سے کوئی خوف ہو۔ اس لئے بعض اوقات ڈرنے کو بھی تقویٰ کہہ لیتے ہیں۔

اللہ کا تقویٰ یہ ہے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچائے یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہر وقت یہ بات اپنے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی منع کردہ چیزوں کو یکسر چھوڑ دے۔

تقویٰ پوری طرح تبھی حاصل ہو سکتا ہے، جب بعض حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں حرام کا لہر تکاب نہ کر بیٹھے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ممنوعہ چراگاہ کے اردگرد چرتا ہے قریب ہے کہ اس کے اندر جا پہنچے۔ (بخاری-الایمان/۳۹)

حسن خلق کی تشریح اس سے پہلے کئی احادیث میں گزر چکی ہے۔

حسن خلق

۱۴۴۶/۱۵ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ «إِنَّكُمْ لَا تَسْعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» (أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقیناً تم

اپنے مالوں کے ساتھ تمام لوگوں کے لئے فراخ نہیں ہو سکتے لیکن ان کے لئے تمہاری طرف سے چہرے کا کھلا ہونا اور خلق کا اچھا ہونا فراخ ہونا چاہیے۔“ (اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا)

تخریج: [ضعیف] [ابو یعلیٰ (۱۱/۶۵۵۰) حاکم (۱۱۲۳/۱) بیہقی نے فرمایا اس کی سند میں عبد اللہ بن سعید المقبری مفرد ہے۔ ایک اور ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی آئی ہے۔ ذہبی نے مستدرک حاکم کی تلخیص میں فرمایا: عبد اللہ (بن سعید) کمزور ہے۔

میزان میں ہے: یہ عبد اللہ بن سعید بالکل ہی کمزور ہے۔ فلاس نے فرمایا منکر الحدیث متروک ہے، یحییٰ نے فرمایا: مجھ پر اس کا کذب واضح ہو چکا ہے۔ دارقطنی نے فرمایا: مَثْرُوكٌ ذَاهِبٌ اور اس کی کئی روایات ذکر کیں جن میں سے یہ بھی ہے پھر فرمایا کہ بخاری نے اس کے متعلق فرمایا ہے: تَوَكُّؤُهُ مَحْذُومٌ نے اسے ترک کر دیا ہے۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث (۶۳۴)

مفردات: لَا تَسْعُونَ تَاءٌ اور سَيْنٌ کے فتح کے ساتھ السَّعَةُ۔ فراخی یہ الصَّبِيُّ (بٹنگی) کی نقیض ہے۔ باب وَسَعَةٍ يَسْعُهُ اور يَسْعُهُ سَعَةً آتا ہے۔ يَسْعُهُ کم آتا ہے۔ (یعنی سَيْنٌ کے کسرے کے ساتھ) لیکن اس کی واؤ کا گرنا اسی وجہ سے ہے کہ يَعِدُّ کی طرح بھی آتا ہے اگر یہ صرف يَفْعَلُ کے وزن پر ہوتا تو اس کی واؤ نہیں گر سکتی تھی۔ يَفْعَلُ کے وزن پر اس کا استعمال حرف حلقی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَسَعٌ وَسَاعَةٌ فَوَسَّعٌ بھی استعمال ہوتا ہے۔ (لسان العرب ملخصاً)

فوائد: اگر کوئی شخص چاہے کہ میں مال دے کر لوگوں کا فقر دور کر دوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدمی کا مال کم ہے اور فقراء بے شمار۔ بالفرض اگر کسی کو اتنا مال دے بھی دے جس سے وہ غنی ہو جائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ فقیر نہیں ہو گا۔ اس لئے صدقہ کرتے وقت بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (۲۹) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۳۰﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۲۹-۳۰)

”اور نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا بنا لے اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دے ورنہ اس حال میں بیٹھ رہے گا کہ تو ملامت کیا ہوا عاجز ہوگا۔ یقیناً تیرا رب ہی فراخ کرتا ہے رزق جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یقیناً وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کو پوری طرح کھول دینے اور سب کچھ خرچ کر دینے سے لوگوں کا فقر دور نہیں ہو سکتا۔ رزق کی فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کا مال سب لوگوں کے لئے پورا نہیں آسکتا تو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا اور اچھا خلق تو سب لوگوں کے لئے فراخ ہونا چاہیئے حدیث کا مطلب یہ ہے جو تحریر ہوا۔ لیکن روایت کمزور ہے۔ اس لئے اگر مزید غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت تمام بندوں کی سنتا اور ان سے فراخی کا معاملہ کرتا ہے بندے کے لئے تمام انسانوں سے ہر وقت اسی طرح کشادہ چہرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ بعض اوقات آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیمار، کبھی طبیعت اتنی افسردہ ہوتی ہے کہ کشادہ چہرہ تو دور کی بات ویسے ہی کسی سے ملنے پر آدمی تیار نہیں ہوتا کبھی لوگوں کی بدسلوکی انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتی ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے حلیم الطبع لوگ اپنی بیویوں سے مہینہ مہینہ تک نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ ہاں اگر روایت صحیح ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرنی چاہیئے کہ سب لوگوں کو کشادہ چہرے سے ملا جائے اور ان سے حسن خلق اختیار کیا جائے۔ باقی کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں۔

مومن، مومن کے لئے آئینہ ہے

۱۶/۱۴۴۷- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ» (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

”انہی (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔“ (اسے ابوداؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج: (حسن) ابوداؤد (۳۹۱۸) دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۲/۹۳۶)

فوائد: ① مومن، مومن کے لئے آئینہ کس طرح ہے؟: آئینے میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والے کے سامنے اس کا حسن و جمال بھی رکھ دیتا ہے اور اس کے نقائص بھی۔ اسی طرح مومن اپنے مومن بھائی کے لئے اس کی خوبیاں اور اس کے اوصاف بیان کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی میں بجل نہیں کرتا ہاں آئینے کی طرح وہ اس میں مبالغہ بھی نہیں کرتا بلکہ صرف اتنی بات کرتا ہے جو حقیقت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ:

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ الثَّرَابَ» (مسلم الزمہد ۱۴)

”جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔“

② آئینے میں دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کو خاموشی سے اس کے عیب بتاتا دیتا ہے شور نہیں کرتا اور دیکھنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی نہیں بتاتا۔ اسی طرح مومن اپنے مومن بھائی کو اس کے نقص خاموشی سے بیان کر دیتا ہے۔ کسی دوسرے کو جا کر نہیں بتاتا۔ وہ نہ چغلی کرتا ہے، نہ غیبت۔

③ آئینہ کی حقیقت: حقیقت یہ ہے کہ آئینہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کو اپنے حسن و جمال سے آگاہی ہوتی ہے جس کی حفاظت اور مزید زیبائش و آرائش کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اسے اپنے چہرے کے نقص معلوم ہوتے ہیں جنہیں وہ چھپانے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آئینہ نہ ہوتا تو وہ ان سب چیزوں سے محروم رہتا۔ اسی طرح آدمی کے لئے اس کے مومن بھائی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں کیونکہ ان کے حسد و منافقت سے پاک سینوں کی بدولت وہ اپنی خوبیوں اور استعداد سے واقف ہوتا اور ان کی حفاظت اور ان میں اضافے کے لئے جدوجہد کرتا ہے اور وہی اسے اس کے نقائص سے مطلع کرتے ہیں جس سے وہ ان کے ازالے یا پردہ پوشی کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مومن بھائی نہ ہوتے تو نہ اسے اپنی خوبیوں کا پوری طرح شعور حاصل ہوتا نہ خامیوں کا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جسے ایسے مومن بھائی مل جائیں جو اس کے لئے آئینے کی مانند ناصح مشفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں بھی یہ نعمت کرے۔

لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت

۱۷/۱۴۴۸- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ،
 وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ
 وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ» (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ
 حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ
 الصَّحَابِيَّ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ مومن

جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔“ (اسے ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مگر اس نے صحابی کا نام نہیں لیا)

تخریج: [صحیح] (ابن ماجہ (۴۰۳۲) (ترمذی - التقیامۃ / ۵۵) ابن ماجہ میں «خیر») کی جگہ «اعظم اجرا» کے لفظ ہیں۔ ترمذی میں «خیر» کے لفظ ہیں تصحیح کی تفصیل کے لئے دیکھئے سلسلہ صحیحہ لالابانی (۹۳۹)

فوائد: ① لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا شخص افضل ہے: لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے میں کئی فوائد ہیں مثلاً گناہوں سے بچنا، نیکی کے لئے وقت کا بچ جانا، ریاکاری سے بچنا، لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا وغیرہ، مگر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے والا زیادہ بہتر اور زیادہ اجر کا مستحق ہے کیونکہ وہ اجتماعی عبادات نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں شریک رہ سکتا ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، ماں باپ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ علم حاصل کر سکتا ہے اور علم کا نور آگے پھیلا سکتا ہے۔

② بعض اوقات لوگوں سے علیحدگی بہتر ہوتی ہے: جب کسی شخص کو معاشرے میں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو اس کے لئے علیحدگی افضل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«يُؤْنَسُكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» (البخاري - الإيمان / ۱۲)

”قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بھیڑ بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات میں پھرتا رہے اپنا دین لے کر فتنوں سے بچنے کے لئے بھاگتا پھرے۔“

حسن صورت کے ساتھ حسن خلق کے لئے دعا

۱۴۴۹/۱۸ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي
فَحَسِّنْ خُلُقِي» (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے میرا خلق بھی اچھا بنا دے۔“ (اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا)

تخریج: [صحیح] [احمد (۴۰۳/۱) ابن حبان (۹۵۹/۳) بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ آئینہ دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں (وَحَرَمَ وَجْهِي عَلَى النَّارِ) اور میرا چہرہ آگ پر حرام کر دے۔

شیخ ناصر الدین نے ارواء الغلیل حدیث (۷۴) میں اس حدیث پر تفصیلی کلام فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام روایات جن میں آئینہ دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے ضعیف ہیں اور ان کا ضعف کثرت اسانید سے بھی دور ہونے والا نہیں۔ وَحَرَمَ وَجْهِي وَالْأَلْفَاظُ بَعْضُهَا ضَعِيفٌ هِيَ۔ البتہ صرف اتنے الفاظ جو اوپر ذکر ہوئے ہیں صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔

فوائد: ① انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التین ۴/۹۵)

”یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔“

اس لئے کوئی شخص کسی دوسرے کے مقابلے میں اگر کم حسن بھی رکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے انسان بنایا۔ جس کی شکل جیسی بھی ہے

دوسری مخلوقات سے بہتر ہے۔

② اپنی خوبصورتی کی طرف دھیان جائے تو حسن سیرت کے لئے دعا کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تھا کہ آپ ظاہر کی اصلاح کے ساتھ باطن کی اصلاح کے لئے فکر مند رہتے تھے۔ مثلاً وضوء کے ساتھ اعضاء کی ظاہری طہارت کرتے تو ساتھ ہی قلبی طہارت کے لئے دعا کرتے:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» (صحیح

الترمذی الطہارۃ ۴۱)

”اے اللہ! مجھے بہت توبہ کرنے والے اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لے۔“

پاخانے کا بوجھ اور اس کی نجاست دور ہوتی تو دعا کرتے غُفُوَانَكَ پروردگار گناہوں کی نجاست دور کر دے۔

اسی طرح جب اپنی شکل کی خوبصورتی کی طرف دھیان جاتا تو ساتھ ہی اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لئے دعا کرتے۔ ہمیں بھی ہر وقت یہ اسوہ مد نظر رکھنا چاہیے۔

www.KitaboSunnat.com



بَابُ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ

ذکر اور دعا کا بیان

ذکر: یاد کرنا، زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ۔ یہاں مراد اللہ کا ذکر ہے۔

دُعَاء: بلانا۔ کسی کو کسی کام کے لئے یا مدد کے لئے بلانا۔ یا اس سے کچھ مانگنا۔ مراد اللہ کو پکارنا اور اس سے مانگنا ہے۔

دعا میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کو پکارنا اور اس سے مانگنا بھی۔ اس لئے ذکر کی فضیلت کی تمام احادیث اور آیات دعا پر بھی صادق آتی ہیں۔ اسی طرح ذکر کا اصل مقصد بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ بلکہ ہر عبادت میں اصل روح دعا ہی ہے۔ اس کی تفصیل الذُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا فرض ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (الغافر ۶۰/۴۰)

”تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو۔ میں تمہاری پکار قبول کروں گا یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

یہاں عبادت سے تکبر کرنے سے مراد دعا کرنے سے تکبر کرنا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ لَأَ يَدْعُو اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ» (صخحه الحاكم ۱/۴۹۱، وحسنه الألبانی

فی الضعیفہ (۱/ ۲۹)

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔“

کیا اللہ کے علم پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا جائز ہے: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت کا خود علم ہے تو اس سے دعا کی کیا ضرورت ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکنے لگے تو انہیں جبریل علیہ السلام ملے اور کہا ابراہیم! بتاؤ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں۔ کہا: پھر اپنے رب سے ہی سوال کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: حَسْبِيَ مِنْ سُؤْلِ عَلْمُهُ بِحَالِي مجھے اپنے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ کا میری حالت کو جاننا ہی کافی ہے یعنی جب وہ خود میری حالت دیکھ رہا ہے تو مجھے اس سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض صوفیوں نے اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا سُوْأَلُكَ مِنْهُ اِتِّهَامٌ لَّهٗ تَمَّارًا اللہ سے سوال کرنا اس پر تہمت لگانا ہے (کہ وہ مانگے بغیر نہیں دیتا) مگر ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ یہ روایت «حَسْبِيَ مِنْ سُؤْلِ» الخ بالکل ہی بے اصل ہے تفصیل کے لئے دیکھئے شیخ ناصر الدین البانی کی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث (۲۱)

صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا «حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ» ”مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔“ (بخاری۔ التفسیر ۱۲/ ۱۲) قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً سورہ ابراہیم میں:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿۲۵﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَلَنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۶﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۲۷﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا

خُفِي وَمَا نُعَلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
 الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
 دُعَاءِي ﴿٤٠﴾ (ابراہیم ۱۴/۳۵-۴۱)

تک دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ شعراء میں ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾ سے لے کر ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ تک کئی دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹے کے لئے دعا فرمائی۔ اہل مکہ کے لئے پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بہت سے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی دعا:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّنَا تَقْوِيرٌ لَّنَا وَرَحْمَةً لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾
 (الأعراف ۷/۳۲)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“
 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾﴾ (نوح ۷۱/۲۶)
 ”اے رب! زمین پر کسی کافر کو رہنے بنے والا نہ چھوڑ۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ (القصص ۲۸/۲۴)

”اے میرے رب! کوئی بھی خیر جو تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔“

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۗهُوَ أَمْسَى الضُّرِّ وَآتَىٰ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ ﴿٨٣﴾﴾
 (الانبیاء ۲۱/۸۳)

”ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے رب! یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

(الانبیاء: ۲۱/۸۷)

”تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں سے ہوں۔“

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

(الانبیاء: ۲۱/۸۹)

”اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔“

قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مثلاً فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

(طہ: ۲۰/۱۱۴)

”اور کہہ میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔“

اور فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سُلْطٰنًا نَصِيْرًا﴾

(بنی اسرائیل: ۱۷/۸۰)

”اور دعا کیا کریں کہ اے میرے رب! مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور

جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ

مقرر فرمادے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، صبح و شام کے وقت اور دوسرے تمام اوقات میں جو

دعائیں کرتے تھے کتب حدیث میں معروف ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر پڑھنے کا حکم دے کر سکھائی ہوئی

دعاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اوقات کی مناسبت سے کی ہوئی دعاؤں کے بعد بھی جو

شخص یہ کہتا ہے کہ دعا کی ضرورت نہیں بس اپنا کام اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے یا جس شخص کو شبہ رہتا ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا دعا سے خالی تفویض و تسلیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ پروردگار سے مناجات اس کے سامنے اپنی بندگی، اپنے عجز و فقر کے اظہار اور اپنے گناہوں کے اعتراف کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہے۔

ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے

۱/ ۱۴۵۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي سَفَتَاهُ» (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میرے ساتھ اس کے دونوں ہونٹ حرکت کریں۔“ (اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح کہا اور بخاری نے اسے تعلقاً سند حذف کر کے ذکر کیا ہے۔)

تخریج: ابن ماجہ (الادب / ۵۳) بخاری تعلقاً (التوحید / ۴۳) ابن حبان۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مفصل روایت ان الفاظ میں ہے:

«يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِي أَتَيْتُهُ

هَزْرَوْلَةٌ (بخاری التوحیدہ ۱)

”اللہ عزوجل فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ ایک باشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔“

فوائد: ① ذکر کے درجات: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ذکر کرے کیونکہ فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور میرے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کریں اگر صرف دل میں اللہ کو یاد کرے، تو یہ بھی ذکر ہے اور اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا دل میں رکھے او مسلسل اسے اپنی یاد میں رکھے تو یہ بھی ذکر ہے۔ اگر دل متوجہ نہ ہو اور زبان سے ذکر کر لے تو یہ بھی ذکر ہے اور فائدے سے خالی نہیں کیونکہ جب تک زبان ذکر کرے گی گناہ سے محفوظ رہے گی اور جسم انسانی کا کم از کم ایک عضو تو ذکر الہی میں مصروف ہو گا اللہ توفیق دے گا تو دل اور دوسرے اعضاء بھی شریک ہو جائیں گے۔

② اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی تین شخص آپس میں کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے پانچ ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ (المجادلہ: ۷) اس آیت میں مذکور معنی کے لحاظ سے عرش پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ معیت عامہ ہے ایک معیت (ساتھ) خاص بھی ہے جو خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل ۱۶/۱۲۸)

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو محسن ہیں۔“

اب جس کا خاص ساتھی اللہ تعالیٰ بن جائے اسے فکر کی کیا ضرورت ہے۔ یہی بات رسول اللہ ﷺ نے عارثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کے وقت فرمائی تھی ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (توبہ: ۳۰) ”غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر سامنے آجانے پر اپنی قوم سے کہی: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِي﴾ ”ہرگز نہیں یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا“ ذکر کی برکت سے یہ معیت حاصل ہوتی ہے اگر ذکر الہی کا کوئی اور فائدہ نہ ہو تو یہی فائدہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل ذکر الہی ہے

۱۴۵۱/۲۔ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجِي لَهُ
مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

”معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ذکر الہی سے بڑھ کر اسے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو۔“ (اسے ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج: [صحیح] (ابن ابی شیبہ (۳۵۵/۱۳) طبرانی فی المعجم الصغیر (حدیث ۲۰۹) مسند احمد (۲۳۹/۵) و صحیح الالبانی فی صحیح الجامع (۵۶۳۳) مسند احمد میں اسی سند کے ساتھ یہ

حدیث ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَذْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ تَعَاطِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ غَدًا فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ» (مسند احمد ۵/۲۳۹)

”کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے نزدیک تمہارے تمام اعمال سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند، تمہارے لئے سونا، چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور اس سے بھی بہتر ہے کہ کل تم اپنے دشمن سے ملو وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں مارو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! (ضرورت تھی) فرمایا ”اللہ کا ذکر“

فوائد: اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا کوئی عمل نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل ذکر الہی ہے۔ کیونکہ جب تک آدمی مسلمان نہ ہو عذاب الہی سے بچ ہی نہیں سکتا اور کلمہ اسلام کا بڑا حصہ ذکر الہی پر مشتمل ہے۔ یہی کلمہ قیامت کے دن نجات کا باعث ہو گا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل موقع پر اپنے ذکر کی تلقین فرمائی، دشمن سے مقابلہ کے وقت جو کہ قتل کرنے اور قتل ہونے کا وقت ہے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾﴾ (الأنفال ۸/۴۵)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے جب تم کسی جماعت سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

یونس رضی اللہ عنہ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے انہیں غم سے نجات دی اور

وعدہ فرمایا کہ ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ (الانبیاء: ۸۸)

ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرائے جانے کے وقت اور اصحاب رسول ﷺ نے جنگ احد کے بعد دشمنوں کے اجتماع کی خبریں سن کر ((حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) پڑھا تو اللہ کے فضل سے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ (بخاری: التفسیر ۱۲/)

کیا ذکر جہاد سے بھی افضل ہے؟: زیر بحث حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں سب سے بڑھ کر اور تمام اعمال سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اسے سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمنوں کی گردنیں مارنے اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بعض حضرات یہ بات نکال لیتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر اتنی فضیلت رکھتا ہے تو جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہیں رہ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارا یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے۔

لیکن یہ سوچ درست نہیں کیونکہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جب ذکر ہر چیز سے افضل ہے تو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح دوسرے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ بس گھر بیٹھ کر ذکر کرتے رہو اور سب سے اونچے درجے پر فاتر ہو جاؤ۔

اگر یہ بات درست ہو تو اللہ تعالیٰ نے جہاد پر نہ جانے والوں کو عذاب الیم کی بشارت کیوں دی۔ ان کا جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑا ہونے سے کیوں منع فرمایا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ حدیث میں وقت پر نماز اور والدین سے نیکی کے بعد جہاد کو سب اعمال سے افضل کیوں قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے زبان سے ہونے والے ذکر کو ہی ذکر سمجھا حالانکہ ذکر کا معنی یاد کرنا ہے زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے دل میں یاد کرنا بھی ذکر ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے لئے کوئی عمل کرنا بھی ذکر ہے بلکہ ذکر کا مکمل ترین درجہ ہے۔

دوسری غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ذکر اور جہاد کو ایک دوسرے کے مقابلہ پر رکھ لیا

ہے حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں کہ ایک وقت میں جمع نہ ہو سکتے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کی حقیقی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے ہی تمام عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ چنانچہ نماز کے متعلق فرمایا:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ ﴿١٤﴾ (طہ ۲۰/۱۴)

”نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو۔“

اس لئے اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے کیونکہ نماز کا اصل مقصد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ أَتَى مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الصَّلَاةِ تَنْهَى

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (العنکبوت ۲۹/۴۵)

”پڑھ جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کر یقیناً نماز بے

حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور بلاشبہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔“

جماد کا اصل مقصد بھی اللہ کا کلمہ دنیا میں غالب کرنا ہے:

«مَنْ قَاتَلَ لِنُكُونِ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

(بخاری/ الجہادہ ۱)

”جو شخص اس لئے لڑے کہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے وہ

فی سبیل اللہ ہے۔“

صدقات و حج و صیام بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی معتبر ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ کوئی بھی عبادت لالہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہونے اور اللہ کی رضا کی نیت دل میں رکھنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔

جب اللہ کا ذکر ہی ہر عبادت کا اصل ٹھہرا تو اس کے ہر عبادت سے افضل ہونے میں کیا شک ہے۔ اگر مقابلہ صرف ذکر جس کے ساتھ کوئی مزید عمل نہ ہو کے درمیان اور عمل مثلاً سونا، چاندی خرچ کرنے اور دشمنوں کی گردنیں مارنے (جس کے ساتھ ذکر نہ ہو)

کے درمیان ہو تو بلاشبہ ذکر افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل مثلاً جہاد یا نماز اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کی رضا کی نیت سے کیا جائے تو اس میں اللہ کا ذکر اور وہ عمل دونوں جمع ہو گئے۔ اب اگر اکٹھے ادا ہونے والے ان دونوں کاموں کے درمیان مقابلہ کیا جائے تو بلاشبہ نماز اور جہاد کے دوران اللہ کو یاد کرنا اور اس کو راضی کرنے کی نیت رکھنا اس نماز اور جہاد کے دوران دوسرے اعمال سے افضل ہے کیونکہ اللہ کی یاد اور اس کی رضا کا حصول ہر عمل کا اصل مقصد ہے۔ باقی چیزیں اس کے حصول کا ذریعہ ہیں اور مقصد بہر حال افضل ہوتا ہے۔

لیکن اگر مقابلہ کیا جائے اس ذکر کے درمیان جو گھر بیٹھ کر ادا ہو رہا ہے اور اس ذکر کے درمیان جو میدان جہاد میں ہو رہا ہے تو یقیناً میدان جہاد میں ہونے والا ذکر افضل ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ثابت قدمی کے ساتھ ذکر الہی پر زور دیا چنانچہ فرمایا:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ (الأنفال/ ٤٥)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

جب اللہ کی یاد دل میں لے کر، اس کو راضی کرنے کی نیت سے اس کا نام بلند کرنے کے لئے جہاد کیا جاتا ہے تو یہ خالی ذکر اور نفلی نمازوں اور روزوں میں کئے ہوئے ذکر سے فضیلت میں کئی درجے بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ گھر بیٹھ کر ذکر کرنے والے اللہ کی راہ میں نکل کر اس کا نام لے کر جہاد کرنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس بات کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (النساء/ ٩٥)

”اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔“

اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو“ آپ نے فرمایا ”مجھے ایسا کوئی عمل نہیں مل رہا۔“ فرمایا ”کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تم اپنی مسجد میں داخل ہو کر قیام شروع کر دو اور اس میں وقفہ نہ آنے دو اور روزہ رکھو اور بے روزہ نہ رہو“ اس نے کہا ”اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟“ (بخاری: الجہاد/۲)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَوْفِقٌ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ» (صحیح ابن حبان، شعب الإيمان للبيهقي - صحيح الجامع الصغير ۶۲۳۶)

”اللہ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے۔“

مجالس ذکر کی فضیلت

۱۴۵۲/۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔“ (اسے مسلم نے

(روایت کیا)

تخریج: مسلم (الذکر والدعاء/۳۸)

فوائد: ① مفصل حدیث: صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں اس حدیث کی تفصیل آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں 'آؤ اپنی مراد کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ انہیں ان سے زیادہ جانتا ہوتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں: تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا: وہ کہتے ہیں: نہیں اللہ کی قسم! انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ فرمایا: وہ کہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرمایا: وہ کہتے ہیں 'اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اس سے زیادہ عبادت اور اس سے بڑھ کر تیری بزرگی اور اس سے زیادہ تیری پاکیزگی بیان کریں۔ فرمایا پروردگار فرماتا ہے: تو وہ مجھ سے مانگتے کیا ہیں؟ کہا وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں فرمایا: کیا انہوں نے وہ دیکھی ہے؟ کہتے ہیں: نہیں اللہ کی قسم پروردگار انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا: اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ اس کی حرص اور اس سے بڑھ کر اس کی طلب اور اس سے زیادہ اس میں رغبت کریں۔ فرمایا: تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں: آگ سے فرمایا: کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں: نہیں اللہ کی قسم پروردگار! انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا: اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ وہ کہتے ہیں: اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھاگیں اور اس سے اور زیادہ ڈریں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے: ان میں فلاں آدمی ان سے نہیں تھا وہ تو صرف

کسی کام کے لئے آیا تھا۔ فرمایا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بے نصیب نہیں رہتا۔ (صحیح بخاری کتاب الدعوات/۶۶)

اس حدیث سے ذکر کی کیفیت، فرشتوں کا اہل ذکر کو گھیرنا اور اللہ تعالیٰ کا انہیں یاد کرنا تفصیل سے معلوم ہو گیا۔

② کیا اس سے مراد مروجہ مجالس ذکر ہیں؟: یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ان مجالس سے مراد اسی قسم کی مجلس ہی ہو سکتی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہوتی تھیں کیونکہ جو کام آپ ﷺ کے طریقے پر نہ ہو وہ مردود ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے مجالس ذکر کے نام پر دین میں کئی نئی چیزیں داخل کر دی ہیں۔ مثلاً تسبیح و تہمید و تجید وغیرہ جیسے با معنی مکمل جملوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے صرف لفظ ”اللہ“ کا تکرار کرنا، اسے سانس بند کر کے پڑھنا، سب کا مل کر اسے کورس کی شکل میں پڑھنا پھر عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالنا یہ سب کچھ دین میں اضافہ ہے اور اللہ کے قرب کی بجائے اس کی ذوری کا باعث ہے۔

اسی طرح کسی ایک صاحب کا حلقہ کو تلقین کرنا کہ اب سبحان اللہ اتنی دفعہ پڑھو اور فلاں کلمہ اتنی دفعہ پڑھو اور ان کا گٹھلیوں یا چنوں یا تسبیح پر اس تعداد کے مطابق پڑھنا بھی دین میں نئی ایجاد ہے۔

سنن دارمی میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صبح کی نماز سے پہلے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آئے جب وہ گھر سے نکلے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں نے ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے جو مجھے انوکھا معلوم ہوا اور میں نے الحمد للہ اچھا کام ہی دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کیا کام ہے؟ کہا زندہ رہے تو دیکھ لو گے۔ میں نے مسجد میں کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں ہر حلقے میں ایک آدمی (سربراہ) ہے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں وہ ان سے کہتا ہے سو دفعہ سبحان اللہ کہو تو وہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے سو دفعہ سبحان اللہ کہو تو وہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تم نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کی رائے یا آپ کے حکم کے انتظار کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا۔ فرمایا تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ اپنی برائیاں شمار کریں اور ان کے لئے اس بات کے ضامن کیوں نہ بنے کہ ان کی کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چلے اور ان کے ساتھ ہم بھی چلے یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس جا کر ٹھہر گئے فرمایا یہ کیا ہے جو میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا اے ابو عبدالرحمن! یہ کنکریاں ہیں جن کے ساتھ ہم تکبیر، تہلیل (لا الہ الا اللہ) اور تسبیح شمار کر رہے ہیں۔

فرمایا: تو تم اپنی برائیاں شمار کرو، میں ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی تم پر افسوس اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہلاکت کتنی جلدی ہو گئی یہ تمہارے نبی کے اصحاب بہت تعداد میں موجود ہیں یہ آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ٹوٹے نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم یا تو ایسی ملت پر ہو جو ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والی ہے یا گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے ابو عبدالرحمن! اللہ کی قسم! ہم نے تو صرف خیر کا ہی ارادہ کیا ہے۔ فرمایا کتنے ہی خیر کا ارادہ کرنے والے ہیں جو اسے ہرگز حاصل نہ کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ ایک قوم قرآن پڑھے گی وہ ان کی ہنسیوں سے نہیں گزرے گا اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا شاید ان میں سے اکثر لوگ تمہیں میں سے ہوں۔ عمرو بن سلمہ نے کہا ہم نے ان حلقوں والے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزوں سے حملہ آور ہوئے۔ (سنن دارمی باب فی کراہیۃ اخذ الراۃ حدیث (۲۰۴)

اس سے معلوم ہوا کہ مروجہ حلقہ ہائے ذکر جن میں کسی ایک صاحب کی ہدایت پر کنکریوں، یا تیسیموں پر خاص تعداد میں ذکر کروایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تا لوٹا اور گدا اٹھانے والے خادم خاص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اسے گمراہی قرار دیا کیونکہ یہ بظاہر نیکی ہونے کے باوجود دین میں اضافہ ہے جو

سراسر گمراہی ہے۔

ذکر اور صلاۃ سے خالی مجلس باعث حسرت ہوگی

٤/١٤٥٣۔ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
الله ﷺ «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ
يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی قوم
ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا نہ نبی
ﷺ پر صلاۃ بھیجی مگر وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے حسرت کا
باعث ہوگی۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حسن ہے)

تخریج: [صحیح] (ترمذی ٣٣٨٠) ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے اور البانی نے
صحیح الترغیب والترہیب میں اسے صحیح کہا ہے (٣١/١) دیکھئے تحفۃ الاشراف (١٠/٣٢٥) مزید
دیکھئے سلسلہ صحیح (٤٦)

فوائد: ① اللہ کے ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ سے خالی مجلس باعث حسرت
ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (الاحزاب ٤١/٣٣)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرنا۔“

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(الاحزاب ٥٦/٣٣)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اس (نبی) پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔“
 ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام بھیجنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے صبح و شام کے مختلف اوقات میں جو ذکر مروی ہیں انہیں یاد کر کے ان اوقات میں پڑھنا چاہیے یاد نہ ہو سکیں تو کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ بھی بعض مقامات پر ضروری ہو جاتی ہے۔ مثلاً نماز کے تشہد میں اور آپ ﷺ کے ذکر کے وقت صلاۃ پڑھنا لازم ہے۔ اس حدیث میں آپ نے رہنمائی فرمائی کہ مسلمان کو ہر مجلس میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن اسے حسرت و افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اس بات کا خیال رکھے گا کہ میری کوئی مجلس اللہ کے ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ سے خالی نہ ہو تو اسے اللہ کے ذکر کی اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ کی عادت ہو جائے گی اور جب کسی کام کی عادت ہو جائے تو وہ انسان کی طبیعت بن جاتا ہے اور اس کے لئے مشکل نہیں رہتا بلکہ خود بخود آسانی سے ادا ہوتا رہتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْحُكْمُ فِي فَضِيلَتِهِ

۱۴۵۴/۵ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دس مرتبہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ الخ (اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) وہ اس شخص کی طرح ہو گا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار شخص آزاد کئے۔“ (متفق علیہ)

تخریج : بخاری (۶۳۰۳-۶۳۰۴) مسلم (الذکر والدعاء/۳۰) وغیرہما دیکھئے تحفۃ الاشراف (۹۳/۳)

فوائد : یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بھی ہے جو سب سے بہتر ذکر ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے جو سب سے بہتر دعا ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

«أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ»
(ترمذی/ الدعوات، باب: ۹)

”افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ ہے۔“

علاوہ ازیں اس کلمہ میں ملک صرف اللہ کا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

”سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ“ الخ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اگر ہو سکے تو روزانہ سو دفعہ پڑھے اگر فرصت کم ہو تو دس دفعہ پڑھ لے ورنہ ایک دفعہ ہی پڑھ لے۔

سو دفعہ پڑھنے کی فضیلت: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" مِائَةً مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ» (بخاری / الدعوات ۶۴)

”جو شخص لالا الہ الا اللہ وحدہ (الخ) سو مرتبہ کہے تو یہ اس کے لئے دس گردنوں (کے آزاد کرنے) کے برابر ہو گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور یہ کلمہ اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی شخص نہیں آئے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔“

دس دفعہ پڑھنے کی فضیلت: بلوغ المرام کی زیر تشریح حدیث میں اوپر بیان ہوئی ہے جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ایک دفعہ پڑھنے کی فضیلت: ابو عیاش زرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت کہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تو یہ اس کے لئے اولاد اسماعیل میں سے ایک گردن کے برابر ہو گا اور اس سے دس گناہ معاف کئے جائیں گے اور اس کے دس درجے بلند کئے جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور جب شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اسی طرح رہے گا۔ (ابن ماجہ (کتاب الدعاء) السنن الکبری للنسائی (۹۸۵۵) البانی نے اسے صحیح کہا دیکھئے صحیح سنن ابن ماجہ (۳۱۱۸))

② گردن آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایک مسلم گردن (لونڈی یا غلام) آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا حتیٰ کہ اس کی شرم گاہ اس کی شرم گاہ کے بدلے آزاد کر دے گا۔ (متفق علیہ، مشکوٰۃ کتاب العتق)

اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیوں؟ ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی ﷺ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، میں نے پوچھا گردنوں (غلاموں) میں سے کون (آزاد کرنا) افضل ہے؟ فرمایا جو قیمت میں زیادہ اور اپنے مالکوں کے نزدیک زیادہ نفیس ہو۔ (متفق علیہ، مشکوٰۃ کتاب العتق)

یہ بات ظاہر ہے کہ خاندانی شرف کے لحاظ سے اولاد اسماعیل علیہ السلام دو سروں سے برتر ہے رسول اللہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اس لئے ان کا آزاد کرنا بھی زیادہ ثواب ہے۔

اتنے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ منکرین حدیث اس قسم کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھئے اتنے تھوڑے سے عمل پر سب گناہ معاف ہو گئے چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو، ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو تو گردن آگ سے آزاد ہو گئی۔ یہ تو لوگوں کو بے عمل بنانے کی ترغیب ہے، مگر منکرین حدیث کا یہ اعتراض بے کار ہے کیونکہ تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا ثواب تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾ (النساء، ۱۱۰/۴)

”جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کر لے وہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا۔“

کہنے والا اس پر بھی کہہ سکتا ہے کہ بے شک چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو بس استغفر اللہ کہہ دو تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ کیا یہ بے عمل بنانے کی ترغیب نہیں پھر حدیث ہی پر اعتراض کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ صرف مسلمانوں میں شمار ہونے کے لئے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی برا عمل کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف منہ سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ نہیں! بلکہ وہ دل سے توبہ کر رہا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ چوری، زنا اور قتل والی زندگی کو چھوڑ رہا ہے لفظ استغفر اللہ ان سب کاموں کا خلاصہ ہے جو زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چوری، زنا، قتل اور سب گناہ جاری رہیں نہ ندامت ہو نہ رجوع اور صرف استغفر اللہ کہنے سے سب کچھ معاف ہو جائے۔ ایسا استغفر اللہ تو ممکن ہے خود باعث گرفت ہو جائے۔

یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح نکاح کے وقت منہ سے صرف یہی کہا جاتا ہے ”میں نے قبول کیا“ مگر اس کی تفصیل وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو یہ کہنے کے بعد خود بخود عائد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بیوی کا نان و نفقہ، رہائش علاج اور دوسری انسانی ضروریات۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف ”قبول کیا“ کے لفظ سے ہی صاحب اولاد بن جاؤں گا تو یہ اس کی حماقت ہے۔

اب اس مبارک کلمہ پر غور فرمائیں جس کی فضیلت زیر بحث حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کلمہ میں سب سے پہلے اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شہادت کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کو واحد معبود مان کر پھر غیر کی پرستش کرتا ہے یا اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ کی مرضی پر اپنی یا کسی غیر کی مرضی کو ہر بات میں مقدم رکھتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ یہ کلمہ تو معبود کی مرضی کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا اقرار ہے۔

مرشد رحمۃ اللہ علیہ ایک مہم پر رات مکہ میں گئے تو ان کی پرانی آشنا ”عناق“ نے انہیں اپنے ہاں رات گزارنے کی دعوت دی۔ فرمانے لگے: عناق! میرے اور تمہارے درمیان اسلام رکاوٹ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ (صحیح الترمذی: التفسیر ۲۵۱)

دوسری شہادت اس کلمہ میں اس بات کی دی گئی ہے کہ بادشاہی اور حکومت صرف اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ شہادت دینے والا کسی اور کو یہ حق

دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں قانون بنائے اور جو چاہے حکم چلائے وہ یہ بھی نہیں مان سکتا کہ حکومت اللہ کا نہیں بلکہ عوام کا حق ہے یا بادشاہ سلامت کا فرمان ہی قانون ہے۔

تیسری شہادت یہ ہے کہ حمد صرف اللہ کی ہے کیونکہ کسی اور میں حمد کے قابل کوئی خوبی ہے ہی نہیں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ خوبی عطا فرمائی ہے اور جب چاہے وہ اس سے سلب کر سکتا ہے۔ اب جو شخص اکیلے اللہ کی تعریف کے وقت دل تنگ ہو جائے اور غیروں کی تعریف کے وقت اس کے دل کی کلی کھل اٹھے وہ کروڑ دفعہ بھی یہ کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔

چوتھی شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکے اس حقیقت پر دل سے یقین رکھنے والا شخص مشکل سے مشکل حالات میں بھی ناامید نہیں ہوتا شیطان اسے اللہ کی رحمت سے ناامید کر کے دل شکستہ کر سکتا ہے نہ کسی اور کے در پر جھکا سکتا ہے۔

اس مختصر سی تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اس کلمہ کے پڑھنے سے گردنیں آزاد کرنے کا ثواب کیوں ہوتا ہے گناہ معاف اور درجے بلند کیوں ہوتے ہیں اور آدمی شیطان سے کیوں محفوظ ہوتا ہے؟ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص کو اس سے غرض ہی نہیں کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا عمل سراسر اس کے خلاف ہے تو اسے یہ فضیلت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایک ہی عمل پر ثواب مختلف کیوں ہے؟: بعض اوقات یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ احادیث میں ایک ہی عمل پر مختلف ثواب کیوں آئے ہیں کسی حدیث میں کم ثواب بیان کیا گیا ہے کسی میں زیادہ جیسا کہ ایک حدیث میں دس دفعہ یہ کلمہ پڑھنے پر چار غلام آزاد کرنے کا ثواب مذکور ہے، دوسری میں دس غلام آزاد کرنے کا ذکر بھی آتا ہے تو اس کی وجہ ان کلمات کو پڑھنے والے لوگوں کی دلی کیفیت اور عملی حالت کا مختلف ہونا ہے۔

دل کا یقین اور عمل کی عمدگی جس قدر زیادہ ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ جن کا عمل متفاوت ہو ایک جیسے ثواب کے حقدار کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَجْعَلُهُمْ وَمَآئِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ﴿٢١﴾

(الجاثیہ ۴۵/۲۱)

”کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمالیٰ ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے۔ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی۔ برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔“

سبحان اللہ و بحمہ کی فضیلت

۱۴۵۵/۶۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمہ (یعنی میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں) اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہوں) کہے اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں۔“ (متفق علیہ)

فوائد: ① سبحان اللہ و بحمہ کا مفہوم: اس بابرکت کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات

کمال جمع ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آدمی صفات کا خلاصہ سبحان اللہ میں آ گیا ہے کیونکہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس عیب اور کمی سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس کی اولاد یا بیوی ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگھ نہ اس پر موت آئے گی، نہ ظالم ہے، نہ بخیل، نہ اسے کسی کا خوف ہے، نہ لالچ، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کے ہاتھوں مجبور۔ غرض کوئی بھی عیب یا کمی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی تسبیح کی جاسکے کہ وہ ہر کمی سے پاک ہے حتیٰ کہ سید ولد آدم رسول اللہ ﷺ کے متعلق بھی سبحان اللہ کی طرح سبحان الرسول نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مخلوق اور انسان ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی بے شمار ضرورتیں لائق تھیں آپ اللہ کے محتاج تھے اور اس کے سامنے بے بس۔

اور باقی آدمی صفات کا خلاصہ الحمد للہ میں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ خوبی جو کمال کا باعث ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو قائم رکھنے والا، تمام زمینوں اور آسمانوں کا مالک، ہر چیز سے باخبر، ہر چیز پر قادر، رحمان رحیم اور قیامت کے دن کا مالک ہے غرض تمام خوبیاں جو باعث تعریف ہیں اسی میں پائی جاتی ہیں۔ و بجزہ اور الحمد للہ ایک ہی بات ہے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ سو مرتبہ پڑھنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ مزید فوائد کے لئے دیکھئے اس کتاب کی آخری حدیث۔

سبحان اللہ و بجزہ پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ

۱۴۵۶/۷ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ قُلْتُ بِعَدِكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا یقیناً میں نے تمہارے بعد چار کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن اس کے ساتھ کیا جائے جو تم نے آج سے لے کر کہا ہے تو یہ کلمات اس سے بھاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ (اللہ پاک ہے اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہوں) اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کے نفس کی رضاء کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (الدعاء/ ۱۹) وغیرہ۔ مسلم میں لفظ یہ ہیں کہ میں نے تمہارے بعد تین مرتبہ چار کلمات کہے ہیں۔ الخ۔

مفردات: عَدَدَ خَلْقِهِ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی أُسْبِحُ اللَّهُ سُبْحَانًا عَدَدَ خَلْقِهِ دوسرے کلمات بھی اسی طرح ہیں۔

فوائد: ① مکمل حدیث: جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ صبح ان کے پاس سے نکلے جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور وہ اپنی مسجد میں بیٹھی تھیں دوپہر ہونے پر آپ واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی تھیں آپ نے فرمایا میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا کیا تم اسی حال پر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی ﷺ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن اس کے ساتھ کیا جائے جو تم نے آج سے لے کر کہا ہے تو یہ وزن میں اس سے بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ الخ۔ (مسلم / الذکر والدعاء- ۱۹)

② حدیث کا مطلب: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اتنی

دفعہ بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اس کی تسبیح و تحمید اتنی دفعہ بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جس سے وہ راضی ہو جائے اتنی مقدار میں تسبیح و تحمید کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو اور اتنی تعداد میں تسبیح و تحمید کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جس کو لکھنے کے لئے اتنی سیاہی درکار ہو جس سے اس کے کلمات لکھے جاسکیں۔ (جس کے لئے ساتوں سمندر دو دفعہ سیاہی بن جائیں تو لکھے نہ جاسکیں)

www.KitaboSunnat.com

قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے ان کلمات کو اتنی کثرت سے ذکر کرنے سے جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو یہ عزم و ہمت رکھنی چاہیے کہ اگر مجھے طاقت و قدرت حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید اتنی تعداد میں کروں جو حد و عدد اور شمار و قطار سے باہر ہو تو میں کرتا ہی رہوں گا اس کے نتیجے میں اس کو ثواب بھی شمار سے بڑھ کر ملے گا۔ (توضیح)

③ گٹھلیوں یا تسبیح وغیرہ کی بجائے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہیے: بعض روایات میں ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے بعض صحابیات نے گٹھلیوں یا کنکریوں پر شمار کر کے ذکر کیا تو آپ نے انہیں اس سے بہتر کی تلقین فرمائی مگر گٹھلیوں یا کنکریوں پر شمار کرنے سے منع نہیں فرمایا اس سے بعض لوگ مروجہ تسبیح یا گٹھلیوں وغیرہ پر اذکار پڑھنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے گٹھلیوں یا کنکریوں وغیرہ پر پڑھنے کی کوئی روایت ثابت نہیں نہ خود آپ نے کبھی گٹھلیوں یا کنکریوں پر شمار کر کے پڑھا نہ ہی یہ آپکا طریقہ تھا بلکہ ہاتھ پر گن کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ»

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح کی گرہ باندھتے تھے۔“ (ابوداؤد (۲۳۵/۱) ترمذی (۲۵۵/۳) ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ حاکم (۵۴۷/۱) بیہقی (۲۵۳/۲) شیخ البانی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے جیسا کہ ذہبی

نے فرمایا ہے۔ (سلسلہ ضعیفہ تحت حدیث / ۸۳)

علاوہ ازیں رسول اللہ ﷺ نے بعض عورتوں کو انگلیوں پر تسبیح کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتُسْنِنَنَّ
الرَّحْمَةَ وَأَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ»
(صحیح الترمذی ابواب الدعوات، باب ۸)

”تم تسبیح، تہلیل اور تقدیس کو لازم پکڑو اور غافل نہ ہو جانا ورنہ رحمت سے
فرااموش کر دی جاوے گی اور انگلیوں کے پوروں سے گرہیں باندھو کیونکہ یہ سوال کی
جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔“ (صحیح الترمذی۔ ابواب الدعوات / باب ۸: حاکم اور
ذہبی نے اسے صحیح کہا۔ نووی اور عسقلانی نے اسے حسن کہا۔ شیخ البانی نے بھی
اسے حسن کہا ہے۔ (سلسلہ ضعیفہ تحت حدیث / ۸۳)

عروں کے ہاں انگلیوں پر گننے کا ایک خاص طریقہ ہے جس سے دس ہزار تک آسانی
سے گنا جاسکتا ہے۔ بعض حضرات نے عقد انامل پر رسالے بھی لکھے ہیں۔ تحفۃ الاحوذی
(الدعوات / باب فضل لاحول ولاقوة الابالہ) میں تفصیل کے ساتھ یہ طریقہ مذکور ہے کسی
عالم سے جو یہ طریقہ جانتا ہو سیکھ لینا چاہیے اور سنت کے مطابق ہاتھوں پر تسبیح وغیرہ پڑھنا
چاہیے۔

④ گھٹلیوں اور تسبیح کے جواز کی روایات: گھٹلیوں پر ذکر کرنے کے جواز کی جو روایات
پیش کی جاتی ہیں ان کا مختصر سا جائزہ یہ ہے:

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے
ساتھ ایک عورت کے پاس آئے اور اس کے سامنے گھٹلیاں یا
کنکریاں تھیں جن کے ساتھ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں
جو اس سے آسان یا اس سے بہتر ہے؟ فرمایا «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ» الخ۔
”میں اللہ کی پاکی اس کی آسانی مخلوق کے برابر بیان کرتا ہوں۔“ (ابوداؤد (۲۳۵/۱) ترمذی
(۲۸۷-۲۷۷/۳) ترمذی نے اسے حسن کہا اور حاکم نے فرمایا صحیح الاسناد اور ذہبی نے ان

پہلی روایت

کی موافقت کی۔ اس کی سند اس طرح ہے:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا

”شیخ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ اسے حسن یا صحیح کنا خطا ہے کیونکہ اس میں
خزیمہ راوی مجہول ہے خود ذہبی نے ”المیزان“ میں فرمایا خُزَيْمَةَ لَا يُعْرَفُ تَفَرَّدَ عَنْهُ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ خُزَيْمَةَ پچھانا نہیں جاتا اس سے اکیلے سعید بن ابی ہلال روایت
کرتے ہیں۔“

اسی طرح حافظ نے تقریب میں فرمایا لَا يُعْرَفُ اور سعید بن ابی ہلال کے ثقہ ہونے کے
باوجود ساتھی نے احمد سے بیان کیا کہ انہیں اختلاط ہو گیا تھا۔ تو یہ حدیث حسن یا صحیح کیسے
ہو گی؟ (سلسلہ ضعیفہ تحت حدیث / ۸۳)

صفحہ ۱۸۸ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور
میرے سامنے چار ہزار گٹھلیاں تھیں جن کے ساتھ میں تسبیح کر رہی
تھی آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں انکے ساتھ تسبیح کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا
جب سے میں تمہارے پاس آکر کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ لی ہے۔ میں
نے کہا یا رسول اللہ! مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہو: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ» ترمذی (۲۷۳/۳) وغیرہ۔ سند اس طرح ہے ہاشم بن سعید عن کنانہ مولى
صفیة بنتی (أبی عن صفیة) ترمذی نے اس روایت کو یہ کہہ کر ضعیف قرار دیا:

”یہ حدیث غریب ہے ہم اسے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے جو ہاشم بن سعید الکوفی
کی روایت سے ہے اور اس کی سند معروف نہیں اور اس مسئلہ میں ابن عباس سے
بھی روایت ہے۔“

البتہ حاکم نے فرمایا: ”صحیح الاسناد ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی۔ حالانکہ ذہبی کا
کہنا تعجب کی بات ہے کیونکہ ذہبی نے خود اس ہاشم بن سعید کو میزان میں ذکر کر کے
فرمایا۔“ ابن معین نے فرمایا: ”وہ کچھ بھی نہیں“ اور ابن عدی نے فرمایا: ”جتنی روایتیں

بیان کرتا ہے کسی میں اس کی متابعت نہیں کی جاتی۔“

اسی لئے حافظ نے تقریب میں فرمایا: ”ضعیف“ اور یہ کنانہ مجہول الحال ہے جس کی توثیق ابن حبان کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ (سلسلہ ضعیفہ تحت حدیث / ۸۳) ان دونوں روایتوں کے ضعف کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم میں یہ قصہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکور ہے جیسا کہ اوپر بلوغ المرام میں گزرا ہے مگر اس میں گھلیوں وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔

نَعْمَ الْمَذْكُورُ الشُّبْحَةُ تَسْبِیحُ بَسْتِ اِجْمَعِي يَادُ دِهْلَانِي كِرْوَانِي وَالِي هِيَ۔
اسے دیلمی نے ”مسند الفردوس“ میں روایت کیا ہے۔ شیخ البانی اس کی سند ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ سند ظلماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ کی مصداق ہے اس کے اکثر راوی مجہول ہیں اور محمد بن ہارون بن عیسیٰ بن منصور الهاشمی کے متعلق تاریخ خطیب میں ہے۔“ اس کی کنیت ابواسحاق ہے اور ابن بریہ کے نام سے معروف ہے اس کی حدیث میں بہت سی منکر روایات ہیں اور دارقطنی نے فرمایا لَأَسْنَىءُ“

ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں فرمایا: ”حدیث گھڑتا ہے“ پھر اس کی ایک روایت ذکر کر کے فرمایا کہ ”یہ اس کی گھڑی ہوئی روایات میں سے ہے۔“ خطیب نے بھی ایک مقام پر اس کے متعلق فرمایا:

أَلْهَاشِمِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ بَرِيَّةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ يَنْهَمُ بِالْوَضْعِ (۴۰۳/۷)
”ہاشمی ہے ابن بریہ کے نام سے معروف ہے کمزور حدیث والا ہے اس پر حدیثیں گھڑنے کی تمہت لگائی جاتی ہے۔“

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مروجہ تسبیح کے لئے سب سے پہلے عرب میں داخل ہی بعد میں ہوا ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ (سلسلہ ضعیفہ حدیث / ۸۳)

مروجہ تسبیح کے فوائد اور نقصانات: بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح کی ضرورت اس

لئے پڑتی ہے کہ ہاتھوں پر زیادہ پڑھنا ہو تو آدمی بھول جاتا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں۔ اس ضرورت کا باعث ایک اور بدعت بنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تعداد اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مقرر نہیں فرمائی تھی وہ لوگوں نے خود مقرر کر لی جس کے نتیجے میں انہیں تسبیح کی یہ بدعت اختیار کرنی پڑی۔ کیونکہ سنت صحیحہ میں زیادہ سے زیادہ جو تعداد مجھے (البانی صاحب کو) اس وقت یاد ہے وہ ایک سو ہے اور جس شخص کو انگلیوں پر گننے کی عادت ہو وہ اسے آسانی سے انگلیوں پر گن سکتا ہے۔

مروجہ تسبیح کا اگر اور کوئی نقصان بھی نہ ہو تو اتنا ہی بہت ہے کہ اس سے ذکر کا مسنون طریقہ یعنی انگلیوں پر ذکر کرنا تقریباً ختم ہو گیا ہے حالانکہ تسبیح پر ذکر کرنے والے بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہاتھوں پر گننا افضل ہے آپ جس بزرگ کو بھی دیکھیں گے وہ مروجہ تسبیح پر ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ الا ماشاء اللہ۔

الباقیات الصالحات

۱۴۵۷/۸ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

”ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باقی رہنے والے نیک عمل یہ (کلمات) ہیں: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))“ (اسے نسائی نے روایت کیا اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج: [صحیح] (نسائی فی عمل الیوم واللیلۃ) (۸۳۵، ۸۳۷) ابن حبان (۸۳۰/۳) حاکم (۵۱۲/۱)

فوائد: باقی رہنے والے نیک اعمال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (الكهف ۱۸/۴۶)

”باقی رہنے والے نیک عمل تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور

امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔“

اس حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ کلمات الباقیات الصالحات ہیں جن کا اجر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا۔ اس سے ان کلمات کا الباقیات الصالحات ہونا ثابت ہوا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے اعمال الباقیات الصالحات نہیں کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ الباقیات الصالحات یہی عمل ہیں ان کے علاوہ کوئی عمل الباقیات الصالحات میں شامل نہیں بلکہ اس آیت کی تفسیر علی بن ابی طلحہ کی صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات سے مراد: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد، صلہ رحمی اور تمام اچھے اعمال ہیں اور یہی باقی رہنے والے صالح عمل ہیں جو یہ اعمال کرنے والوں کے لئے جنت میں آسمان و زمین قائم رہنے تک باقی رہیں گے۔ مفسر ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔“ (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب کلام

۱۴۵۸/۹ - وَعَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کلام میں سب سے زیادہ محبوب چار (کلمات) ہیں ان میں سے جس سے شروع کر لو تمہیں کچھ نقصان نہیں۔ ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ))“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (الذعاء/۳۸) وغیرہ

فوائد: ① اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں اور یہ بھی کہ ان میں ترتیب ضروری نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ مکمل کلمہ ہے اور دوسرے کلمے پر موقوف نہیں کہ اگر وہ پہلے ذکر نہ ہو تو مطلب میں خرابی واقع ہو جائے۔ احادیث میں علیحدہ علیحدہ ان کلمات کی اور ملا کر ان کے مجموعے کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ ان سب کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ یہ فضیلت ہی بہت بڑی ہے کہ یہ احب الکلام ہیں اور الباقیات الصالحات ہیں۔ اس لئے انہیں عام طور پر ورد زبان رکھنا چاہیے۔

② ان کلمات کی ایک خاص فضیلت۔۔۔ قبولیت دعا۔۔۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جو شخص رات کو جاگے اور یہ کلمات پڑھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند و عظیم ہے۔“

اس کے بعد خواہ یہ کہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی بھی دعا کرے قبول ہوگی۔ اگر اٹھ کر وضوء کرے اور نماز پڑھے تو قبول ہوگی۔) بخاری مع الفتح (۳۹/۳)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ كِي فَضِيْلَتِ

۱۰/۱۴۵۹۔ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ النَّسَائِيُّ: «لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ»)

”ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عبد اللہ بن قیس! کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ہے۔“ (متفق علیہ۔ نسائی نے یہ الفاظ زیادہ کئے لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ یعنی ”اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں، مگر اسی کی طرف۔“

تخریج: بخاری (۶۳۸۴) مسلم (الدعاء/۴۴-۴۵) نسائی میں ابو موسیٰؓ سے اس روایت میں لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ کے الفاظ مجھے نہیں ملے۔ (واللہ اعلم)

فوائد: ① حَوْلَ کا معنی ہے حرکت کرنا، پھرنا، کسی کام پر پوری طرح قدرت رکھنا، اسی طرح قُوَّةَ کا معنی بھی کسی کام کی طاقت رکھنا ہے۔ اہل علم اس کا معنی بیان فرماتے ہیں: لَا حَوْلَ یعنی نقصان اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں۔ وَلَا قُوَّةَ اور نہ نیکی کرنے کی یا فائدہ حاصل کرنے کی کوئی قوت ہے، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔

② اس کلمے کی اس قدر فضیلت اس لئے ہے کہ اسے کہنے والا شخص مکمل طور پر اپنے

آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اسی کے تابع ہو جاتا ہے، اسی کا مطیع ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا اگر وہ مدونہ کرے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

③ خزانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفیس ترین کلمہ ہے کیونکہ آدمی اسی چیز کا خزانہ کرتا ہے جو نہایت نفیس اور قیمتی ہو۔ اس کلمے کا ثواب بھی نہایت نفیس خزانہ کی صورت میں آدمی کے لئے جمع رہے گا۔

دعا ہی اصل عبادت ہے

۱۱/۱۶۶۰۔ وَعَنْ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پکارنا ہی عبادت ہے۔“ (اسے چاروں نے روایت کیا اور ترمذی نے صحیح کہا۔)

تخریج: [صحیح] (ابوداؤد (۱۳۷۹) ترمذی (۳۲۳۷) ابن ماجہ (۳۸۲۸) نسائی (۱۱۳۶۳/۶/۳۵۰) البانی نے اسے صحیح کہا۔ دیکھئے صحیح الترمذی (۲۳۷۰)

عبادت کا مغز

۱۲/۱۶۶۱۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: «الدُّعَاءُ مُغْزُ الْعِبَادَةِ»

”اور ترمذی کے لئے انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ان لفظوں میں ہے کہ

پکارنا عبادت کا مغز ہے۔“

تخریج: [ضعیف] (ترمذی (۳۲۷۱) اس میں ابن لہیعہ راوی سینی الحفظ ہے۔ صحیح روایت میں الدعاء هو العبادة ہی ہے۔

اللہ کے ہاں عزت والی چیز۔۔ دُعا۔۔

۱۴۶۲/۱۳۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ» (وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ)

”اور ترمذی میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے انہوں نے مرفوع بیان کیا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی نہیں۔“ (اسے ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا۔)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۳۳۷۰) ابن ماجہ (۳۸۲۹) ابن حبان (۸۷۰/۳) حاکم (۴۹۰/۱) اور دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۶۶۰۹) البانی نے فرمایا حسن ہے۔ صحیح الترمذی (۳۲۸۳) فوائد: ① دعا ہی عبادت ہے: انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے چنانچہ فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات ۵۱/۵۶)

”اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا، مگر اس لئے کہ میری عبادت کریں۔“

پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف صورتیں ہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع، کرنا، سجدہ کرنا، زبان سے اسے پکارنا، اسکی راہ میں صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا، جہاد کرنا۔ وغیرہ، سب عبادات ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ پکارنا ہی عبادت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے پکارنا ہی عبادت ہے بلکہ اس کا

مطلب یہ ہے کہ عبادت خواہ کوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی راہ گزر پر ہاتھ پھیلا کر خاموش کھڑا ہو جائے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اسکا مقصد گزرنے والوں سے مانگنا ہے۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کیلئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جانا، کبھی رکوع کرنا، کبھی سجدہ کرنا، کبھی دور دراز سے سفر کر کے فقیری بھیس بنا کر اس کے گھر کے چکر لگانا، اس کے نام پر جانور قربان کرنا، کبھی اسے خوش کرنے کیلئے صبح سے شام تک اپنی مرغوب چیزیں چھوڑ دینا، کبھی گھر کے آرام و آسائش کو چھوڑ کر اس کے دشمنوں کو مارنا اور ان کے ہاتھوں مرنا اور دوسری تمام عبادات اصل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اس سے مانگنے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (المؤمن ۶۰/۴۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔

② غیر اللہ کو پکارنا شرک فی العبادۃ ہے: بعض لوگ اپنی ضرورت میں اور مصیبتوں کے وقت اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں کوئی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے کوئی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو، کوئی کسی پیغمبر کو پکارتا ہے، کوئی کسی فوت شدہ بزرگ کو حالانکہ یہ پکارنا ہی عبادت ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ فوت شدہ حضرات نہ کسی کی پکار سنتے ہیں نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾ (الاحقاف ۶۰/۴۶)

﴿كٰفِرِيْنَ﴾ (الاحقاف ۶۰/۴۶)

”اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں اور

جب لوگ اکٹھے کئے جائیں گے تو وہ (جنہیں پکارا گیا) ان (پکارنے والوں) کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے بن جائیں گے۔“

اس آیت میں مشرکین کے غیر اللہ کو پکارنے کو ان کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں صرف ایک اللہ کو پکارنے کی تاکید اور غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت کی گئی ہے۔ چند آیات بمع نمبر و سورت درج کی جاتی ہیں۔ کسی مترجم قرآن مجید سے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ (فاطر: ۳۵، ۳۳)؛ (الانعام: ۷۱)؛ (غافر: ۷۴)؛ (النمل: ۶۲)؛ (یونس: ۱۰۶)؛ (اعراف: ۳۷، ۱۹، ۱۹)؛ (الحج: ۷۳)؛ (الزمر: ۳۸)؛ (الرعد: ۱۳)؛ (النحل: ۳۰)؛ (سبا: ۲۲)؛ (الحج: ۲۰)؛ (الاحقاف: ۴۶)

③ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں“ کیونکہ اس نے جن وانس کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے اس لئے اس کی دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عزیز نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلْ مَا يَسْبُؤُا كُفْرًا تَلُوْنَ لَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ (الفرقان ۲۵/۷۷)

”کہہ دیجئے! میرا پروردگار تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہو۔“

اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی

۱۴/۱۶۶۳- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ» (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ)

”اس رسول ﷺ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔“ (اسے نسائی وغیرہ نے روایت کیا اور ابن حبان اور دوسروں نے صحیح کہا)

مخبر: [صحیح] (نسائی عمل الیوم واللیلہ (۶۷) ابن حبان (۱۶۹۶/۳) وغیرہما البانی نے صحیح کہا ہے۔ ارواء الغلیل (۲۳۳/۱)

وَأَنَّ: اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو وہ اسے قبول کرتا ہے۔ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ غَوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (خاف: ۶۰) اس میں وقت کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں اگر کوئی مانع ہو تو الگ بات ہے مثلاً روزی حرام ہو یا اللہ تعالیٰ بندے کی کسی سرکشی کی وجہ سے اسے رحمت کی نظر سے دیکھنا ہی گوارا نہ کرتا ہو۔ وغیرہ۔

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کی دعا بھی قبول کر لے، جیسا کہ اس نے شیطان کی دعا قبول کر کے اسے قیامت تک کے لئے مہلت دے دی اس لئے مسلمان کو خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو کبھی دعا کی قبولیت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے خصوصاً اس لئے بھی کہ بعض وقت ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ مثلاً لیلۃ القدر، عرفہ کا دن، ماہ رمضان، جمعہ کا دن، رات کے درمیان، فرض نمازوں کے بعد، سجدہ کی حالت میں، روزہ افطار کرنے کے وقت، جنگ میں دشمن سے مڈبھیڑ کے وقت وغیرہ۔

ان اوقات میں سے ایک وقت زیر شرح حدیث میں بیان ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہمیں اس وقت کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

۱۴۶۴/۱۵۔ وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَخِينُ مِنْ

عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»
(أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

”مسلمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقیناً تمہارا رب بہت حیا کرنے والا کرم والا ہے وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے تو وہ انہیں خالی لوٹا دے۔“
(اسے نسائی کے علاوہ چاروں نے بیان کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج: [صحیح] [ابوداؤد (۱۳۸۸) ابن ماجہ (۳۸۶۵) ترمذی (۳۵۵۶) حاکم (۳۹۷/۱)]
صحیح الترمذی (۲۸۱۹)

فوائد: ① اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے: حیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تاویل کرنا یا اسے مجاز قرار دینا درست نہیں۔ حیا یعنی شرم کا مفہوم ہر شخص سمجھتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی حیا کی تفصیلی کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی حیا اسی طرح ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔

② ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا قبولیت کا ایک ذریعہ ہے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا رسول اللہ ﷺ سے کئی مواقع پر ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ میں تین احادیث لکھی ہیں۔ پہلی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی ﷺ نے (ان کے شہید ہونے والے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی دعا کے لئے درخواست پہنچنے پر) دعا کی پھر ہاتھ اٹھائے اور میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

دوسری ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ نبی ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میں تیری طرف اس کام سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔

تیسری انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی ﷺ نے (بارش کی دعا کے لئے) ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ

س نے آپ کی بظلوں کی سفیدی دیکھی۔ فتح الباری میں اس باب کی شرح میں صحیح حدیث سے کئی مواقع ذکر کئے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے ہیں۔

③ صرف بارش کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے والی حدیث کا مطلب: بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارش کی دعا کے علاوہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي
الِاسْتِسْقَاءِ» (بخاری / الاستسقاء ۲۲)

”نبی ﷺ بارش کی دعا کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔“
لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ صحیح احادیث سے بہت مواقع پر آپ ﷺ کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اثبات نفی پر مقدم ہے کیونکہ اگر ایک شخص کو علم نہیں ہو سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کی بات کا انکار کر دیا جائے جو خود اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہے۔

اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ بارش کی دعا میں جس طرح ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کر کے یا ہاتھوں کو عام معمول سے زیادہ اونچا اٹھا کر دعا کرتے تھے دوسرے موقعوں پر اس طرح دعا نہیں کرتے تھے۔

④ نماز کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں: ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہو کر امام اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو اس پر ناراض ہوتے ہیں اور اسے طعنہ دیتے ہیں کہ اس نے دعا نہیں کی کبھی کہتے ہیں کہ یہ دعا کا منکر ہے وہ بے چارہ خواہ وہ تمام دعائیں اور اذکار سمیل کرے جو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔ اگر اجتماعی طور پر ہاتھ نہیں اٹھائے گئے تو ان کے کہنے کے مطابق دعا ہوئی ہی نہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز کے بعد دعا کا موقع ہے اسی

طرح نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے دیکھئے اسی بلوغ المرام کی حدیث (۱۳۶۳) مگر اس وقت اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی دعا نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی یہ کام شروع کر دے تو اسے بدعتی کہا جائے گا جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود نے صبح کی نماز سے پہلے حلقے بنا کر کنکریوں پر سو سو مرتبہ تسبیح و تہلیل و تکبیر پڑھنے والوں پر سخت ناراضگی فرمائی اور انہیں گمراہ قرار دیا۔ دیکھئے اسی بلوغ المرام کی حدیث (۱۳۵۳) کی تشریح میں داری کی صحیح حدیث۔

اسی طرح جنازے سے فارغ ہو کر اب حدیث ہوں یا حنفی کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا نہیں کرتا صرف بدعتی حضرات ایسا کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے نماز سے باہر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صرف بارش کے لئے ثابت ہے آپ سے فرض نماز کے بعد بہت سے اذکار اور دعائیں صحیح احادیث میں آئی ہیں۔ مثلاً تین دفعہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تِسْتِیْسَ مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اس کے علاوہ آیۃ الکرسی، معوذتین اور دوسری دعائیں اور اذکار رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کرتے تھے۔ مگر آپ نے فرض نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا کی ہو کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جماعت ختم ہو گئی اب ہر شخص آزاد ہے۔ اسے دوبارہ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا پابند بنانا اور امام کو مقتدیوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا پابند بنانا دین میں خواہ مخواہ کی زبردستی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَدْعُو بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ وَالْمَأْمُومُونَ جَمِيعًا لَا فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْعَصْرِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ أَصْحَابَهُ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَعْلَمُهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ عَقِيبَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَوَاتِ (الفناوی الکبریٰ ص: ۳۹۱، ج: ۲)

”کسی نے نبی ﷺ سے نقل نہیں کیا کہ آپ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو نماز سے فارغ ہو کر آپ اور مقتدی اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہوں نہ فجر میں نہ عصر میں اور نہ کسی اور نماز میں، بلکہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نمازوں سے فارغ ہو کر اپنے صحابہ کی طرف منہ کر لیتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور انہیں اللہ کے ذکر کی تعلیم دیتے۔“

ایک جگہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ (الفتاویٰ الکروری ص: ۱۸۴، ج: ۱)

”نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا اکٹھے ہو کر دعا کرنا بدعت ہے یہ نبی ﷺ کے زمانے میں نہیں تھا۔“

حنفی علماء نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے۔ دیوبند کے صدر المدرسین انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں:

وَلْيُعْلَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالْمَعْمُومَ فِي زَمَانِنَا مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ رَافِعِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَى الْهَيْئَةِ الْكَذَابِيَّةِ لَمْ تَكُنِ الْمُواظَبَةُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمَ الْأَدْعِيَةُ بَعْدَ الْفَرَائِضِ ثَابِتَةٌ كَثِيرًا بِإِلَّا رَفَعِ الْيَدَيْنِ وَبِدْوَنِ الْاجْتِمَاعِ وَثُبُوتُهَا مُتَوَاتِرًا.

”جاننا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے جو دعا کی جاتی ہے نبی ﷺ کے زمانے میں اس پر مواظبت نہیں تھی ہاں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے اور اجتماع کے بغیر دعائیں کثرت سے ثابت ہیں اور ان کا ثبوت متواتر ہے۔“

اس مسئلہ کے متعلق ایک حنفی عالم کی کتاب التَّحْقِيقُ الْحَسَنُ فِي نَفْيِ الدُّعَاءِ الْاجْتِمَاعِيِّ بَعْدَ الْفَرَائِضِ وَالشُّنَنِ بِمَتِّعِهِ ہے۔ مولانا عبدالرؤف سندھو نے مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب صلوة الرسول ﷺ کی تخریج کی ہے اور اس پر تعلق لکھی

ہے اس میں ان تمام روایات پر تفصیلی گفتگو کی ہے جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق پیش کی جاتی ہیں۔

دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا

۱۶/۱۴۶۵- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدٌ، مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْضَى بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ)

”عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں واپس نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کے کئی شواہد ہیں جن میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو ابوداؤد وغیرہ میں ہے ان سب کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے)

تخریج: [ضعیف] (ترمذی - ابواب الدعوات باب ماجاء فی رفع الأیدی عند الدعاء - حدیث ابن عباس ابوداؤد (۱۳۸۵))

فوائد: ترمذی کی سند میں حماد بن عیسیٰ الجعفی ضعیف ہے (تقریب) اور ابوداؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت مصنف نے بطور شاہد پیش کی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ خود ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ حدیث محمد بن کعب سے کئی سندوں کے ساتھ آئی ہے جو سب کمزور ہیں یہ سند ان میں سب سے اچھی ہے اور یہ بھی ضعیف ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شواہد کے مجموعے کی بنا پر اس حدیث کے حسن ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، مگر شیخ ناصر الدین البانی نے اسے ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ بعض صحابہ سے بھی یہ عمل مروی ہے چنانچہ الادب المفرد میں ہے:

«عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهُوَ وَهْبٌ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ» (الادب المفرد للامام البخاري، باب رفع الايدي
فالدعاء)

”ابو نعیم (وہب) کہتے ہیں میں نے ابن عمر و ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو دعا کرتے دیکھا وہ اپنی ہتھیلیاں چہرے پر پھیرتے تھے۔“

شیخ البانی نے ضعیف الادب المفرد میں اس اثر کو بھی ضعیف قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند میں محمد بن فلیح اور اس کے والد فلیح میں ضعف ہے۔ بعض اہل علم نے اس اثر کو حسن قرار دیا ہے تقریب میں محمد بن فلیح کے متعلق لکھا ہے (صدوق بہم) ”سچا ہے غلطی کر جاتا“ اور فلیح کے متعلق لکھا ہے (صدوق کثیر الخطاء) ”سچا ہے بہت خطا والا ہے۔“

بہر حال بقول ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیثیں اور اثر اپنی اپنی جگہ ضعیف بھی ہوں تو مجموعے کو مد نظر رکھ کر اس عمل کو بالکل بے اصل اور بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت

۱۶۶۶/۱۷- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَكثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً»

(أَسْرَجَةُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت

کے دن لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا یا سب سے زیادہ قریب وہ ہو گا جو ان میں سب سے زیادہ مجھ پر صلاۃ پڑھنے والا ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے)

تخصیج: [ضعیف] (ترمذی (۴۸۴) (۱) ابن حبان (۹۱۱/۳) شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھئے ضعیف الترمذی (۷۳) اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں موسیٰ بن یعقوب زمعی ہیں جن کے متعلق تقریب میں ہے صدوق سنی الحفظ۔ ان کے علاوہ عبد اللہ بن کیسان ہیں ان کے متعلق تقریب میں لکھا ہے مقبول اور تقریب کے شروع میں لکھا ہے کہ مقبول اس وقت ہے جب اس کی متابعت موجود ہو ورنہ لین الحدیث ہے) یہ سند غریب ہے یعنی اس کی کوئی متابعت نہیں اس لئے یہ روایت ضعیف ہے۔

مفردات: اُولٰی کا معنی اَحَقُّ بھی ہے اور اَقْرَبُ بھی یعنی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔ یا قیامت کو سب سے زیادہ میرے قریب ہو گا۔

فوائد: ① : مصنف نے نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت کے لئے اس روایت کا انتخاب فرمایا۔ کیونکہ اس میں صلاۃ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت کے لئے قرآن مجید کی آیت اور کئی صحیح احادیث موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف روایت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

(الف) سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب ۵۶/۳۳)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آپ پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔“

اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب آپ کی تعریف کرنا، رحمت نازل کرنا اور مغفرت فرمانا ہے۔ فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب دعا کرنا ہے۔

(ب) نبی ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ (مسلم - کتاب الصلاۃ / باب ۷۷: ۱۱)

(ج) رسول ﷺ نے فرمایا: بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے۔ (صحیح الترمذی - ابواب الدعوات / باب ۱۱۰: ۱۱)

(د) آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلاۃ نہ پڑھے۔ (صحیح الترمذی / ابواب الدعوات - باب نمبر ۱۰)

(ه) جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ نہیں ہوگی وہ مجلس قیامت کے دن اس مجلس والوں کے لئے حسرت کا باعث ہوگی۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ للالبانی - ۷۲)

② سب سے زیادہ صلاۃ بھیجنے والے اصحاب الحدیث ہیں: ابن حبان نے فرمایا کہ اس امت میں اصحاب الحدیث سے زیادہ رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ بھیجنے والا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الحدیث کا مبارک شغل ہی حدیث کا پڑھنا پڑھانا اور تصنیف کے ذریعے بھی حدیث ہی کی خدمت کرنا ہے اور ان کی عادت ہے کہ جب بھی آپ ﷺ کا نام نامی آئے وہ صلاۃ پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی زبان اور ان کے قلم سے روزانہ سینکڑوں مرتبہ خود بخود صلاۃ ادا ہوتی رہتی ہے دوسرے لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں اگر فرق دیکھنا ہو تو فقہ یا اصول فقہ کی کوئی کتاب مثلاً قدوری ہدایہ اصول شاشی وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں صفحوں کے صفحے گزر جائیں گے رسول اللہ ﷺ کا ذکر ہی نہیں آئے گا اگر آئے گا بھی تو وہ صرف علیہ السلام لکھیں گے صلاۃ کی توفیق نہیں ہوگی۔ حدیث کے طالب علم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔

سید الاستغفار

۱۸/۱۶۶۷- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَا وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ» (اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

”شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بخشش مانگنے کی دعاؤں کی سردار دعا یہ ہے کہ بندہ یوں کہے: اے اللہ تو ہی مجھے پالنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جتنی طاقت رکھتا ہوں، میں اس (گناہ) کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا، میں تیری اس نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں سو تو مجھے بخش دے کیونکہ یقینی بات یہ ہے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج: بخاری (۶۳۰۶) وغیرہ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۱۳۵/۴) (۱۳۰/۴)

فوائد: ① سید الاستغفار کی فضیلت: صحیح بخاری کی اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جو شخص دن کو یہ کلمات ان پر یقین رکھتے ہوئے کہ لے پھر اسی دن شام ہونے سے

پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت سے ہے اور جو رات کو یہ کلمات ان پر یقین رکھتے ہوئے کہہ لے پھر صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت سے ہے۔

② استغفار کی اہمیت: اپنے گناہوں سے بخشش مانگنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا:

﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (المؤمنون ۲۳/۱۱۸)

”اور تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

اور ہر پیغمبر نے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کی اور اپنی امت کو اس کا حکم دیا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یونس اور دوسرے پیغمبروں ﷺ کی استغفار کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے سو دفعہ بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم۔ الذکر والدعا/باب: ۱۲)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے تو آپ کو استغفار کی کیا ضرورت تھی۔ صاحب سبل السلام اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ بے کار سوال ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ کو بتایا کہ میں روزانہ ستر دفعہ بخشش مانگتا ہوں اور انہیں بھی استغفار کی تاکید فرمائی تو انہوں نے آپ کے فرمان پر یقین کیا اور اس پر عمل کیا اس قسم کا اشکال یا سوال کسی نے پیش نہیں کیا۔ ہمیں بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی اس سوال پر اصرار کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخشش کے وعدے کے باوجود بخشش کی دعا کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق دینے کی ضمانت اٹھائی ہے۔ پھر بھی ہم رزق کے لئے محنت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلاً:

﴿ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (المائدة ۵/۱۱۴)

”اور ہمیں رزق دے اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔“

اور فرمایا:

«اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

”اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا ہر ایک سے غنی کر دے۔“

③ سید الاستغفار کیوں؟: استغفار کا دعاؤں کا سردار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بخشش مانگتے وقت جو آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں وہ سب سے زیادہ اس دعا میں موجود ہیں اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اپنی بندگی اور تعلق کا واسطہ دینا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور پروردگار کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور بخشش مانگنا اور صرف اللہ کے در پر ہی پڑے رہنا صرف اسی سے خوف اور اسی کی امید رکھنا اور اسی سے دعا کرنا اب یہ دعا ملاحظہ کیجئے:

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توحید اور صفات عالیہ کا اقرار ہے۔ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی معبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد اپنے بندہ ہونے کا اقرار ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ میں تیرے عہد پر جو ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ کے جواب میں کیا تھا اور تیرے وعدے پر (جو اسلام قبول کرنے کی صورت میں کیا ہے) قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں۔ یعنی صحیح حق ادا کرنے سے عجز کا اعتراف کرتا ہوں۔ گویا پروردگار کے سامنے اس کی بندگی اور اس کے عہد پر حسب استطاعت قائم ہونے کے تعلق کے واسطے سے دعا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اپنے گناہ کی شامت سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ کہ اگر وہ پناہ نہ دے تو گناہ کے شر سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

اس کے بعد اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے مقابلے میں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور آخر میں اپنے گناہ کی بخشش کی دعا ہے اور اس کا اقرار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اس دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بھی سمجھ آتا ہے۔

کہ اس کے دربار میں شرک و بدعت پر مشتمل واسطوں و سیلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔

وہ کلمات جو رسول اللہ ﷺ صبح و شام نہیں چھوڑا کرتے تھے

۱۹/۱۴۶۸- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هُوَ لِأَيِّ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب شام ہوتی یا صبح ہوتی تو یہ کلمات نہیں چھوڑا کرتے تھے ”اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے چھپانے کی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما اور میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے اچانک ہلاک کر دیا جائے۔“ (اسے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا۔)

تخریج: [صحیح] [نسائی (۲۸۲/۸) مختصراً ابن ماجہ (۳۸۷۱) اور دیکھے صحیح ابن ماجہ (۳۳۲/۲) حاکم (۵۱۷/۱) دیکھے تحفۃ الاشراف (۳۲۷/۵) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دعا مختصر

ذکر فرمائی ہے۔ پوری دعا اس طرح ہے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ
أَسْتَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي - الخ»

”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔“ الخ
بہتر ہے کہ مکمل دعا پڑھی جائے۔

فوائد: حدیث کا مطلب: عافیت کا معنی سلامت رہنا ہے دین میں عافیت یہ ہے کہ
آدمی عقیدے اور عمل کی گمراہی سے محفوظ رہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام
پر عمل کرتا رہے اور ان کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ دنیا میں عافیت یہ ہے کہ دنیا کی
مصیبتوں، پریشانیوں اور دنیا کی بے جا ہوس سے محفوظ رہے۔ اہل میں عافیت یہ ہے کہ
آپس کی بے اتفاقی، گھر والوں کی بیماری، فقر اور دوسری پریشانیوں سے محفوظ رہے اسی
طرح ان کی دنیا کے چکر میں پھنس کر سارا وقت اسی میں برباد کر دینے سے محفوظ رہے۔
مال میں عافیت سے مراد ان آفات سے محفوظ رہنا ہے جو مال کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔
عورات (چھپانے کی چیزوں) سے مراد اپنی ذات اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے والی وہ
تمام چیزیں ہیں جنہیں آدمی چھپانا چاہتا ہے خواہ ان کا تعلق جسم سے ہو، دین سے ہو،
دنیا سے ہو یا آخرت سے۔ اسی طرح گھبراہٹوں سے بھی ان تمام چیزوں سے تعلق رکھنے
والی گھبراہٹیں مراد ہیں۔

اپنے تمام اطراف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعا اس لئے کی ہے کہ بندہ ہر وقت
قدرتی آفات و مصائب کا نشانہ نہ ہے اور ہر وقت دشمنی رکھنے والے انسانوں اور شیطانوں
کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو اس کے بچنے کی کوئی صورت
نہیں۔

بچنے کی طرف سے اچانک ہلاکت سے خاص طور پر اللہ کی عظمت کی پناہ مانگی کیونکہ
اچانک گرفت میں سنبھلنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا۔ اس کی مثال زمین میں دھنس جانا، غرق ہو
جانا اور بارود وغیرہ کی زد میں آجانا ہے۔

مختلف مصائب سے پناہ کی دعا

١٤٦٩/٢٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ،
وَجَمِيعِ سَخَطِكَ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے
اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال اور تیری
عافیت کے پھر جانے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیری ہر قسم کی
ناراضگی سے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج: مسلم (الذکر ٩٦/١) دیکھئے تحفۃ الاشراف (٣٦٥/٥)

مفردات: فجاءة دو طرح پڑھ سکتے ہیں فاء کے فتح، جیم کے سکون اور ہمزہ کے فتح
کے ساتھ فُجَاءَةٌ بوزن فَعْلَةٌ اور فاء کے ضمہ، جیم کے فتح، اس کے بعد الف پھر ہمزہ
مفتوحہ کے ساتھ فُجَاءَةٌ بوزن فُعَالَةٌ اچانک۔

فوائد: ① پناہ سے کیا مراد ہے؟: انسان پر جب کوئی ایسی مصیبت آجائے جسے وہ
خود دور نہ کر سکتا ہو تو وہ کوئی ایسا سارا تلاش کرتا ہے جو اسے اس مصیبت سے بچا سکے۔
مثلاً اگر کوئی کتا اسے کاٹنے کو دوڑے اور اس کے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان مثلاً
لاٹھی وغیرہ نہ ہو تو وہ اس کے مالک سے کہتا ہے کہ اپنے کتے سے مجھے بچاؤ۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات و مصائب آتے ہیں ان میں سے جن چیزوں کے
ہٹانے کی طاقت کسی مخلوق میں موجود ہے اس سے پناہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں جس طرح
کتے کی مثال اوپر گزر چکی ہے اور جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مکہ سے ہجرت کی

ابن الدغنة انہیں اپنی پناہ میں لے کر مکہ واپس لے آیا تھا۔ (بخاری کتاب الکفالة۔ باب: ۴) اور جس طرح نبی اکرم ﷺ نے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی وغیرہ سے پناہ اور حفاظت کی درخواست کی تھی (ابن ہشام (۴۱۹/۱) زاد المعاد: ۲/۴۶، ۴۷-۴۸) الرجیق وغیرہ) اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے (توبہ: ۶) البتہ وہ چیزیں جو کسی مخلوق کے اختیار میں ہی نہیں ہیں ان سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اس لئے ان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے پناہ مانگنے کے بہت سی دعائیں مروی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثوں کا انتخاب فرمایا ہے۔

زوالِ نعمت: سب سے پہلے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اس کی نعمت آدمی سے چھن جائے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے بغیر کسی سے اپنی نعمت سلب نہیں کرتے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد ۱۱/۱۳)

”یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس چیز کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بدل دیں جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے۔“

گویا اس دعا میں نعمتوں کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار اپنی نافرمانی سے مجھے بچا کر رکھنا ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کے نتیجے میں تیری نعمت سے محروم ہو جاؤں۔

تحولِ عافیت: عافیت سے مراد سلامتی ہے یعنی انسان کا بدن، اس کے اہل و مال اور اس کا دین ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس کے پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ عافیت کی نعمت آدمی سے چلی جائے اور وہ اس کی جگہ بیماریوں، پریشانیوں اور فتنوں کا شکار ہو جائے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔

جمعِ مخطک: اللہ کی ناراضگی کی چند خاص چیزوں کے ذکر کے بعد اس کی ہر قسم کی

ناراضگی سے پناہ طلب فرمائی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کسی ایسی بات پر سخت ناراض ہو گیا ہو جس کا اسے خیال ہی نہ ہو۔

قرض اور دشمن کے غلبے سے پناہ کی دعا

۱۴۷۰/۲۱ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ، وَغَلْبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ یقیناً میں قرض کے غالب آجانے سے اور دشمن کے غالب آجانے سے اور دشمنوں کے میرے نقصان پر خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (اسے نسائی نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح ہے)

تخریج: [صحیح] (نسائی (۲۶۸، ۲۶۵/۸) حاکم (۵۳۱/۱) دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۵۳/۶) مزید دیکھئے۔

سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ (۱۵۳۱)

فوائد: ① غلبہ دین: یہ حدیث اس بات کے منافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے لیا کرتے تھے بلکہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی زرہ تیس صاع جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ (بخاری۔ الجہاد/۸۹) کیونکہ یہ قرض کا غالب آجانا نہیں بلکہ آپ اسے ادا کر سکتے تھے۔ غالب آنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا قرض چڑھ جائے جسے اتارنا آدمی کی طاقت سے باہر ہو۔ اس لئے ایسا قرض لینا جسے ادا کرنا آدمی کی طاقت سے ہی باہر ہو جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
لَا فَهَا أَنْفَعَهُ اللَّهُ (بخاری / الاستقراض ۲)

شخص لوگوں کے مال اس نیت سے لے کہ انہیں ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں
کی طرف سے ادا کر دے گا اور جو شخص انہیں ضائع کرنے کی نیت سے لے گا
تعالیٰ اسے ضائع کرے گا۔ (بخاری - الاستقراض ۲)

یقیناً یہ ہے کہ قرض خصوصاً جس کا ادا کرنا بس سے باہر ہو سراسر نیک و نعم ہے اس
سول اللہ ﷺ مَأْتَمٌ اور مغرم (گناہ اور قرض) سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے پوچھا آپ قرض سے کس قدر کثرت سے پناہ طلب
ہیں تو فرمایا:

الرَّجُلُ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

مَنْ آدَى جِب مَقْرُوضٍ هُوَ تَابِتٌ كَرْتَا هِ تُو جُھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا
تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ (بخاری - الاذان / ۱۳۹)

کا غلبہ: دشمن کے غلبے سے پناہ مانگی کیونکہ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں۔ دشمن
گیا تو نہ جان محفوظ، نہ مال، نہ عزت و آبرو، نہ عقیدہ اسلام غرض یہ سب سے
ت ہے جو انسان پر مسلط ہوتی ہے۔ آج فلسطین، اریٹیریا، کشمیر، سکلیانگ، فلپائن،
تینجینا، گوا، کبویا اور دنیا کے دوسرے خطوں میں کفار مسلمانوں پر غالب ہیں اور
س پر بدترین ذلت مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا
ور انہیں دشمنوں کے غلبے سے نجات عطا فرمائے۔

تعداد: کسی نقصان پر دل کو اتنی تکلیف شاید ہی ہوتی ہے جتنی اس بات پر
ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے اس نقصان پر خوش ہے اس لئے ہارون رضی اللہ عنہ نے موسیٰ
ہے کہا تھا ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ﴾ ”دشمنوں کو میری وجہ سے خوشی کا موقعہ

واللیة (۸)
تھمر کر دی
وقت بک

لئے صبح کے
کے ساتھ
ت و حیات

اسم اعظم

٢٢ / ١٤٧١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ» (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

”بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ! یقیناً میں تجھ سے اس واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ میں یقین سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بلاشبہ صرف تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ایک ہے بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنمانہ وہ جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقیناً اس نے اللہ سے اس کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے وہ دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔“ (اسے چاروں نے روایت کیا اور اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے)

تخریج: [صحیح] (ابوداؤد (۱۱۴۹۳) ترمذی (۳۳۷۵) نسائی ابن ماجہ (۳۸۵۷) ابن حبان (۸۹۲/۳) البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (صحیح ابن ماجہ ۳۱۱)

مفردات: الْأَحَدُ ہر لحاظ سے ایک۔ رب ہونے میں، الہ ہونے میں، اپنی ذات میں

تمام صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا بھی اس کی صفات کمال میں سے ایک بنیادی ہے۔ اَلصَّمَدُ اس سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف ضرورتوں کے لئے قصد کیا ہے۔ وہ ذات جس میں یہ صفت پوری طرح پائی جاتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں سب سے بے نیاز ہے۔

تَمَّ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ اس نے کسی کو نہیں جنا کوئی اس کی اولاد نہیں۔ جیسا کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی عیسیٰ عليه السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور جس طرح بعض نادان مسلمان نبی ﷺ کو اللہ کے نور میں نور قرار دیتے ہیں کیونکہ اگر اس کی اولاد ہو یا اس کے نور سے نور جدا ہونے لگے تو ایک رہتا ہے نہ بے مثل۔ پھر کئی معبودوں کا ہونا لازم آتا ہے۔

نہ وہ کسی کی اولاد ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا نہ ہونا لازم آتا ہے حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

كُفُوًا بَرَابِرًا كَاجُوزٍ هَمَّ سِرُّهُ لَكَ كَوْنِي هَمَّ سِرِّهِمْ كَوْنِي اس کا جوڑا نہیں۔
واحد: ①: اس دعائیں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذاتی نام ”اللہ“ کے ساتھ دعا کی گئی ہے جس میں تمام صفات خود بخود آجاتی ہیں۔ اس کے ساتھ صفات میں سے ان صفات کے

سطے سے دعا کی گئی ہے جو اللہ کی توحید پر دلالت کرنے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہیں، اس میں پہلی صفت ﴿ لا اله الا انت ﴾ دوسری ﴿ الاحد ﴾ تیسری ﴿ الصمد ﴾ چوتھی ﴿ لم يلد ﴾ پانچویں ﴿ ولم يولد ﴾ چھٹی ﴿ ولم يكن له كفوا احد ﴾ ﴿ لا اله الا انت ﴾ کلمہ توحید ہے جو افضل الذکر ہے۔ اس کے بعد والی تمام صفات سورۃ اخلاص میں سے لی گئی ہیں جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ قرآن کے تمائی کے برابر ہے۔ (مسلم۔ صلاة المسافرين / ۳۵)

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے واسطے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (اعراف: ۱۸۰) اس دعائیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی اسماء کے واسطے سے دعا کی گئی ہے۔

② اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ ساتھ اس دعا میں اس چیز کا واسطہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے۔ الخ۔ یہ شہادت خود ایک صالح ترین عمل ہے اور اپنے صالح عمل کے واسطے سے دعا کرنا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے ثابت ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ میں ہے ﴿إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اپنی عبادت کو دعا کے لئے بطور واسطہ پیش کیا پھر مدد کی درخواست کی۔ غار میں پھنس جانے والے تینوں آدمیوں نے بھی اپنے اپنے خالص اعمال کے واسطے سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ (بخاری)

www.KitaboSunnat.com

③ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں اگر قبروں کی پوجا کرنے والے اور مخلوق کو مصیبت میں پکارنے والے ان صفات پر غور کر لیں تو کبھی مخلوق سے سوال نہ کریں کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں صرف ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔

④ اللہ کا وہ نام جس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے کون سا ہے؟ بعض احادیث میں اسے اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے اسے واضح طور پر اس لئے بیان نہیں کیا گیا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے واسطے سے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں جیسا کہ لیلۃ القدر جمعہ کے دن کی اور ہر رات میں قبولیت کی گھڑی بھی مبہم رکھی گئی۔

⑤ اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ اسم ”اللہ“ ہے کیونکہ اس میں تمام صفات آجاتی ہیں سیوطی نے علماء کے چالیس کے قریب اقوال ایک رسالے میں جمع کئے ہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اسم عظیم کے متعلق سند کے لحاظ سے یہ حدیث سب سے راجح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی دعائیں اس عظیم الشان کلمہ کے ساتھ آراستہ کرنی چاہئیں تاکہ انہیں قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔

صبح و شام کے وقت دعا

۱۴۷۲/۲۳۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ التُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَالَيْكَ الْمَصِيرُ» (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ کہتے اے اللہ! تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے اور جب شام ہوتی تو اسی طرح کہتے مگر آپ وَالَيْكَ التُّشُورُ کی جگہ یہ فرماتے وَالَيْكَ الْمَصِيرُ (تیری ہی طرف لوٹنا ہے) (اسے چاروں نے روایت کیا ہے)

تخریج: [صحیح] (ترمذی (۳۳۹۱) ابن ماجہ (۳۸۶۸) نسائی فی عمل الیوم واللیلة (۸) صحیح الترمذی (۲۷۰۰) تحفۃ الاشراف (۳۰۹/۹) (۳۰۸/۹) مصنف نے حدیث مختصر کر دی ہے۔ ترمذی میں صبح کی دعا کے وقت بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا ہے اور شام کے وقت بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا ہے۔

فوائد: ① نیند اور بیداری کو بھی موت اور زندگی قرار دیا گیا ہے اس لئے صبح کے وقت کہا گیا ”تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے“ اور شام کے وقت نیند کی مناسبت کے ساتھ کہا گیا ”تیری ہی طرف لوٹنا ہے“ تاکہ اس نیند اور بیداری کے ساتھ اصل موت و حیات

بھی ذہن میں رہے۔

② بک أصبحنا ”تیرے ہی ساتھ ہم نے صبح کی“ یہاں لفظ محذوف ہے۔ یعنی ”تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی۔“ کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے:

«اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأُحْيَا» (بخاری / الدعوات ۸)

”اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا۔“

بعض حضرات نے یہ محذوف نکالا کہ بک أصبحنا یعنی تیری ”مدد“ کے ساتھ ہم نے صبح کی الخ۔ یہ بھی معنوی لحاظ سے درست ہے، مگر دوسری حدیث میں آنے والا لفظ محذوف نکالنا زیادہ بہتر ہے۔

دین و دنیا میں بھلائی کی دعا

۱۴۷۳/۲۴۔ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ الخ ”اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۳۸۹)

فوائد: سب سے زیادہ یہ دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے اور رسول اللہ ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا

سِوَا ذَلِكَ» (ابوداؤد/الوتر ۲۳، صحيح أبي داؤد ۱۳۱۵)

”رسول اللہ ﷺ دعائیں سے جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور جو اس کے علاوہ ہوتیں انہیں چھوڑ دیتے۔“

دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس دعا میں نہ آگئی ہو۔ ابن ابی حاتم نے ابو نعیم کے طریق سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبدالسلام ابو طلالت نے بیان کیا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا تو ثابت نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں انہوں نے کہا:

«اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

”پھر (اوپر کی حدیث والا) قصہ بیان کیا اور فرمایا: ”تمہیں جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دے تو اس نے ساری کی ساری خیر تمہیں عطا فرمادی۔“ (فتح الباری حدیث

۶۳۸۹)

دنیا میں بھلائی سے اپنی اور اہل و عیال کی عافیت، کشادہ گھر، فرمانبردار اور نیک بیوی، نیک اولاد، فراخ رزق، علم نافع، عمل صالح، اچھی سواری، اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا اور اس کے دیئے پر قانع ہونے کی عادت غرض دنیا کی ہر نعمت مراد ہے۔

آخرت میں بھلائی سے مراد حساب میں آسانی، قیامت کی گھبراہٹوں سے امن، جنت کی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا اور سب سے بڑھ کر اللہ عزوجل کا دیدار ہے۔

(اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔) اگرچہ یہ آخرت کے اندر بھلائی میں شامل ہے مگر خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آگ کے کچھ عذاب کے بعد آخرت میں بھلائی ملے۔ آگ سے بچانے کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں سارے گناہ اور تمام کوتاہیوں پر معاف کر کے آگ کے عذاب سے ہر طرح بچالے۔ اس کے

ضمن میں یہ بات بھی آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آگ میں لے جانے والی چیزوں مثلاً شرک و بدعت اور ارتکاب محارم و شہات سے بچا کر رکھے اور اگر کچھ خطاء ہو جائے تو اپنے فضل سے سب کچھ معاف فرما کر جہنم سے کلیتاً محفوظ رکھے۔

ہر قسم کے گناہوں سے بخشش کی دعا

۱۴۷۴/۲۵ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطِيئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! مجھے بخش دے میری خطا اور میری جہالت اور میرے معاملے میں میرا حد سے گزرنا اور وہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے میرے سنجیدگی سے کئے ہوئے اور مذاق سے کئے ہوئے اور میرے خطاء سے ہونے والے اور میرے جان بوجھ کر کئے جانے والے گناہ اور یہ سب میرے ہاں موجود ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کئے اور جو میں نے پیچھے کئے اور جو میں نے چھپا کر کئے اور جو میں نے ظاہر کئے اور وہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ

جانتا ہے، تو ہی پہلے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج: بخاری (۶۳۹۸، ۶۳۹۹) مسلم (۲۷۱۹) تحفۃ الاشراف (۶/۳۶۱)

فوائد: ① یہ دعا استغفار کے لئے نہایت جامع دعا ہے۔ مصنف نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ یہ پوری دعا رسول اللہ ﷺ کس موقع پر پڑھتے تھے مجھے نہیں ملا البتہ اس کے آخر سے اکثر حصہ یعنی اغفر لی ما قدمت ارجی کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ رات کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نماز کے آخر میں پڑھتے تھے۔ پھر روایت میں اختلاف ہے کہ سلام سے پہلے پڑھتے تھے یا سلام کے بعد، مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تشہد اور سلام کے درمیان آخر میں جو کلمات کہتے ان میں یہ دعا ہوتی اور مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے اور جب سلام پھیرتے تو کہتے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ دونوں روایتوں کو جمع کرنے کی صورت میں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب سلام پھیرنے کا ارادہ کرتے تو یہ کہتے اور ابن حبان اپنی صحیح میں یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ لائے ہیں: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ سَلَّمَ يَعْنِيْ جَبَّ نَمَازًا سَ فَا رَغَ هُوَ جَاتَ اَوْر سَلَامٍ پھیر لیتے تو یہ کہتے۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ سلام سے پہلے بھی یہ دعا کرتے اور بعد میں بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں جیسا کہ میں نے اس کی شرح کرتے ہوئے وضاحت کی ہے۔ (فتح الباری)

② اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخَّرُ تو ہی جسے چاہے اپنی توفیق و عنایت سے آگے بڑھا دیتا ہے اور جسے چاہے توفیق سے محروم رکھتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔

دین و دنیا کی اصلاح کے لئے دعا

۱۴۷۵/۲۶۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لئے میرا دین درست کر دے جو میرے معاملے کو بچانے کا ذریعہ ہے اور میرے لئے میری دنیا درست کر دے جس میں میری گزران ہے اور میرے لئے میری آخرت درست کر دے جس کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو میرے لئے ہر بھلائی میں زیادہ ہونے کا ذریعہ بنا دے اور موت کو میرے لئے ہر شر سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے)

تخریج: مسلم (۲۷۲۰) تحفۃ الاشراف (۳۴۱/۹)

فوائد: ① یہ دعا دین و دنیا کی بھلائی کی جامع دعا ہے۔ اس میں موت کو ہر شر سے چھٹکارا بنا دینے کی دعا کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں موت کی دعا کی گئی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آ رہی ہو موت کی دعا نہ کرے اگر ضرور ہی کرنی ہے تو یوں کہے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی کو میرے لئے بہتر جانے اور مجھے اس وقت فوت کر

جب تو وفات کو میرے لئے بہتر جانے۔ (بخاری۔ الدعوات / ۳۰)

اس دعا کا مطلب صرف یہ ہے کہ موت کو میرے لئے ہر شر سے رہائی کا ذریعہ بنا لیا نہ ہو کہ موت کے ساتھ دنیا کی مصیبتوں سے رہائی پا جانے کے بعد بھی کسی شر میں پھنسا رہوں مثلاً عذاب قبر، قیامت کی ہولناکی، گناہوں کی باز پرس اور جہنم کا عذاب وغیرہ جیسا کہ ایک شاعر کہہ گیا ہے۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

علم نافع کے لئے دعا

۱۴۷۶/۲۷۔ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ)

”اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کما کرتے تھے اے اللہ! مجھے تو نے جو سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے اور مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے اور مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے نفع دے۔“ (اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا)

تخریج: [صحیح] (نسائی میں نسلیں مل سکی، البتہ الترمذی کتاب الدعوات اور ابن ماجہ مقدمہ اور کتاب الدعاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ دیکھئے ترمذی، ۳۵۹۹۲ اور ابن ماجہ، ۲۵۱۲، ۳۸۳۳۔ الشیخ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے اور دیکھئے حاکم (۵۱۰/۱)، حاکم نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

زیادہ علم کی دعا

۱۴۷۷/۲۸۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَزِدْنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ (وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ)

”اور ترمذی کے لئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اسی کی مثل روایت ہے اور اس کے آخر میں فرمایا اور مجھے علم میں زیادہ کر، تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہر حال میں آگ والوں کے حالی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ (اور اس کی سند حسن ہے)

تخریج: ترمذی (الدعوات) میں یہ روایت اس طرح ہے:

«اللَّهُمَّ انْفَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ»
 ”شیخ البانی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔“ (الحمد للہ علی کل حال الخ کے علاوہ) صحیح الترمذی (۲۸۳۵)

فوائد: ① اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم میں اضافے کے لئے دعا کا حکم دیا ہے چنانچہ فرمایا ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ”اور تو کہہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر“ اس سے معلوم ہوا کہ علم میں اضافے کی دعا فرض ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش بھی فرض ہے۔ کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ اسباب مہیا کرنا بھی ضروری ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کا اصل مقام میدان جنگ ہے اگرچہ اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم میں اضافے کی دعا کا اصل وقت وہ ہے جب آدمی علم کی

منزل کی طرف گامزن ہو چکا ہو۔ یا اس فکر میں ہو۔

② علم نافع بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں اور ہاروت ماروت کی سکھائی ہوئی باتوں کے پیچھے چلنے والوں کے متعلق فرمایا:

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ (البقرة ۲/۱۰۲)

”وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور انہیں فائدہ نہیں دیتی۔“

اسی طرح ناول، افسانے اور گندی باتیں ہیں۔ اس لئے آدمی کو صرف وہ علم سیکھنا چاہیے اور اسی کی دعا کرنی چاہیے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لئے نفع دینے والا ہو۔

③ ایسا علم کہ آدمی کا عمل اس کے برعکس ہو قیامت کے دن اس کے خلاف بطور حجت پیش ہوگا۔ اسی طرح علم کی بات پوچھی جائے اور وہ چھپائے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (صحیح ابوداؤد-۱ العلم/۹) اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے کہ اس پر عمل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔

تمام بھلائیوں کے حصول اور تمام برائیوں سے پناہ کیلئے جامع دعا

۱۴۷۸/۲۹- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا

قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ،
وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ
كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا» (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

”اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں یہ دعا سکھائی
اے اللہ میں تجھ سے بھلائی میں سے ساری کی ساری بھلائی کا سوال کرتا
ہوں جو اس میں سے جلدی (ملنے) والی ہے اور جو دیر (سے ملنے) والی
ہے، جو اس میں سے میں جانتا ہوں اور جو مجھے معلوم نہیں اور شر میں
سے سارے کے سارے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس میں سے
جلدی (آنے) والا ہے اور جو دیر (سے آنے) والا ہے جو اس میں سے
میں جانتا ہوں اور جو مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز
کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور
تیرے نبی نے کیا ہے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس
سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے اے اللہ! یقیناً میں تجھ
سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول و عمل کا (سوال کرتا ہوں) جو
مجھے اس کے قریب کر دے اور آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس
قول و عمل سے (تیری پناہ چاہتا ہوں) جو اس کے قریب کر دے اور میں
تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ہر اس فیصلے کو جو تو نے کر دیا ہے
میرے لئے بہتر بنا دے۔“ (اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن
حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج: [صحیح] (ابن ماجہ (۳۸۴۶) ابن حبان (۸۶۹/۳) تحفۃ الاشراف (۱۴/۳۴۲)

البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ الصحیحۃ (۱۵۳۲)

فوائد: ① یہ بہت ہی جامع دعا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا نام لے کر اللہ سے درخواست کرنا بہت مشکل ہے جو رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اسی طرح جن چیزوں سے پناہ مانگی وہ بھی شمار میں مشکل سے ہی آسکتی ہیں۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ لیا جو اس کے نبی نے مانگا اور ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگ لی جن سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔

② اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے اہل و عیال کی بہتری کی فکر ہونی چاہیے اور انہیں اچھی سے اچھی دعائیں سکھانی چاہئیں کیونکہ انہیں اگر کوئی چیز حاصل ہوگی تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا اور اگر انہیں کوئی شر پہنچی تو اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کو محبوب دو کلمات

۱۴۷۹/۳۰۔ وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَيَّ الرَّحْمَنُ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»

”اور بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو کلمے جو رحمان کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری ہیں یہ ہیں «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» یعنی میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد کے ساتھ (اس کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں) میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں جو بہت بڑائی والا ہے۔“

تخریج: بخاری (۶۳۶۰، ۶۶۸۲، ۷۵۶۳)، مسلم (۲۶۹۳) وغیرہما۔ دیکھئے تحفۃ الاشراف (۳۳۲/۱)

مفردات: کَلِمَتَانِ خَيْرٌ مَقْدَمٌ هُوَ 'حَبِيبَتَانِ' خَفِيفَتَانِ اور ثَقِيلَتَانِ اس کی صفات ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الخ مبتدا مؤخر ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ سبحان مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اس کا فعل وجوباً محذوف ہوتا ہے یعنی أُسْبِحُ سُبْحَانَ اللَّهِ میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں و بحمدہ کی ترکیب اہل علم نے کئی طرح کی ہے ایک آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ فعل محذوف کے متعلق ہے۔ یعنی و بحمدہ اسبح اور میں اس کی حمد کے ساتھ ہی اس کی تسبیح کرتا ہوں۔

فوائد: ① امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو اس حدیث پر ختم کیا ہے ان کے بعد کئی مصنفین نے اپنی کتابیں اس حدیث پر ختم کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان حضرات کی اتباع کی ہے۔

② اس حدیث سے ان کلمات کی فضیلت معلوم ہوئی انہیں ورد زبان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال و اقوال تو لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾

(الانبیاء ۲۱/۴۷)

”ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

عقلیت کے بعض دعوے داروں نے اس وجہ سے اعمال و اقوال کے وزن کا انکار کر دیا کہ جو چیز اپنا ذاتی وجود نہ رکھتی ہو بلکہ دوسرے کے ساتھ قائم ہو اور ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتی جاتی ہو اسے کس طرح تولا جاسکتا ہے، مگر اہل ایمان ہمیشہ اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں خواہ اس کی پوری کیفیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اس بات پر یقین رکھتے

ہیں کہ اللہ ضرور اعمال و اقوال کا وزن کرے گا۔ ان کی عقل کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہی بات درست ہے ہم نے چونکہ وہ چیزیں دیکھی نہیں اس لئے ہماری سمجھ سے بالا ہیں جب سامنے آئیں گی تو ان کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔

بعض لوگوں نے یہ تاویل کی کہ نامہ ہائے اعمال کا وزن ہو گا، مگر یہ تاویل بھی یہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔

اب تو اعمال و اعراض کی پیمائش کے لئے دنیا میں ہی پیمانے وجود میں آگئے ہیں۔ حرارت، آواز، قوت اور دوسری اعراض کی پیمائش ہو رہی ہے۔ اب تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔

③ مزید فوائد کے لئے دیکھئے حدیث نمبر (۱۳۵۶)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ



مطبوعات دارالاندلس

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| امام ابن حزم اندلسی | * المحلی (اردو) |
| ابویحییٰ محمد زکریا زاہد | * دعوتی نصاب تربیت |
| ابونعمان سیف اللہ | * زاد المجاہد |
| حافظ عبدالسلام | * ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ |
| ابوعمر | * یہ زنجیریں کون توڑے گا؟ |
| قاری شیخ محمد یعقوب | * تفہیم التوحید (ترجمہ کتاب التوحید) |
| ابوالحسن مبشر احمد ربانی | * صلوٰۃ المسلم |
| حافظ عبدالسلام بن محمد | * حصن المسلم |
| حافظ عبدالسلام بن محمد | * مقالات طیبہ |
| ابوالحسن مبشر احمد ربانی | * پردے کی شرعی حیثیت |
| ابوانس حافظ عبدالملک شہید | * جھوٹ ایک معاشرتی ناسور |
| ابوعمر عبدالغفار المدنی | * آداب زندگی |
| ابونعمان سیف اللہ خالد | * ریاض المجاہدین |
| ابواحمد نوید قمر | * مجاہد کی اذال |
| ام حماد | * ہم مائیں لشکر طیبہ کی |
| عبید الرحمن محمدی | * دفاع جہاد |
| محمد بن جمیل زینو | * اسلامی عقیدہ |
| مفتی عبدالرحمن کیلانی | * دفاع حدیث |

- * احکام زکوٰۃ و عشر
- * مسائل عشر پر تحقیقی نظر
- * ٹی وی کے نقصانات
- * احسن الاقوال فی تربیت الاطفال
- * صرف اعدادی
- * جنگ حریت جاری رہے گی
- * صدائے جہاد
- * تکبیر
- * چلو جہاد کوچلیں
- * فتح بین
- * کیا یہ بھی حرام ہے؟
- * شہید کی نماز جنازہ
- * تلاوت قرآن مجید (عبدالرحمن السدیس) امام کعبۃ المکرمۃ (آڈیو کیسٹ)
- * تربیتی اجتماع (برائے کارکنان 2001ء) آڈیو CD
- * جہادی ترانے آڈیو CD
- * خطابات (پروفیسر حافظ محمد سعید) آڈیو CD
- * خطابات (حافظ عبداللہ بہاولپوری، حافظ محمد سعید، حافظ عبدالرحمن کئی)
- دعوتی و جہادی سٹیکرز، پوسٹرز دارالاندلس کے سیل پوائنٹ سے حاصل کریں
- مرکز القادیسیہ: 4 لیک روڈ چوہدری لاہور

فون: 7231106-7240940



آئیے علم حاصل کریں

اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں تو

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ

کے تحت

المعهد العالمی للدعوة الاسلامیہ

مرکز طیبہ مرید کے میں تشریف لائیں

شرائط داخلہ

تعلیم میٹرک یا کم از کم بڈل اور ناظرہ قرآن مجید ہونی چاہئے۔

حافظ قرآن امیدوار کے لئے اردو لکھنے پڑھنے کی استعداد کافی ہے
داخلہ ارشوال سے شروع ہوتا ہے اور امتحان دیکر فارغ ہونے والے

لڑکوں کے لئے یکم ستمبر سے بھی داخلہ ہوتا ہے۔

نوٹ : داخلہ انٹرویو کی بنیاد پر ہوگا

المعهد العالمی للدعوة الاسلامیہ

مرکز طیبہ . مرید کے

فون : (042) 7990497

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

(۷۷۳-۸۵۲ھ)

کی کتاب ”بلوغ المرام من ادلة الاحکام“ متعدد خصوصیات کی بدولت نمایاں اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم میں اس کتاب کو قبول عام فرمایا ہے۔ گزشتہ پانچ صدیوں سے یہ کتاب مشرق و مغرب کے طلباء و علماء کے ہاتھوں کی زینت اور مدارس میں تدریس حدیث کا خزینہ بنتی آئی ہے اس فن (علم الحدیث) کے عالی مقام علماء نے اس کی شروحات و توضیحات کا ہر دور میں اہتمام کیا۔ مختلف زبانوں میں ان کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچی ہے۔ شرح کتاب الجامع اس عظیم ورثے کی آخری کتاب ہے جس میں ناصح اور اذکار کے نبوی شہ پاروں کو فضیلۃ الشیخ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ نے اپنے مخصوص عالمانہ انداز کے ساتھ اردو قالب میں ڈھالا ہے۔ مطالعہ کرتے وقت قاری کی علمی پیاس ترجمہ اور شرح سے بجھتی چلی جاتی ہے

فجزاه اللہ احسن الجزاء

دارالانکلسی